

تربیتِ معتمدی

(سیکرٹریل ٹریننگ)

نور احمد شاد

نظر ثانی
عرفان احمد امتیازی



مقتدرہ قومی زبان

پاکستان

تربیت معتمدی

(سیکرٹریل ٹریننگ)

نور احمد شاد

نظر ثانی
عرفان احمد امتیازی



مقتدرہ قومی زبان * پاکستان
۲۰۰۸ء

کو بہتر طور پر سمجھ سکیں گے اور دفتری امور تیزی سے نپٹانے کے قابل ہو سکیں گے۔
 علاوہ ازیں مختلف تربیتی اداروں میں زیر تربیت سرکاری اہل کار اور افسران بھی ان
 سے مستفید ہو سکیں گے۔ زیر نظر کتاب دفتری اردو کے ماہر جناب نور احمد شاہ نے
 تصنیف کی ہے جو ایک عرصہ سے اس کام کو مشن کے طور پر انجام دے رہے ہیں۔
 ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ اس کتاب کی نظر ثانی ملک کے نامور دانشور اور
 منتظم جناب آئی اے امتیازی نے کی ہے، جو خود پاکستان کی مختلف وزارتوں میں اعلیٰ
 عہدوں پر کام کر چکے ہیں۔ یقین کال ہے کہ اس شعبے سے متعلقہ ہمارے رفقاءے کار
 اس سے یقیناً مستفید ہوں گے۔

عرض مصنف

میں خداوند کریم کا ممنون ہوں کہ اس نے مجھے یہ کتاب لکھنے کی قوت عطا کی۔
 تصنیف و تالیف کے پیشے سے وابستہ لوگ بخوبی جانتے ہیں کہ کتنا طویل سفر طے کر کے
 ایک لفظ دل کے درتچے میں اترتا ہے اور کتنی محنت و لگن کے بعد صفحہ قرطاس پر
 بکھرتا چلا جاتا ہے۔ اس عمل میں، میں کس قدر کامیاب رہا ہوں، اس کا فیصلہ قارئین

پر ہے۔

مجھے سیکرٹریٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ میں دفتری اردو کی تدریس کا طویل تجربہ ہے۔
 تربیت کے دوران میں نے جملہ سرکاری اہل کاروں اور افسران کے اس جذبے کو
 شدت سے محسوس کیا کہ وہ دفتری امور اپنی قومی زبان میں انجام دینے کے خواہاں ہیں
 لیکن اردو میں ایسا مواد نہ ملنے کے سبب وہ اس ضمن میں کچھ کر نہیں سکتے۔

میں نے یہ کتاب محترم رفیق جناب جمشید عالم کی مشاورت سے مرتب کی۔
 میرے لیے یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس کتاب پر نظر ثانی کا کام جناب عرفان احمد
 امتیازی، سابق معتد، حکومت پاکستان نے کیا، جو دفتری امور میں اپنی ایک شناخت
 رکھتے ہیں۔

اس کتاب کی تدوین میں مجھے جن احباب کا تعاون حاصل رہا، ان میں مقدرہ

انتشارات

قومی زبان کے صدر نشین جناب افتخار عارف کا نام سرفہرست ہے۔ میں ان کا یہ دل سے ممنون ہوں کہ ان کی ذاتی دلچسپی کے باعث یہ کتاب مکمل ہوئی۔ ساتھ ہی ساتھ میں جناب عبدالرحیم خان کا بھی ممنون ہوں جنہوں نے اس کتاب کی تدوین میں میرے ساتھ تعاون کیا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اگر ان کا تعاون شامل حال نہ ہوتا تو میں کبھی یہ فریضہ انجام نہ دے سکتا۔ انہوں نے اصطلاحات کی یکسانیت، معیار بندی کے ساتھ مسودے کی نوک پلک درست کرنے میں میرے ساتھ مکمل تعاون کیا۔ اسی طرح میں اس منصوبے کے روح رواں برادر محترم محمد بخش ہاشمی کی محبتوں کا بھی احسان مند ہوں۔

آخر میں، میں اس کتاب کو پڑھنے والے تمام محترم احباب سے درخواست کروں گا کہ جہاں کہیں انھیں کوئی غلطی، نظر آنے، وہ نورا" مجھے آگاہ کریں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کا تدارک کیا جاسکے۔

اسلام آباد

۲۶ جنوری ۱۹۹۹ء

نور احمد شاہ

سکرٹریٹ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ

اسلام آباد

فہرست

۳	پیش لفظ
۵	عرض مصنف
۲۷	باب ۱۔ کیفیت نویسی اور مسودہ نویسی
۲۷	(الف) کیفیت نویسی
۲۷	۱۔ کیفیت نویسی کے کتنے ہیں
۲۸	۲۔ کیفیت نویسی کے مقاصد
۲۹	۳۔ کیفیت نویسی کے فوائد
۲۹	۴۔ کیفیت نویسی کے پہلو
۳۰	۵۔ کیفیت نویسی کی تکنیک
۳۱	(ب) مسودہ نویسی
۳۱	۱۔ مسودہ نویسی کسے کہتے ہیں
۳۱	۲۔ مسودہ نویسی کے تین بنیادی اصول
۳۲	۳۔ مراسلت کی منصوبہ بندی
۳۲	۴۔ عنوانات جمانا

۳۷	۵- عنوانات پر دوبارہ غور کرنا
۳۷	۶- پیراگراف کے عنوانات
۳۸	۷- ترتیبی مراسلے
۳۸	۸- باہر تحریر
۳۸	۹- مراسلت بفرش مطوعات
۳۹	۱۰- مطوعات کی بیم رسانی
۳۹	۱۱- مطوعات کی فراہمی
۳۹	باب-۲ دفتری مراسلت کی اقسام
۴۱	۱- مراسلہ
۴۲	۲- مراسلے کے صے
۴۲	۳- دفتری یادداشت
۴۳	۴- یادداشت
۴۳	۵- نیم سرکاری مراسلہ
۴۳	۶- غیر رسمی کیفیت
۴۳	۷- تلخیر
۴۵	۸- اعلانات
۴۵	۹- قرارداد مقاصد
۴۵	۱۰- اعلامیہ یا اخباری اعلامیہ
۴۵	۱۱- تار اور ٹیلی فون پر نشر پیمائش
۴۶	۱۲- مرسوز تار
۴۷	۱۳- دفتری احکامات
	باب-۳ وزارت خارجہ اور غیر ملکی سفارتخانوں کے مابین مراسلت
۴۹	کی اقسام کا استعمال
۴۹	۱- سفارتی کیفیت نامہ
۴۹	۲- نوٹ و رپتل

۵۰	۳- سفارتی کیفیت نامے کی ترکیب
۵۰	۴- سفارتی مراسلہ
۵۱	۵- نیم سرکاری مراسلہ
۵۱	۶- اعلیٰ یادداشت
۵۳	باب-۳ واضح نویسی
۵۳	۱- واضح نویسی کی تکنیک
۵۶	۲- ساتھ تحریر کے بنیادی اصول
۵۶	(الف) پینٹا اصول
۵۶	(i) مختصر جملے
۵۶	(ii) عام فہم جملے
۵۷	(iii) تقریب کی طوالت
۵۷	(iv) اختصار
۵۸	(ب) دوسرا اصول
۵۸	(i) مفرد اور ساوہ جملے
۵۸	(ii) سبب و کام و کاست اور مختصر اظہار کے لیے رہنما اصول
۵۹	(iii) تنوع کی ضرورت
۵۹	(iv) اختصار
۶۰	(ج) تیسرا اصول
۶۰	(i) مناسب الفاظ
۶۰	(ii) تقریروں میں بلاغ کی ضرورت
۶۱	(iii) بے مقصد الفاظ

(د) چوتھا اصول

- (۱) جملوں کا انداز
(۲) ملانی بندی۔ ذمہ داری کا خوف
(۳) گھبراہٹ اور ذمہ داری کے خوف کے تحت تحریر کرنا
(۴) انتہائی

(۵) پانچواں اصول

- (۱) اپنے خیال میں حقیقت پیدا کریں
(۲) خیالات کو کس طرح ترتیب دیا جائے
(۳) اپنے سامعین اور مقصد کا تعین کر لیں
(۴) کھوشی
(۵) خاکہ
(۶) منظم خیالات پر عمل کریں

باب ۵۔ دفتری خط و کتابت کا دستور العمل

تعارف

حصہ اول: اچھی مراسلہ نویسی کے اجزائے ترکیبی

- ۱۔ ایک مراسلے کا خاکہ
۲۔ افتتاحیہ فقرہ یا پیرا
۳۔ اختتامی فقرہ یا پیرا
۴۔ اہمیت اور وضاحت کی خاطر پیرے تشکیل دینا
۵۔ موزوں لہجے کا استعمال
۶۔ اس امر کا تعین کہ مراسلہ مکمل، مختصر اور درست ہے
۷۔ ذمہ داری کے اقرار سے گریز اور بچاؤ کی ممانعت

حصہ دوم: الفاظ کا انتخاب

- ۱۔ ان سے زیادہ الفاظ استعمال نہ کریں جو آپ کے خیالات کے اظہار کے لیے ضروری ہوں
۲۔ غیر مانوس اور غیر ضروری طویل الفاظ کی جگہ مانوس الفاظ کا استعمال کریں
۳۔ غیر واضح اور مبہم الفاظ کی جگہ ایسے الفاظ استعمال کریں جن کا مطلب واضح ہو
۴۔ رسید کی اطلاع اور بے جا ن مراسلت
۵۔ غیر مستحضر اور بے جا خطوط

باب ۶۔ اجلاسوں اور کانفرنسوں کی روداد نویسی

- ۱۔ تعارف
۲۔ روداد کی ضرورت
۳۔ اجلاس کا رسمی انتظام
۴۔ کارروائی کو ضبط تحریر میں لانا
۵۔ روداد کو تحریر میں لانے کی ترتیب

باب ۷۔ تلخیص نویسی کا ہنر

- ۱۔ تحریر کی دوبارہ تخلیق و تشکیل
۲۔ توضیحی ترجمہ اور اس کا مفہوم
۳۔ خلاصہ
۴۔ تلخیص
۵۔ خلاصے اور تلخیص میں فرق
۶۔ خلاصہ یا تلخیص نویسی کا عمل
۷۔ تلخیص نویسی کے عام اصول
۸۔ سات رہنما اصول
۹۔ تلخیص کا طریقہ

- ۵- بیروی
۶- کرنے اور نہ کرنے کی باتیں
۷- یاد رکھنے کی عمومی باتیں
۸- مراسلاتی نمونے

باب ۲۰ مالیاتی طریق کار

- ۱- اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین سے اقتباس
۲- میزانیہ کاری
۳- افسر مالیات و حسابات
۴- مشیران مالیات
۵- ضوابط ملازمت
۶- مالیاتی منظوریوں
۷- مشیر مالیات، مالیات ڈویژن سے استعواب
۸- مشیران مالیات کا کردار اور اختیارات
۹- تفویض اختیارات
۱۰- انتظامی و ذرائع برڈریژن اور ان کے اختیارات
۱۱- منصوبوں کی منظوری دینے کے اختیارات
۱۲- میزانیاتی طریق کار
۱۳- میزانیہ کی تیاری کے لیے عمومی ہدایات
۱۴- دفاتی اور صوبائی حکومتوں کی وصولیوں اور ادائیگیوں کی درجہ بندی کا چارٹ
۱۵- میزانیہ کی تیاری کے لیے نظام الاوقات اور تفصیلی طریق کار
۱۶- غیر ترقیاتی اخراجات
۱۷- نظر ثانی شدہ تخمینہ جات برائے سال رواں
۱۸- سال رواں کے میزانیہ کے تخمینہ جات
۱۹- ترقیاتی اخراجات کے تخمینہ جات کے زرمبادلہ کے اجزائے ترکیبی
۲۰- ترقیاتی سکیموں کے عملی اہداف

باب ۸ خلاصوں کی تیاری

- ۱- تعارف
۲- حکومت کے دفاتر میں خلاصے
۳- خلاصہ برائے صدر
۴- سول ملازمین کی تقرری، ترقی اور تبادلہ جات
۵- کابینہ کے لیے خلاصہ
۶- خلاصے کی نقول کی تقسیم
۷- گفت و شنید
۸- نفس مضمون میں مالی الجھنیں
۹- قانون سازی کے لیے منظوری
۱۰- معتد کابینہ کو نقول کی ترسیل
۱۱- قومی اقتصادی کونسل کو پیش کرنے کے لیے خلاصہ
۱۲- بین الصوبہ جاتی اور گورنر صاحبان کی مشاورت کے لیے خلاصہ جات
۱۳- معتدین کمیٹیوں، کابینہ کی کمیٹیوں اور اقتصادی کونسل کی مجلس عاملہ کے اجلاس کے لیے خلاصہ جات
۱۴- معتد عملہ کے لیے خلاصہ جات
۱۵- خلاصہ جات برائے وزیر محکمہ
۱۶- پوچیدہ اور طویل معاملات میں خلاصے
۱۷- مسلسل پر موجود معاملے کا خلاصہ
۱۸- ہر قسم کے خلاصہ جات تیار کرنے کا طریق کار

باب ۹ اٹلا کی تکنیک

- ۱- اٹلا کی اہمیت
۲- اٹلا کی بنیادی شرائط
۳- اٹلا کرنے کی تیاری کیسے کی جائے
۴- مختصر نوٹیں کو کب بلا یا جائے

- ۱۳۹۔ گرانٹوں کی اطلاع و تقسیم
 ۱۴۰۔ انضباط اخراجات
 ۱۴۰۔ متوقع بچتوں سے دست برداری
 ۱۴۱۔ رقوم کی تبدیلی
 ۱۴۱۔ ضمنی گرانٹیں
 ۱۴۲۔ حاسبہ رپورٹ اور حسابات مددگی
 ۱۴۳۔ کمیشن برائے سرکاری حسابات

باب-۱۱ وفاقی حکومت کے قواعد خزانہ

- ۱۔ تعارف (قاعدہ-۱)
 ۲۔ سرکاری حساب میں رقوم کا محل وقوع (قاعدہ-۳)
 ۳۔ دیگر افسران زر بر آری و اوائیگی (قاعدہ-۶)
 ۴۔ سرکاری حساب میں محاصل کی اوائیگی (قاعدہ-۷ تا ۱۱)
 ۵۔ سرکاری حساب سے رقوم نکلوانا
 ۶۔ نقدی کی برداشت و گزارشت کے لیے عمومی ہدایات (قاعدہ-۱۶ تا ۲۰)
 ۷۔ سرکاری رقوم کی وصولی (قاعدہ-۲۱ تا ۲۴)
 ۸۔ ادا کنندہ کو رسید دینا (قاعدہ-۲۵ تا ۲۸)
 ۹۔ سرکاری حساب میں رقم کی وائیگی (قاعدہ-۲۹ تا ۳۱)
 ۱۰۔ دعاوی، پیش کرنا (قاعدہ-۳۲ تا ۳۳)
 ۱۱۔ بلوں کی تیاری اور فارم کے بارے میں ہدایات (قاعدہ-۳۴ تا ۳۶)
 بلوں پر دستخط یا تصدیق و دستخط کرنا (قاعدہ-۳۷ تا ۴۱)
 ۱۲۔ بلوں کی شئی نقل (قاعدہ-۴۲ تا ۴۵)
 ۱۳۔ اوائیگی بذریعہ چیک (قاعدہ-۴۶ تا ۴۷)
 ۱۴۔ مطالبات پر پڑتال کا اطلاق (قاعدہ-۴۸ تا ۵۱)
 ۱۵۔ نکلوانے کی رقم کی ذمہ داری (قاعدہ-۵۲ تا ۵۵)
 ۱۶۔ ماہوار تنخواہ بل پیش کرنے کی واجب تاریخ (قاعدہ-۵۶ تا ۵۷)
 ۱۷۔ بلوں سے کٹوتیاں (قاعدہ-۵۸ تا ۶۱)

- ۱۴۳۔ تنخواہ اور الاؤنسوں کی پہلی اوائیگی (قاعدہ-۲۳۰ تا ۲۳۱)
 ۲۰۔ ملازمت چھوڑنے پر اوائیگی (قاعدہ-۲۳۲)
 ۲۱۔ وصول کنندہ کی وفات (قاعدہ-۲۳۳ تا ۲۳۴)
 ۲۲۔ اوائیگی کی جگہ (قاعدہ-۲۳۵ تا ۲۳۶)
 ۲۳۔ مختاروں کے ذریعے تنخواہ، مشاہدہ، رخصت وغیرہ کی اوائیگی (قاعدہ-۲۳۷ تا ۲۳۸)
 ۲۴۔ جریدی سرکاری ملازمین (قاعدہ-۲۳۹ تا ۲۴۱)
 ۲۵۔ غیر جریدی سرکاری ملازمین (قاعدہ-۲۴۲ تا ۲۴۸)
 ۲۶۔ کپیڈ ٹرانزٹ فرمہائے تنخواہ
 ۲۷۔ اتفاقی ضروریات (قاعدہ-۲۴۹ تا ۲۵۱)
 ۲۸۔ مصارف کی قسم بندی (قاعدہ-۲۵۲)
 ۲۹۔ عمومی حدود (قاعدہ-۲۵۳ تا ۲۵۸)
 ۳۰۔ افسر و صوبائیت کی ذمہ داری (قاعدہ-۲۵۹)
 ۳۱۔ افسر مختار کی ذمہ داری (قاعدہ-۲۶۰)
 ۳۲۔ واؤچروں کی تشخیص اور تلفی (قاعدہ-۲۶۱ تا ۲۶۲)
 ۳۳۔ اتفاقی اخراجات کا اندراج (قاعدہ-۲۶۳ تا ۲۶۴)
 ۳۴۔ اتفاقی اخراجات کے بل (قاعدہ-۲۶۵ تا ۲۶۸)
 ۳۵۔ سرکاری ڈاک گھنٹیں (قاعدہ-۲۶۹)

باب-۱۲ عمومی مالیاتی قواعد

- ۱۔ تمہید
 ۲۔ رقوم کی وصولی سے متعلق عمومی اصول
 ۳۔ سرکاری حساب سے رقوم نکلوانا
 ۴۔ مالیاتی سوزنیت کا معیار
 ۵۔ اخراجات پر محرمانہ
 ۶۔ سبے ضابطگیوں، ضیاع اور دھوکہ دہی کے خلاف اندرونی پڑتال
 ۷۔ معاہدے کے لیے عمومی اصول

۲۲۵	۳۲- دورے کے دوران سفر کے لیے پیشگی	۲۵	۸- عین اور نقصانات
۲۲۷	باب- ۳۳ بنیادی قواعد	۲۶	۹- محاصل اور وصولیاں
۲۲۷	۱- پہلے تقرر پر تصدیق نامہ صحت پیش کرنا (بنیادی قاعدہ- ۱۰)	۲۷	۱۰- منظوری کے اختیارات
۲۲۸	۲- ملازمت کے دوران طبی معائنہ (بنیادی قاعدہ- ۱۱م/الف)	۲۸	۱۱- ایڈجسٹمنٹ منظوری کی اطلاع مراسلت
۲۲۹	۳- کل وقتی ملازمت (بنیادی قاعدہ- ۱۱)	۲۹	۱۲- عملہ اور اس کے اخراجات
۲۳۰	۴- حق عود (بنیادی قاعدہ- ۱۲، ۱۳)	۳۰	۱۳- انتقال دفتر
۲۳۳	۵- ایک اسامی سے دوسری اسامی پر چولہہ (بنیادی قاعدہ- ۱۵)	۳۱	۱۴- تاریخ پیدائش
۲۳۴	۶- کفالتی فڈ میں چندہ وراثہ (بنیادی قاعدہ- ۱۶)	۳۱	۱۵- رخصت کی درخواستیں
۲۳۴	۷- اسامی کی میعاد (بنیادی قاعدہ- ۱۷)	۳۲	۱۶- تقرر نامے
۲۳۴	۸- غیر حاضری (بنیادی قاعدہ- ۱۸)	۳۲	۱۷- بھالیات کے دعوے
۲۳۵	۹- تنخواہ کا تعین	۳۳	۱۸- اتفاقاً اخراجات، ذخائر اور اتفاقاً اخراجات کی منظوری کے بارے
۲۳۸	۱۰- اضافے کی وصولی (بنیادی قاعدہ- ۲۳)	۳۳	میں ماتحت افسران مجاز کے اختیارات
	۱۱- وہ شرائط جن پر ملازمت اضافے کے لیے شمار کی جاتی ہے	۳۳	۱۹- مستقل پیشگی (ایمپوسٹ)
۲۳۸	(بنیادی قاعدہ- ۲۶)	۳۴	۲۰- مشور (سامان) کی خریداری اور حصول
۲۴۰	۱۲- پیشگی اضافہ جات کی منظوری (بنیادی قاعدہ- ۲۷)	۳۵	۲۱- سامان کی وصولی
	۱۳- چلی آسامی، حزلی، یا حزلی میں تخفیف پر تنخواہ کا تعین	۳۵	۲۲- سامان کا اجراء
۲۴۱	(بنیادی قاعدہ- ۲۸، ۲۹)	۳۶	۲۳- سامان کی تحویل اور حسابات
۲۴۱	۱۴- قائم مقامی کی پابندی	۳۶	۲۴- عملی پڑتال
۲۴۲	۱۵- ذاتی تنخواہ کا ابجداب (بنیادی قاعدہ- ۳۰)	۳۷	۲۵- سامان کی فروخت اور اس کو ٹھکانے لگانا
۲۴۸	۱۶- پیش روی (Move over)	۳۸	۲۶- قرضے اور بیٹگیان
۲۴۸	۱۷- حالات ترقی کی کیساں تاریخ	۳۸	۲۷- عام شرائط
۲۵۰	۱۸- ترقی پر تنخواہ کا تعین	۳۹	۲۸- تعمیر مکان کے لیے بیٹگیان
۲۵۲	۱۹- فیس اور اعزازیہ (بنیادی قاعدہ- ۳۱، ۳۲)	۳۹	۲۹- سواری کی خریداری کے لیے پیشگی
۲۵۳	۲۰- برطانی (بنیادی قاعدہ- ۵۲)	۳۹	۳۰- موٹر کار خریدنے کے لیے پیشگی
۲۵۳	۲۱- مستقل اور بھالی (بنیادی قاعدہ- ۵۳، ۵۴)	۴۲	۳۱- موٹر سائیکل خریدنے کے لیے پیشگی
۲۵۷	۲۲- ایکٹ سول ملازمین ۱۹۷۳ء کے تحت جبری ریٹائرمنٹ	۴۲	۳۲- ہائیکل خریدنے کے لیے پیشگی
		۴۵	۳۳- چولہہ کی صورت میں پیشگی

- ۲۳۔ سہلت حاضری (بنیادی قواعد۔ ۱۰۸۱۰۵) ۲۵۹
 ۲۴۔ دوسرے مقام پر تبادلہ ۲۶۳
 ۲۵۔ عمومی احکام (ذیلی قواعد۔ ۲۰۲۱۲۹۶) ۲۶۲

باب۔ ۴۲۔ ضمنی قواعد

(الف) سفری الاؤنس

- ۱۔ سفر کی نوعیت ۲۶۹
 ۲۔ زمہات سرکاری ملازمین (ضمنی قواعد۔ ۲۰۱۷۱) ۲۷۰
 ۳۔ میلان الاؤنس (ضمنی قواعد۔ ۲۸۱۲۹۷) ۲۷۲
 ۴۔ ریل کے ذریعے سفر ۲۷۲
 ۵۔ سمندری یا دریا کی سیر کے ذریعے سفر ۲۷۳
 ۶۔ سربزریعہ سڑک ۲۷۴
 ۷۔ طریق سفر اور شرح الاؤنس ۲۷۴
 ۸۔ علاقے اور شرح الاؤنس ۲۷۶
 ۹۔ سربزریعہ طیارہ ۲۷۷
 ۱۰۔ روزانہ الاؤنس (ضمنی قواعد۔ ۳۹) ۲۷۷
 ۱۱۔ تبادلہ پر سفر: منظوری کی عمومی شرائط (قواعد۔ ۲۹۱۱۲۹۱) ۲۸۱
 ۱۲۔ فارغ خدمتی کے بعد سفر ۲۹۰

(ب) پاکستان سے باہر واقع مقامات کے لیے بیکار سرکار روانہ ہونے والے سرکاری ملازمین کے لیے قابل منظوری سفری الاؤنس ۲۹۵

باب۔ ۴۵۔ قواعد عمومی کفالتی فنڈ (مرکزی ملازمین)

- ۱۔ فنڈ کی تشکیل ۲۹۹
 ۲۔ چندہ دہندگان کا حساب ۲۹۹
 ۳۔ چندے کی شرائط اور ان کی شرح ۳۰۰

- ۳۰۰۔ عمومی کفالتی فنڈ ۳۰۰
 ۳۰۲۔ نامزدگیاں ۳۰۲
 ۳۰۲۔ سو ۳۰۲
 ۳۰۲۔ فنڈ سے پیشگی ۳۰۲
 ۳۱۔ بیمہ پالیسیوں کے لیے ادائیگیاں ۳۱
 ۳۱۔ جمع رقوم کی قطعی بازخواست ۳۱
 ۳۲۔ جمع شدہ رقوم کا تحفظ ۳۲
 ۳۳۔ درجہ چہارم کے ملازمین پر قواعد کفالتی فنڈ کا اطلاق ۳۳

باب۔ ۴۶۔ قواعد رخصت

- ۱۔ عنوان (بنیادی قواعد۔ ۶۱۱۶۱) ۳۱۷
 ۲۔ رخصت کے دوران ملازمت (بنیادی قواعد۔ ۶۹) ۳۱۸
 ۳۔ طبی تصدیق نامے پر رخصت سے واپسی (بنیادی قواعد۔ ۷۱) ۳۱۸
 ۴۔ رخصت کا سوخت ہونا (بنیادی قواعد۔ ۸۶) ۳۱۹
 ۵۔ تعطیلات کا ساتھ ہونا (ضمنی قواعد۔ ۲۹۱۲۰۹) ۳۱۹
 ۶۔ حساب رخصت (بنیادی قواعد۔ ۷۶) ۳۱۹
 ۷۔ رخصت معذوری (بنیادی قواعد۔ ۸۳) ۳۲۰
 ۸۔ رخصت تعلیمی (بنیادی قواعد۔ ۸۳ اور جلد دوم کا ضمیمہ۔ ۹) ۳۲۱
 ۹۔ انتقالی رخصت ۳۲۱
 ۱۰۔ رخصت قرینیت (ضمیمہ۔ ۳ بنیادی قواعد اور ضمنی قواعد جلد دوم) ۳۲۲
 ۱۱۔ حکام مجاز جنہیں رخصت منظور کرنے کا اختیار ہے (ضمنی قواعد۔ ۶۰۱۶۰۱ تا ۶۰۷) ۳۲۲
 ۱۲۔ طبی تصدیق نامے پر رخصت (ضمنی قواعد۔ ۲۲۰ تا ۲۲۱) ۳۲۳
 ۱۳۔ رخصت کی منظوری (ضمنی قواعد۔ ۲۲۳ تا ۲۲۴) ۳۲۳
 ۱۴۔ نظر ثانی شدہ قواعد رخصت (۱۹۸۰ء) ۳۲۵
 ۱۵۔ نگرانی جاتی تعطیلات ۳۲۵
 ۱۶۔ رخصت کی منظوری ۳۲۶

- ۲۲۸-۱۷- رخصت زوجگی
 ۲۲۸-۱۸- غیر معمولی رخصت (بلا تنخواہ)
 ۲۲۹-۱۹- رخصت قبل از فارغ خدمتی کی نقد ادائیگی
 ۲۳۰-۲۰- وفات دوران ملازمت
 ۲۳۰-۲۱- رخصت کے وجود کے اظہار کی ضرورت نہیں
 ۲۳۱-۲۲- رخصت کا آغاز/ اختتام
 ۲۳۱-۲۳- رخصت سے باطلگی
 ۲۳۱-۲۴- منظور شدہ رخصت کے بعد زائد قیام
 ۲۳۲-۲۵- رخصت کی تنخواہ
 ۲۳۲-۲۶- رخصت بیرون پاکستان
 ۲۳۳-۲۷- مختلف اقسام کی رخصتوں کو ملانا
 ۲۳۳-۲۸- حساب رخصت کا فارم پر کرنے کے لیے تشریحی ہدایات

باب ۱۷ قواعد پیشن

- ۲۳۷-۱- پیشن کی قسم کی بندی
 ۲۳۸-۲- پیشن مفدوری
 ۲۳۸-۳- پیشن پیرانہ سال
 ۲۳۸-۴- پیشن فارغ خدمتی
 ۲۴۰-۵- اہلیتی ملازمت کی شرائط
 ۲۴۲-۶- انتظامات اور ملازمت میں کمی کی معافی
 ۲۴۲-۷- مواجب جو پیشن کے لیے شمار ہوتے ہیں
 ۲۴۵-۸- اوسط یافت
 ۲۴۶-۹- پیشن کی رقم
 ۲۴۸-۱۰- پیشن کی شرح اور پیمانہ
 ۲۵۰-۱۱- پیشن کتبہ
 ۲۵۰-۱۲- پیشن مع انعامیہ سکیم
 ۲۵۵-۱۳- تعویض پیشن

- ۳۵۶-۱۴- جدول تعویض
 ۳۵۸-۱۵- متوقع پیشن
 ۳۵۹-۱۶- پیشن زخم خوردگی معصرت و غیر معمولی
 ۳۶۳-۱۷- کاغذات پیشن کی تیاری اور پیشن کی منظوری
 ۳۶۷-۱۸- پیشن کے جلد تصفیہ کے لیے اقدامات
 ۳۶۸-۱۹- تصدیق نامہ آخری تنخواہ
 ۳۶۹-۲۰- قاعدہ تناسب
 ۳۶۹-۲۱- منسلک جات:
 (الف) سرکاری ملازم کے فارغ خدمت ہونے پر پیشن کے لیے مطلوبہ دستاویزات
 (ب) دوران ملازمت سرکاری ملازم کی وفات کی صورت میں بیوہ کی پیشن کے لیے مطلوبہ دستاویزات
 (ج) جب سرکاری ملازم فارغ خدمتی کے بعد فوت ہو جائے

باب ۱۸- وفاقی سیکرٹریٹ میں دفتری امور نمٹانے کے قواعد کار ۱۹۷۳ء کے قاعدہ ۵(۱۵) کی تعمیل میں جاری کردہ ہدایات

- ۳۷۳-۱- ہدایات معتدی
 ۳۷۳-۲- تقسیم کار
 ۳۷۸-۳- تصفیہ کار
 ۳۷۹-۴- کیفیتوں کی ریکارڈنگ اور مسودہ جات کی تیاری
 ۳۸۰-۵- وفاقی سیکرٹریٹ کے دفتری عمل کے فرائض
 ۳۸۲-۶- وقتی اضافی چارج اور قائم مقامی چارج پر تقرریاں
 ۳۸۷-۷- اعلیٰ اسٹیپنڈیوں کا وقتی چارج رکھنے والے افسران کا اصل عمدہ
 ۳۸۷-۸- اضافی چارج کی تقرریاں
 ۳۹-۹- قائم مقامی چارج کی بنیاد پر تقرری
 ۳۹۲-۱۰- دیگر مختصر دورانیہ کی تقرریاں

۱۱۔ ایک سے زائد حقیقی اسمیوں کا چارج رکھنے پر اضافی الاؤنس کی منظوری

باب ۱۹۔ پالیسی برائے ترقی

- ۱۔ ترقی کے لیے قانونی ڈھانچے اور اس کا طریقہ کار
- ۲۔ حکمرانہ ترقی کے لیے رہنما اصول
- ۳۔ تقدم اہلیت کی بنیاد پر ترقی
- ۴۔ درجہ خاص کی اسمیوں پر ترقی
- ۵۔ چار خصوصی کیڈرز
- ۶۔ خفیہ رپورٹوں کی کیت

باب ۲۰۔ قواعد (طرز عمل) سرکاری ملازمین مجریہ ۱۹۶۳ء

- ۱۔ مختصر تعارف
- ۲۔ مختصر نام اور آغاز
- ۳۔ وسعت اور اطلاق
- ۴۔ تعریضات
- ۵۔ سابقہ قواعد کی منسوخی
- ۶۔ تھائف
- ۷۔ غیر ملکی اعزازات کی قبولیت
- ۸۔ سرکاری ملازمین کے اعزاز میں اجلاس منعقد کرنا
- ۹۔ افسرانِ طب کو تحفہ
- ۱۰۔ پنڈے
- ۱۱۔ ادھار کا لین دین
- ۱۲۔ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت
- ۱۳۔ مکان کی تعمیر وغیرہ
- ۱۴۔ اعلان جائیداد
- ۱۵۔ منقولہ وغیر منقولہ اور مانع جائیداد ظاہر کرنا

- ۲۲۹۔ ۱۶۔ قیاسی تجارت اور بیوپار میں لگائی ہوئی رقم
- ۲۲۹۔ ۱۷۔ کمپنیوں کا انتظام اور ترقی
- ۲۳۰۔ ۱۸۔ پرائیویٹ تجارت، نوکری یا کام
- ۲۳۱۔ ۱۹۔ دیوالیہ پن اور عادی مقروض
- ۲۳۱۔ ۲۰۔ جرم میں لوٹ ہونے اور سزا دی کی اطلاع
- ۲۳۱۔ ۲۱۔ دفتری دستاویزات یا معلومات کی غیر مجاز خبر رسائی
- ۲۳۲۔ ۲۲۔ ممبران اسمبلی تک رسائی
- ۲۳۲۔ ۲۳۔ اخبارات اور رسالہ جات کا انتظام وغیرہ
- ۲۳۲۔ ۲۴۔ ریڈیو کی نشریات یا ٹیلیوژن پروگرام اور پریس کی خبر رسائی
- ۲۳۲۔ ۲۵۔ اطلاع یا تقریر کی اشاعت جو حکومت کے لیے باعث پریشانی ہو
- ۲۳۳۔ ۲۶۔ کمیشنوں کے روبرو شہادت
- ۲۳۳۔ ۲۷۔ انتخابات اور سیاست میں حصہ لینا
- ۲۳۵۔ ۲۸۔ اقریاء پروری، جانبداری اور ظلم وغیرہ
- ۲۳۵۔ ۲۹۔ سرکاری ملازمین کی طرف سے عوامی کردار کی پشت پناہی
- ۲۳۵۔ ۳۰۔ سروس اجمنوں کی رکبیت
- ۲۳۶۔ ۳۱۔ غیر سیاسی تنظیموں کی رکبیت
- ۲۳۷۔ ۳۲۔ سیاسی یا دوسرے اثرورسوخ کا استعمال
- ۲۳۷۔ ۳۳۔ غیر ملکی مشینوں اور امداد دینے والی ایجنسیوں تک رسائی
- ۲۳۷۔ ۳۴۔ تفویض اختیار
- ۲۳۷۔ ۳۵۔ ضوابط کسی بھی قانون کی تحقیر نہیں کرنے

باب ۲۱۔ بھرتی کی پالیسی (حکمت عملی)

- ۱۔ وفاقی حکومت، خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کے تحت
- ۲۔ سول اسمیوں کی بھرتی کے لیے صوبائی اور علاقائی کوڈ
- ۳۔ وفاقی حکومت کے تحت سول اسمیوں پر بھرتی کے لیے
- ۴۔ صوبائی علاقائی کوڈ
- ۵۔ وفاقی حکومت کے تحت خواتین کی بھرتی کے لیے ۵ فی صد کوڈ کا تعین

- ۴۴۲- خود مختار نیم خود مختار اداروں میں اسامیوں پر بھرتی کے لیے
صوبائی علاقائی کوئٹہ
- ۴۴۳- بھرتی کی پالیسی
- ۴۴۴- صوبائی کوئٹہ کا خود مختار نیم خود مختار اداروں پر اطلاق
- ۴۴۵- فی الوقتی تقرری کا صوبائی علاقائی کوئٹہ پر اطلاق
- ۴۴۵- سرکاری ملازمت میں داخل ہونے کے بعد ڈوی سائل کی تبدیلی
- ۴۴۷- این ڈبلیو ایف پی (صوبائی کوئٹہ جات کا اطلاق)
- ۴۴۷- بہاولپور ڈویژن (صوبائی کوئٹہ جات کا اطلاق)
- ۴۴۸- علیحدہ کرہ آسامیاں (صوبائی علاقائی کوئٹہ جات پر اطلاق)
- ۴۵۰- شمالی علاقہ جات (صوبائی کوئٹہ جات کا اطلاق)
- ۴۵۰- بلوچستان (صوبائی کوئٹہ جات کا اطلاق)
- ۴۵۰- وفاقی اسامیوں پر بھرتی امیدواروں کے لیے اپنے والدین کی
جائے پیدائش کا ظاہر کرنا
- ۴۵۴- سرکاری ملازمت میں آنے کے بعد ڈوی سائل میں تبدیلی
- ۴۵۴- آبائی گاؤں کا خصوصی اعلان

باب-۲۲ قواعد (اہلیت و انضباط) سرکاری ملازمین ۱۹۷۳

- ۴۵۹- ۱- مختصر نام، آواز اور اطلاق
- ۴۵۹- ۲- تعریفات
- ۴۶۰- ۳- بنیاد پر موجد سزا
- ۴۶۱- ۴- تاوان سزائیں
- ۴۶۳- ۵- تفتیش کا طریق کار
- ۴۶۳- ۶- انکوائری آفیسر اور انکوائری کمیٹی کے لیے طریق کار
- ۴۶۴- ۷- انکوائری آفیسر اور انکوائری کمیٹی کے اختیارات
- ۴۶۵- ۸- ایسے معاملات جن میں قاعدہ ۵ کا اطلاق نہیں ہوتا
- ۴۶۶- ۹- صوبائی حکومت میں مستعار خدمتی پر مامور افسران کے خلاف
انکوائری کا طریق کار

- ۴۶۶- ۱۰- اپیل
- ۴۶۷- ۱۱- تفتیش قواعد (اہلیت و انضباط)
- ۴۶۷- ۱۲- وفاقی سیکرٹریٹ کے ملازمین سے متعلق (قواعد اہلیت و انضباط)
کے قاعدہ ۲ کے تحت حاکم مجاز اور آفیسر مجاز کا تقرر
- ۴۶۸- ۱۳- قواعد (اہلیت و انضباط) سرکاری ملازمین ۱۹۷۳ کے
تحت کارروائی کے لیے لوازمات کی پڑنا

باب-۲۳ مستقلی کے لیے قانونی گنجائش

- ۴۷۳- ۱- سرکاری ملازمین کی مستقلی کے قواعد و ضوابط
- ۴۸۷- ۲- سٹاف کارڈ رائیو رولز ہر کاروں کی مستقلی
- ۴۷۹- ۳- مختلف اسامیوں پر مستقلی کے لیے حکام مجاز
- ۴۸۰- ۴- مستقلی کے عمومی قواعد

باب-۲۴ تقدم (سنیاریتی)

- ۴۸۵- ۱- قانونی گنجائش
- ۴۸۶- ۲- براہ راست بھرتی یا بذریعہ ترقی پر فائز
ملازمین کے قواعد تقدم
- ۴۸۷- ۳- درجہ دوم سے درجہ اول پر ترقی کی صورت میں تقدم کا تعین
- ۴۸۸- ۴- تقدم کے عام اصول
- ۴۹۱- ۵- بلحاظ سکیل فرسٹ تقدم کی تیاری

باب-۲۵ انتظامیہ

- ۴۹۵- ۱- تعارف
- ۴۹۶- ۲- انتظام عملہ (برسائل ایڈ منسٹریشن)
- ۵۰۰- ۳- انتظام عملہ کیوں؟

- ۳۔ انتظام عملہ کا شاہانہ نظام
۵۔ انتظام عملہ کے بنیادی اصول
۶۔ نظام قسم بندی

۵۰۱

۵۰۳

۵۰۵

باب ۱

کیفیت نویسی اور مسودہ نویسی

(الف) کیفیت نویسی

۱۔ کیفیت نویسی کسے کہتے ہیں

کیفیت نویسی سے مراد ایک مسل پر ایسی تحریر ہے جو بوجہ طریق کار کی حدود کے اندر رہتے ہوئے کسی معاملے کے تھپنے میں سموت مہیا کرے۔ کسی مسل پر کیفیت صرف اس معاملے میں نکھی جاتی ہے جس کو افسر بالا کی خدمت میں بمعرض احکام پیش کرنا مطلوب ہو۔ ایسی صورت میں متعلقہ افسر مندرجہ ذیل امور کا ترتیب وار اظہار کرے گا۔

(الف) مسئلہ زیر غور اور حقائق معاملہ (افسر کو چاہیے کہ وہ کاغذ زیر غور یا دیگر وزارتوں اور ڈویژنوں کے اشارات میں کسی غلطی، فردگذاشت یا حقائق کے متعلق غلط بیانی کی نشاندہی کرے۔

(ب) معاملے کو پھانے کے لیے وہ قانون یا رسمی طریق کار جن میں اختیار کیا جانا چاہیے۔

۲۔ مسودہ نویسی کے اصول

(ج) وہ قواعد و ضوابط جن کا تعلق معاملے سے ہو۔

(د) متعلقہ حقائق یا اعداد و شمار

(ه) فیصلہ طلب نکات اور کارروائی کا مجوزہ طریقہ

(و) کیفیت کسی معاملے کے حتمی تصفیے یا فیصلے پر متبج ہوتی ہے۔

۱۔ تمام کیفیت نویسی اور اوراق کیفیت پر کی جائے۔ کوئی کیفیت یا تصریح موصول کاغذات پر درج نہ کی جائے۔ اگر کسی افسر بلا لائے موصول کاغذات پر کچھ تصریحات پہلے ہی درج کر دی ہوں تو انہیں کیفیت نامے پر نقل کر لیا جائے۔ اس سے پیشتر کہ کیفیت نوٹیا کا آغاز کیا جائے، کیفیت نویسی افسر اپنی تصریحات کے آخر میں کاغذ کی دائیں جانب اپنے دستخط ثبت کرے، اس کے دستخطوں کے نیچے اس کا نام، عہدہ اور ٹیلی فون نمبر یا تو ٹائپ کیا جائے یا ریڈ کی مرگاکر ظاہر کیا جائے۔

۲۔ تمام مندرجہ ذیل صورتوں میں متعلقہ افسر کو کسی مفصل کیفیت نویسی کی ضرورت نہیں۔

(i) ایسی عہدید جس کے متعلق وہ کسی واضح نظیر کی رو سے یا ایسے قائمہ احکام کے تحت جن میں اسے ایسے معاملات پر فیصلہ دینے کے خصوصی اختیارات تفویض کیے گئے ہوں، اپنے فیصلے خود کرنے کا مجاز ہو۔

(ii) ایسی صورت میں جہاں کسی افسر اعلیٰ نے اس سے پیشتر واضح طریق عمل میں کسی افسر اعلیٰ کو صرف مسودہ پیش کرنا ہو، بجز اس کے کہ اسے کسی اہم معاملے کے متعلق نشانہ دہی کرنی مطلوب ہو۔

۳۔ کیفیت نویسی کے مقاصد

(i) کیفیت نویسی کا مقصد یہ ہے کہ کسی فیصلہ طلب مخصوص موضوع، تجویز، مسئلے یا سوال کو سمجھنا اور ذہن نشین کرنا۔

(ii) متعلقہ حقائق کا مطالعہ کرنے اور جائزہ لینے کے بعد واضح اور جمل حقائق کا

اندراج اور سابقہ فیصلوں، نظائر، مراسلات اور قواعد و ضوابط کا حوالہ دینا۔

(iii) ان نکات کی صراحت کرنا، جن پر فیصلہ مطلوب ہو۔

(iv) مثبت طریق کارروائی تجویز کرنا۔

۳۔ کیفیت نویسی کے فوائد

کیفیت نویسی کے فوائد مندرجہ ذیل ہیں:

(i) ایک کیفیت نویسی واضح خاطر میں کسی معاملے کے اہم اور فوری نوعیت کے پہلوؤں پر غور کر سکتا ہے۔

(ii) مسئلہ زیر بحث کے نتائج اور امکانات کے بارے میں وہ اچھی طرح سوچ سکتا ہے اور ان کا صاف صاف اظہار کر سکتا ہے، اور اس طرح مختلف ممکن طریق

ہائے کار میں سے کسی ایک کو درست سمجھ کر منتخب کرنے کے حق میں صحیح

دعوہات و دلائل تحریر کر سکتا ہے۔

(iii) کیفیت میں بحث اور فیصلوں کو محفوظ کر لیا جاتا ہے جو مستقبل میں بطور نظیر

پیش کیے جاسکتے ہیں۔

(iv) تحریر شدہ کارروائیوں کی بنا پر کسی بعد کی تاریخ میں ضرورت پڑنے پر اس

امر کی نشان دہی کرنا ممکن ہوتا ہے کہ کسی خاص فیصلے کی ذمہ داری کس پر ہے۔

(v) کیفیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کیا کیا گیا اور اس اقدام سے کیا فائدہ حاصل

کیا گیا۔

(vi) کیفیت نویسی کی وجہ سے معاملے کو وہاں سے شروع کیا جاسکتا ہے، جہاں

ان سے پہلے دوسروں نے اسے چھوڑا تھا۔

(vii) کیفیات معلومات کا ذخیرہ فراہم کرتی ہیں۔

۴۔ کیفیت نویسی کے پہلو

کیفیت نویسی کے دو پہلو ہیں (i) فنی اور (ii) لسانی۔ پہلے رخ کو کیفیت نویسی

کے فن کا نام بھی دیا جا سکتا ہے۔ دوسرے پہلو کا تعلق زبان کے درست استعمال اور جملوں یا الفاظ کے درست انتخاب سے ہے جن میں اسلوب، محاورات اور گرامر وغیرہ شامل ہیں۔

۵۔ کیفیت نویسی کی تکنیک

(الف) کیفیت کی ترکیب

کسی بھی کیفیت کے درج ذیل تین اہم حصے ہوتے ہیں

(۱) زیر غور موضوعات یا سوالوں کے اندراجات کا پہلا فقرہ یا پیرا

(۲) اہم نکات سے متعلق آرا یا جائزہ

(۳) اختتامیہ، فیصلہ یا سفارشات

۱۔ کیفیت کے افتتاحیہ فقرے یا پیرا گراف میں براہ راست اس مسئلے کا اظہار ہو جانا چاہیے جس پر غور کرنا مقصود ہو۔ اگر کسی زیر غور کاغذ یا تازہ رسید میں طویل اور پیچیدہ معاملہ مرقوم ہو، تو افتتاحیہ پیرے میں اس کی تلخیص دے دی جائے مگر کسی بھی حالت میں اسے نقل نہ کیا جائے، زیر غور موضوع کے تمام نکات واضح اور منطقی ترتیب سے تحریر کیے جائیں۔

۲۔ کیفیت نامے کا دوسرا حصہ بہت اہم ہے۔ اس میں ایک سے زیادہ پیرے ہو سکتے ہیں اور اس میں اہم نکات پر بحث یا جائزہ تحریر کیا جاتا ہے۔ نیز اس میں تمام متعلقہ حقائق، تقاریر یا دلائل یا کسی خاص نتیجے یا طریق کارروائی کے حق میں اور خلاف دلائل و وجوہ بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ امر ملحوظ خاطر رہے کہ تصدیقات میں درج کردہ تمام بیانات درست ہوں اور ان کی تائید میں دستاویزی شہادت شامل ہو۔

۳۔ آخری پیرے میں بحث کا خلاصہ دیا جاتا ہے۔ اختتامیہ ایک فیصلے، سفارش یا مشورے کی صورت میں ہو سکتا ہے مگر ہر صورت میں مثبت، قطعی اور غیر مبہم

ہونا چاہیے۔ اگر ایک سے زائد طریقہ ہائے عمل تجویز کیے گئے ہوں تو ان میں سے ہر ایک کو ٹھیک ٹھیک بیان کیا جائے۔

ب۔ بری کیفیت

۱۔ کیفیت نویسی میں غیر ضروری تفصیلات بیان کرنا بہت بڑی خرابی ہے۔ یہ ذہن نشین رہنا چاہیے کہ کاغذ زیر غور یا تازہ رسید متصل بالا افرجے سے یہ پیش کیے جا رہے ہیں، ان کا مطالعہ کرے گا۔

۲۔ کاغذات زیر غور یا تازہ رسید کو محض نقل کر دینا یا پیرا بندی سے اصل مقصد حاصل نہیں ہوتا، اس سے وقت ضائع ہوتا ہے۔

۳۔ کیفیت میں غیر ضروری تفصیلات شامل نہ کی جائیں اور موضوع کے اہم نکات سے انحراف نہ کیا جائے، یہ بات انتہائی ناپسندیدہ ہے کہ معمول کی نوعیت کی کیفیت کے ذریعے کسی خاص معاملے سے متعلق اہم مباحث کو بے ترتیب کر دیا جائے جنہیں خاص ترتیب سے کیفیتوں میں تحریر کیا جا رہا ہے۔ یہ بات اہم موضوعات سے توجہ ہٹا دیتی ہے اور فکری ترتیب میں غلط انداز ہوتی ہے۔ تاہم اگر کیفیتوں میں کچھ معلومات یا حقائق کا شامل کرنا قطعی ناگزیر ہو تو ان معلومات یا حقائق پر مشتمل ایک کیفیت نامہ یا تیار مسل میں کیفیتوں کے نیچے رکھ کر اس پر موزوں پرچی لگا دی جائے۔ غلط بیان کی تحریر یا غیر صدقہ حقائق کے اندراج یا سطحی اور بظاہر خوش نما دلائل بیان کرنے سے غلط فیصلہ ہو سکتا ہے اور متعلقہ افرجے مشکل صورت حال سے دوچار ہو سکتا ہے۔

ج۔ کیفیت نویسی کا انداز

تمام کیفیات معتدل، معروضی اور ذاتی رائے زنی سے مبرا ہونی چاہئیں۔ اگر کسی دلیل پر تنقید مقصود ہو یا کسی بیان کی عدم صحت کی طرف نشاندہی مطلوب ہو، تو اس کے اظہار کے لیے صحیح جملوں اور الفاظ کے انتخاب میں کافی

اعتیاد کرنی چاہیے، تاکہ تنقید تکبر، تحکم اور کج خلقی کا مظہر نہ بن جائے۔

(۱) اچھی کیفیت نویسی کی خصوصیات

اجمالی طور پر ایک اچھی کیفیت میں مندرجہ ذیل خصوصیات کا ہونا ضروری ہے:

(۱) اس میں معاملہ زیر بحث کے متعلق تمام مواد موجود ہونا چاہیے مگر اس میں حقائق، دلائل، الفاظ اور جملوں کے تکرار سے پرہیز کرنا چاہیے۔

(۱) اس میں قانون اور معمول کے طریق کار کی وضاحت ہوتی ہے، جسے زیر بحث مسئلہ پر کارروائی کے لیے اختیار کیا جائے۔

(۲) اس کو دستاویزات اور حوالہ جات سے مزین کیا گیا ہو، تمام سابقہ کاغذات،

نظارے، قواعد و ضوابط، احکام وغیرہ جن پر کیفیت نامے میں بھروسہ کیا گیا ہو، جہاں تک ممکن ہو، ہمراہ پیش ہوں اور حاشیے میں حوالہ جات کی واضح نشاندہی کی گئی

ہو۔

(۴) کیفیت نامے میں بیان کردہ حقائق حقیقت سے متعلق ہوں۔

(۷) بیان میں ترتیب کا ہونا ضروری ہے۔ ایسے نکات جن کا ابتدا میں تذکرہ

ضروری ہو، ابتدا میں بیان کیے جائیں اور جن کا بیان آخر میں ضروری ہو، وہ

آخر میں آنے چاہئیں۔ ایک غیر مربوط حقائق کا بیان پڑھنے والے کو پریشان کرے

گا اور اس کے ذہن پر بوجھ کا باعث بنے گا۔ خیالات کی منطقی ترتیب ایک مربوط

ذہن کی پیداوار ہے، یہ ایک ایسی عادت ہے جسے مشق اور سوچنی سمجھی کوشش

سے حاصل کرنا چاہیے۔ ایک غلط طرز فکر سے بری اور الجھی ہوئی تحریر معرض

وجود میں آتی ہے۔

(۷) کیفیت میں انداز تحریر واضح، مختصر اور سادہ ہونا چاہیے۔ طویل جملے اور

ثقیل الفاظ کے استعمال سے گریز کرنا چاہیے۔ اسی طرح غیر زبانوں کے ناموں

محاوروں اور جملوں سے بھی پرہیز کیا جائے۔

(۷) کیفیت کے تمام بیروں پر شروع سے مسلسل نمبر لگائے جانے چاہئیں۔

(۵) اختتام

کسی کیفیت کا اختتام بھی بہت اہم ہوتا ہے۔ اسے ابہام سے بالکل پاک ہونا

چاہیے اور فیصلے کے نکات واضح طور پر بیان ہونے چاہئیں۔ سفارشات، فیصلے یا تجویز

کردہ راہ عمل کو اس میں مختصر اور درست طور پر بیان کرنا چاہیے۔

(ب) مسودہ نویسی

۱۔ مسودہ نویسی کسے کہتے ہیں

۱۔ ایسے معاملات جہاں مراسلوں کا اجراء لازمی ہو، متعلقہ افسر کو اپنے کیفیت

نامے کے ساتھ مراسلہ کا مسودہ افسر بالا کی منظوری کے لیے منسلک کرنا چاہیے۔

افسر بالا اگر مناسب سمجھے، تو اپنی مرضی کے مطابق ایک مسودہ خود تیار کرے اور

اس کے اجراء کا اختیار دے دے یا اپنے افسر اعلیٰ کو بغرض منظوری پیش کر دے،

جیسی بھی صورت ہو۔

۲۔ واضح کیفیت نویسی واضح مسودات کی رہنمائی کرتی ہے۔ مسودہ نویس اپنے

مراسلات میں صحت اور وضاحت اسی صورت میں پیدا کر سکتا ہے، جبکہ کیفیت

نامے واضح طور پر لکھے گئے ہوں اور صاف صاف سمجھ میں آتے ہوں۔

۳۔ زیادہ تر لوگ خواہ وہ حکومت میں ہوں یا حکومت کے دفاتر سے باہر، سادہ اور

براہ راست ذریعہ اظہار کو پسند کرتے ہیں۔ ایک ایسی تحریر جو غیر واضح اور مبہم

ہو، وقت کے ضیاع کا باعث ہوتی ہے اور اس سے دولت بھی ضائع ہوتی ہے۔

ایک ایسا سرکاری ملازم جو اپنے خیالات کا سادہ اور عام فہم زبان میں اظہار نہیں

کر سکتا، حکومت کے لیے گراں ملازم ثابت ہوتا ہے۔ وہ ہر ایک کو ابہام میں

جٹلا کرتا ہے اور کام کی روانی اور کارکردگی میں رخنہ انداز ہوتا ہے۔

۴۔ اس لیے مسودے کی زبان صاف، واضح، براہ راست اور غلط تعبیرات سے

پاک ہونی چاہیے۔ طویل فقرے، بے ربطی، الفاظ کی فضول بھرمار، مبالغہ آمیزی،

خیال اور الفاظ کی تکرار سے جہاں تک ممکن ہو بچا جائے۔

۵۔ مسودے کی تیاری میں مندرجہ ذیل نکات کو ذہن میں رکھا جائے:

(i) ایک مسودے کو سطروں میں دہرا فاصلہ چھوڑ کر لکھنا، بلکہ ترجیحاً "ٹائپ کرنا چاہیے اور درج کے دونوں صفحات کو استعمال کرنا چاہیے۔ اغلاط کی درستی اور اضافے کے لیے کافی چوڑا حاشیہ چھوڑنا چاہیے۔

(ii) ہر مسودے پر متعلقہ ڈائری نمبر یا مسل نمبر اور موضوع لکھے جاتے ہیں۔ مکتوب الیہ کے مراسلے کا جواز نمبر اگر موجود ہو تو بعد کے مراسلے میں ہمیشہ دیا جاتا ہے۔

(iii) اگر ایک ہی مسل کے نمبر پر اسی روز ایک سے زیادہ ایک ہی مکتوب الیہ کو مراسلات یا اعلانیے وغیرہ جاری کیے گئے ہوں، تو اہتمام سے بچنے کے لیے مسل نمبر کے علاوہ نمبر سلسلہ بھی ضرور دیا جائے مثلاً "۱-۲- (الف) ۶۰- انتظامیہ۔"

(iv) مسودہ میں ان تمام منسلکات کی وضاحت ہونی چاہیے جو اصل کاپی کے ساتھ بھیجے جا رہے ہوں۔ ٹائپ کرنے والے کو متوجہ کرنے کے لیے حاشیے میں ایک آڑی لکیر لگا دینی چاہیے۔

(v) مسودے کے منسلکات کی تعداد آخر میں صفحے کے دائیں طرف درج کر دینی چاہیے۔

(vi) اگر منسلکات کی نقول موجود ہوں اور ان کو ٹائپ کرنے کی ضرورت نہ ہو تو ٹائپ کار کی رہنمائی کے لیے اس بات کی مسودے کے حاشیے میں وضاحت کر دینی چاہیے۔

(vii) اگر یہ معلوم ہو کہ مکتوب الیہ افسر کو زیادہ نقول کی ضرورت ہوگی تو ان کی تعداد کا ذکر بھی مسودے کے حاشیے میں کر دیا جائے۔

(viii) یہ افسر جس کے دستخطوں کے تحت مراسلے کا اجرا ہوتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مسودے پر اپنی منظوری کی علامت کے طور پر اپنے منظم دستخط مع تاریخ ثبت کر دے، مسودے میں اس افسر کا عہدہ بھی ہمیشہ لکھا جاتا ہے۔

(ix) مراسلے کی ایک واضح اور صاف کاربن نقش شامل مسل کر لی جائے، اس پر اس سے پیشتر کہ اس مسل پر کوئی اور کارروائی کی جائے، حوالے درج کیے جاتے ہیں۔

(x) مسودے پر ترجیح کا مناسب نشان یعنی "رہائش" "نوری" یا "تقدم" کا نشان لگایا جائے۔ اگر کاغذات کی بذریعہ خصوصی قاصد ترسیل مطلوب ہو، یا ان کا اجراء بذریعہ "رجسٹری" یا "تصدیق نامہ ڈاک" مقصود ہو، یا بطور "مجمعی تقسیم" یا بذریعہ "ہوائی ڈاک" بھیجنا مقصود ہو، تو شعبہ ترسیل کی رہنمائی کے لیے مسودے پر مطلوبہ ہدایات بھی لکھ دینی چاہئیں تاکہ فوری عملدرآمد کو یقینی بنایا جاسکے۔

۴۔ مسودہ نویسی کے تین بنیادی اصول

(الف) مراسلے کے لکھنے کا مطلب دور فاصلے سے گفتگو بذریعہ تحریر ہے۔ سب سے پہلے لکھنے والے کو اس کا احساس ہونا چاہیے کہ دوسرے سرے پر بھی ایک فرد موجود ہے، جو مراسلے کو وصول کرے گا، پڑھے گا اور اس کے مندرجات سے خوش ہو گا، دلچسپی لے گا، تنگ آ جائے گا، بیزار ہو گا، پریشان ہو جائے گا یا رنجیدہ ہو گا۔

(ب) لکھنے سے پہلے موضوع پر بہت اچھی طرح غور کر لینا چاہیے، ورنہ بے ربط اور گنڈھ تحریر کی صورت میں نتیجہ برآمد ہو گا، پس واضح اظہار کے لیے واضح خیال ضروری ہے۔

(ج) طویل، لمبے ہوئے اور پیچ در پیچ مراسلات سے بچ پڑھنے والے کا وقت ضائع کرتے ہوں اور اسے ناراض کر دیں، بچنا چاہیے۔ ایک صاف سیدھا مراسلہ جس میں سادہ زبان کا استعمال کیا گیا ہو، توجہ مبذول کرانے اور مطلوبہ کارروائی کا بہترین موقع فراہم کرنا ہے۔

اہم حصے:

ابتدائی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ قدرے طویل مراسلے کے تین اہم حصے ہوتے ہیں، یعنی آغاز، متن اور اختتام۔ ہر حصے کا ایک نمایاں مقصد ہوتا ہے، جس کے حصول کی خاطر اسے تحریر کیا جانا چاہیے۔

(۱) آغاز: ابتدائی پیراگراف اس معاملے کے متعلق جس پر عمل درآمد مقصود ہو، ایک براہ راست اور واضح بیان ہونا چاہیے۔ گول مول اور پیچیدہ آغاز بالعموم پڑھنے والے کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرانے سے قاصر رہتا ہے اور اگر اس کی توجہ اور دلچسپی کو حاصل نہ کیا جائے اور شروع ہی میں گرفت میں نہ لیا جائے تو بعد میں یہ کبھی بھی حاصل نہیں کی جا سکتی۔

(۲) متن: یہ مراسلے کا مرکزی حصہ ہوتا ہے اور اس میں ایک سے زیادہ پیرے ہو سکتے ہیں۔ ایک مراسلے کے متن میں بعض حقائق اور اطلاعات کی فراہمی مقصود ہوتی ہے، یا ضرورت کے مطابق کسی اطلاع کی بہم رسانی کے لیے درخواست کی جاتی ہے، کوئی سفارش یا کوئی حکم یا فیصلہ جس کا پہنچایا جانا مطلوب ہو یا اسباب کا بیان یا کسی معاملے پر کسی فیصلے تک پہنچنے کے لیے بحث کی تھیں، جسے مکتوب الیہ تک پہنچانا مطلوب ہو، درج ہوتی ہے۔ اگر ایک مراسلے میں کسی معاملات و مسائل کا ذکر کیا گیا ہے، تو ان کو نمایاں اور علیحدہ علیحدہ بیروں میں لکھا جائے۔ جو کچھ کہ خیالات، حقائق اور تصورات کی ترتیب کے متعلق کیفیت نویسی کے تحت لکھا گیا ہے، وہ مراسلے کے بیروں پر بھی اتنا ہی واجب الاطلاق ہے۔

(۳) اختتام: متن کا انجام بھی اتنا ہی اہم ہے، جتنا کہ آغاز، کیونکہ اختتامیہ پڑھنے والے کے ذہن پر ایک حتمی نشی چھوڑ جاتا ہے۔ کمزور اور بے وقعت اختتامیہ ہمیشہ بے کار ہوتا ہے۔ طویل اور پیچیدہ مراسلات کے اختتامیہ میں بالعموم اہم نکات یا نتائج کی تھیں بھی درج کر دینی چاہیے۔

۴۔ عنوانات جمانا

مراسلات میں شامل کیے جانے والے مطلوبہ نکات کو مختصر ترین الفاظ میں یا نکل اسی طرح لکھ لیں جس طرح وہ ذہن میں آئیں یا جس طرح تقریر یا کسی اہم انٹرویو کے وقت انھیں ترتیب دیا جاتا ہے۔

اگر کسی مراسلے کی بنیاد ان فیصلوں یا احکام پر رکھی گئی ہو، جو کیفیت نویسی میں دیے گئے ہوں تو ان کا انتخاب کر لیجیے۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہنا مقصود ہے کہ عبارت آرائی کے حسن و خوبی سے پہلے مراسلے کے مضمون کو اہمیت دیجیے۔

۵۔ عنوانات پر دوبارہ غور کرنا

ان امور کو یقینی بنانے کے لیے، نکات کی فہرست بطور عنوانات پر نظر ثانی کی ضرورت ہے: (الف) کیا ہر وہ شے جس کا مراسلہ میں ذکر ضروری ہے، شامل کر لی گئی ہے۔ (ب) کیا نکات کی ترتیب ان کی اہمیت کے اعتبار سے درست ہے؟ اس بات کا امکان ہے کہ انھیں دوبارہ ترتیب دینا پڑے؟ اس صورت میں:

- (۱) فرد گزشتوں سے بچ جائیں گے۔
- (۲) بالآخر مراسلے کے مضمون کی اٹھان، ترتیب اور تاثر کے اعتبار سے درست ہو جائے گی۔

اس سچ پر مشق کرنے سے جلد ہی ذہن منطقی اعتبار سے سوچنے کا عادی ہو جائے گا اور آہستہ آہستہ نکات کی آزمائشی ترتیب یا ابتدائی مسودہ نویسی کی ضرورت جاتی رہے گی، ماسوائے اس کے کہ کوئی ایسا مراسلہ تحریر کرنا پڑے، جو پیچیدہ اور الجھے ہوئے معاملات سے بحث کرتا ہو۔

۶۔ پیراگراف کے عنوانات

اکثر اوقات ایک مراسلے میں غیر متعلقہ موضوعات یا ان کے حصے شامل کرنے

پڑتے ہیں۔ ایسی صورتوں میں بیروں کے عنوانات قائم کرنا وضاحت کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ طویل مراسلوں کے لیے ایسا کرنا لازمی ہوتا ہے تاکہ مضمون کے ہر حصے کی علیحدہ علیحدہ نشاندہی ہو سکے اور اس کا تجزیہ اور سمجھنا آسان ہو جائے۔

۷۔ ترسیلی مراسلے

ایک طویل مراسلے سے کبھی کبھی مختصر ترسیلی تصریحات لکھ کر بچا جا سکتا ہے، یہ فی الواقع ایک عمدہ ایجاد ہے، بالخصوص ایسی صورتوں میں جب کہ کئی سوالات کی دریافت یا جوابات مطلوب ہوں یا ایسی صورت میں جبکہ کافی طویل اطلاعات کا وہاں مقصود ہو، پڑھنے والا اپنے سامنے ایک مختصر مراسلہ پاتا ہے اور اس طرح جلد ہی اصل موضوع سے متعارف ہو جاتا ہے۔ اور اس امر کو سمجھنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ فی الواقع اس سے کیا مطلب لیا جا رہا ہے۔

۸۔ مابعد تحریر

مراسلے کے اختتام پر کوئی بات بطور نوٹ کے لکھنا پسندیدہ امر نہیں ہے۔ اس سے مراسلے کے تنظیمی حسن و خوبی کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس سے لکھنے والے کی لاپرواہی ظاہر ہوتی ہے اور اس کی منظم و منطقی سوچ اور کسی خاص حقیقت یا خیال کو اس کی اصل جگہ پر بٹھانے کی اہلیت پر حرف آتا ہے۔

۹۔ مراسلت بغرض معلومات

اس عنوان کے تحت ایک وسیع اور بہت سی اقسام کے مراسلات آتے ہیں، جن کا میدان پوشیدہ ہے، لیکن ان معلوماتی مراسلات کی تحریر کو منضبط کرنے کے اصول بہت سادہ ہیں۔

۱۰۔ معلومات کی بہم رسانی

سب سے پہلے یہ امر ذہن نشین کر لینا چاہیے کہ اطلاعات کی بہم رسانی کے مراسلے اگر غلط، نامکمل اور مبہم ہوں، تو بے فائدہ ہیں۔ اس لیے معلومات کی بہم رسانی کے لیے کیفیت نویسی کے وقت مطلوبہ اطلاع کے تمام پہلوؤں کو احتیاط سے مد نظر رکھا جائے۔ جب مطلوبہ مواد جمع ہو جائے اور اس کی اچھی طرح سے تصدیق و توثیق کر لی جائے تو اسے بہترین طریقے سے ضبط تحریر میں لانے کے لیے اس پر چند منٹ کے لیے غور کرنا مفید ثابت ہو گا۔ ایسے معاملات میں اکثر ایک ترسیلی مراسلہ باعث سہولت ہوتا ہے، مگر فیصلہ ہمیشہ پڑھنے والے کی سہولت کو مد نظر رکھ کر کیا جانا چاہیے۔ ہر پیرے کے لیے عنوانات مقرر کرنا مفید ہوتا ہے اور کاغذات کی حسن ترتیب لازمی ہے۔ اگر کسی اطلاع کی صحت کے متعلق ذرا سا بھی شک ہو تو اس کا مناسب الفاظ میں اظہار کر دینا چاہیے۔

۱۱۔ معلومات کی فراہمی

مطلوبہ معلومات پر مشتمل مراسلات میں دو بڑی خامیاں ہوتی ہیں، ایک ابہام اور دوسری فردگراشیں۔ بعض معلومات یا حقائق کی فراہمی صحیح بروقت اور اس کے عین مطابق ہونی چاہیے، اگر معلومات فراہم کرنے والا تحریر کرنے سے پہلے ان پر اچھی طرح سوچ بچار کر لے تو اس سے نہ صرف وہ اپنی قیمتی وقت ضائع ہونے سے بچا لیتا ہے بلکہ دوسرے افراد بھی کسی ممکنہ نقصان سے محفوظ رہتے ہیں۔

دفتری مراسلت کی اقسام

ایک وزارت یا ڈویژن کی طرف سے جاری کردہ مراسلت کی قسم مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک ہوتی ہے۔

۱۔ مراسلہ

ایک سرکاری مراسلہ جو حکومت پاکستان کے خیالات یا احکام کی ترسیل کی غرض سے تحریر کیا گیا ہو، اس میں یہ واضح طور پر لکھا جائے کہ یہ حکومت کی ہدایت کے مطابق لکھا جا رہا ہے۔ اسے مندرجہ ذیل صورتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔
(الف) ان تمام رسمی منظوریوں اور مراسلات کے لیے جو صوبائی حکومتوں، عوامی اداروں یا عام افراد کو جاری کیے گئے ہوں۔

(ب) حکومت کی رسمی منظوریوں کی ملحقہ اور ماتحت دفاتر کی اطلاع کے لیے۔
مگر خط و کتابت کی یہ قسم حکومت پاکستان کی مختلف قسموں کے مابین خط و کتابت میں استعمال نہ کی جائے۔

۲۔ مراسلے کے حصے

- ایک مراسلے کے مندرجہ ذیل حصے ہوتے ہیں:
- (الف) مراسلے کا سرنامہ جس پر ”حکومت پاکستان“ کے الفاظ اور قسمت رکھنے کے نام درج ہوتے ہیں۔
- (ب) مراسلے کے اجراء کا نمبر اور تاریخ
- (ج) بھیجنے والے کا نام اور عہدہ
- (د) مکتوب الیہ کا عہدہ اور پتہ
- (ه) موضوع
- (و) القاب
- (ز) مراسلے کا اصل متن (فہم مضمون)

(ح) اختتامیہ

(ط) بھیجنے والے کے دستخط، عہدہ اور ٹیلیفون نمبر، جو سرکاری کام کو لکھے جائیں، ان کا آغاز ”جناب عالی“ سے اور اختتام ”آپ کا خادم“ کے الفاظ سے ہونا چاہیے۔

وہ مراسلات جو غیر سرکاری افراد کو یا افراد کے کسی گروہ کو لکھے جائیں تو ان کا آغاز ”عزیز من“ یا ”عزیزان گرامی“ کے تنظیمی کلمات سے کیا جائے اور اختتام میں ”آپ کا مخلص“، ”صادق“ یا ”آپ کا وفادار“ کے کلمات درج کیے جائیں، جن کے بعد دستخط، عہدہ وغیرہ حسب دستور لکھا جائے۔

ایسے خطوط جو حکومت کی ہدایت پر نہ لکھے گئے ہوں، ان کے آغاز میں گزارش کرتا ہوں“ کے الفاظ سے کرنا چاہیے، ان میں حسب ہدایت گزارش کرتا ہوں“ نہ لکھا جائے۔

۳۔ دفتری یادداشت

(الف) مراسلات کی یہ قسم وزارتوں، ریڈیو، ٹیلیوینوں کے درمیان خط و کتابت

کے لیے استعمال ہوتی ہے۔

(ب) اس کے ذریعے ملحقہ اداروں کو ضروری معلومات اور ہدایات ارسال کی جاتی ہیں، مگر اس کے ذریعے سے انہیں احکام جاری نہیں کیے جاتے۔ اس میں ہمیشہ صیغہ واحد غائب استعمال کیا جائے اور اس پر تنظیمی یا اختتامی تنظیمی کلمات درج نہ کیے جائیں۔

آخر میں بھیجنے والے کے دستخط اور اس کا عہدہ درج کیا جاتا ہے۔ قسمت یا ملحقہ رکھنے کا نام (اگر ضروری ہو تو متعلقہ افسر کا نام اور عہدہ) نیچے بائیں طرف درج کیا جائے۔ دفتری یادداشت جو حکومت کی ہدایات کے تحت جاری کی گئی ہو، اس کا آغاز ”حسب ہدایت راقم گزارش کرتا ہے“ کے الفاظ سے کیا جائے۔

۴۔ یادداشت

مراسلت کی یہ قسم مندرجہ ذیل کاموں کے لیے استعمال کی جاتی ہے:

(الف) دو ریڈیو ٹیلیوینوں کے مابین ملحقہ اور ملحقہ دفاتروں سے مراسلت کے لیے۔

(ب) عرضداشتوں اور تقرر کے لیے درخواستوں وغیرہ کے جواب میں۔

(ج) تادیبی معاملات یعنی فرد جرم کے اجراء، نوٹس برائے اظہار وجہ وغیرہ کے لیے۔

(د) مراسلہ تحریر کرتے ہوئے ان باتوں کی احتیاط کرنا ہے جو ضروری ہے۔

○ ایک سطر چھوڑ کر اس میں صیغہ واحد غائب استعمال کیا جائے۔

○ ایک سطر چھوڑ کر اس میں آغاز و اختتام کے تنظیمی کلمات درج نہ کیے جائیں، ماسوائے ارسال کنندہ افسر کے دستخطوں اور عہدہ کے۔

○ ایک سطر چھوڑ کر مکتوب الیہ کا نام نیچے بائیں جانب لکھا جائے۔

یادداشت اس طرح شروع ہوتی ہے: ”بحوالہ مذکورہ بالا موضوع پر

عرضداشتہ مراسلہ نمبر مورخہ۔“

۵۔ نیم سرکاری مراسلہ

مراسلات کی یہ قسم اس وقت اختیار کی جائے جب کسی معاملے میں مکتوب الیہ افسر کی ذاتی توجہ درکار ہو۔ ایک نیم سرکاری خط کا اجراء ایسی صورت میں واجب ہو جاتا ہے جب یہ سمجھا جائے کہ دوسری قسمت میں کسی معاملے پر کارروائی یا عمل درآمد کئی یا دو ہفتوں اور درخواستوں کے باوجود خاصی تاخیر کا شکار ہو گیا ہے۔

نیم سرکاری خط میں مکتوب الیہ افسر کو نام سے مخاطب کیا جائے گا۔ اسے ضمیر مخاطب میں لکھا جائے گا اور ”مکرمی یا مکرمی جناب“ کے کلمات سے شروع کر کے مکتوب الیہ کا نام لکھا جائے اور ”آپ کا مخلص“ کے کلمات پر ختم کیا جائے گا۔ ”مکرمی“ اپنے ہم رتبہ یا ایک درجہ بالا افسر کے لیے لکھا جاتا ہے اور اگر مکتوب الیہ دو یا زیادہ درجے اعلیٰ عہدے پر فائز ہو تو ”مکرمی جناب“ لکھنا مناسب ہو گا۔

○ ارسال کنندہ کا نام اور عہدہ سرنامے کے نیچے درج کیا جاتا ہے۔

○ ارسال کنندہ افسر کا ٹیلی فون نمبر بلا استثنا درج کیا جائے۔

○ مکتوب الیہ کا نام اور عہدہ مراسلے کے نیچے بائیں طرف درج کیا جاتا ہے۔

۶۔ غیر رسمی کیفیت

غیر رسمی کیفیت مسل ہی پر یا علیحدہ کیفیت نامے کی صورت میں لکھی جاتی ہے۔

مشورے کا یہ طریق وزارتوں، ڈویژنوں کے ساتھ خط و کتابت کے لیے استعمال کیا جائے

اور ملحقہ محکمہ جات اس کے ساتھ بھی جب اجازت ہو۔

۷۔ تنظیہ

یہ صورت اس وقت اختیار کی جائے گی جبکہ کسی مراسلے کی نقول مکتوب الیہ

کے علاوہ دیگر دفاتر افسران کو بھی ارسال کرنی مقصود ہوں۔

تنظیر کے لیے مندرجہ ذیل میں سے کوئی ایک صورت اختیار کی جائے گی۔

”ایک نقل (مع نقل مراسلہ جس کا جواب دیا گیا ہے) و راہنمائی رہنمائی مناسب کارروائی رہنمائی تعمیل ارسال کی جاتی ہے۔“

۸۔ اعلانات

مراسلت کی یہ شکل جریدہ پاکستان میں پاکستان کے آرڈیننس آئینی قوانین، احکام، تقریریں، ترقی، رخصت اور تبادلے متعلقہ افسران بنیادی پیمانہ تنخواہ M و بلا دیگر ضروری معاملات کی اشاعت کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔

۹۔ قرار داد مقاضد

حکومت کی اہم پالیسیوں سے متعلق فیصلے، مختلف مقاصد کے لیے کمیٹیوں یا کمیشنوں کا قیام یا ان کی سفارشات، اہم رپورٹوں وغیرہ کی جریدہ پاکستان میں شائع کرنے کے لیے مراسلت کی یہ شکل استعمال کی جاتی ہے۔

۱۰۔ اعلامیہ یا اخباری اعلانیہ

جب حکومت کے کسی فیصلے کی تشریح مطلوب ہو تو اس ضمن میں اعلامیہ یا اخباری اعلانیہ جاری کیا جاتا ہے۔ یہ بالعموم محکمہ اطلاعات کے مشورے سے تیار اور اس کی طرف سے جاری کیا جاتا ہے۔

۱۱۔ تار اور ٹیلی فون پر نشریہ نامت

صرف اتنا جلدی کی صورت میں تار کا اجراء کیا جائے، چونکہ ہوائی ڈاک کا انتظام موجود ہے، اس لیے جب تک موزوں ترجیحات کے نشان کے مراسلات سے کام نکل سکتا ہے، تار دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ جہاں ٹیلی پرنٹر کی سہولت موجود ہو

وہاں اس سہولت سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے اور اسے تار اور ٹیلیفون پر ترجیح دی جائے۔ اگر کسی پیغام میں اعداد کی ترسیل ضروری ہو تو ہندسوں کی بجائے الفاظ کا استعمال کیا جائے، یعنی ۱۹۳۶۵ کی جگہ انیس ہزار تین سو بیسٹھ لکھا جائے۔ اگر مزید احتیاط درکار ہو تو ”جس کا دگنا اڑتیس ہزار سات سو تیس ہے“ کا اضافہ کیا جائے۔

پیغامات کے لیے ترجیحات کا تعین اس طرح ہے۔ عام، تعمیلی، فوری، اہم اور انتہائی فوری۔ اس کی ٹائپ شدہ نقل پر صاف وضاحت کر دی جائے۔ ”فوری“ اور ”انتہائی فوری“ تار صرف معتمد اور شریک معتمد کی اجازت سے دی جاتی ہیں۔ تمام صورتوں میں ماسوائے مرموز تاروں کے مکتوب ایہ کو ٹائپ شدہ نقل ارسال کی جائیں

۳۳۔ مرموز تار

جب کسی تار کے لیے رمز نویسی کا ذریعہ اختیار کیا جائے تو پیغام کا مسودہ عام زبان میں تیار کیا جائے نہ کہ تار کی زبان میں، بہر حال یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ الفاظ کی بھرا سے بچا جائے۔ مرموز تار پاکستان مرکز رمز نویسی کی معرفت ارسال کیا جائے۔

وزارت خارجہ کی طرف سے اس قسم کے تاروں کے لیے درجہ بندی، تدوین اور نمبر شماری کے متعلق جاری کردہ ہدایات کی احتیاط سے پابندی کی جائے۔ مرموز تاروں کی نقول بذریعہ ڈاک قطعاً ارسال نہ کی جائیں۔ مرموز تاریں جاری کرنے سے حتیٰ الوسع گریز کیا جائے۔ (الف) کیونکہ وہ بہت ہنگامی ہوتی ہیں۔

(ب) ان کو رمز میں تبدیل کرنے میں تاخیر ہو جاتی ہے اور

(ج) ان کے بلا امتیاز استعمال سے رمز نویسی کے افشا ہونے کا احتمال ہے۔

۳۳۔ دفتری احکامات

مراسلات کی یہ صورت درجہ ایک سے چدرہ تک کے ملازمین کے تقرر، ترقی، تعیناتی، تبادلوں اور رخصت کے احکامات کے متعلق اختیار کی جاتی ہے۔

وزارت خارجہ اور غیر ملکی سفارت خانوں کے مابین مراسلت کی اقسام کا استعمال

۱۔ سفارتی کیفیت نامہ

سفارتی کیفیت نامہ مراسلت کی وہ قسم ہے جو وزارت خارجہ اور غیر ملکی سفارت خانوں کے درمیان خط و کتابت کی صورت اختیار کی جاتی ہے یا دو مختلف ممالک کی وزارت ہائے خارجہ کے مابین وہ خط و کتابت اور مراسلت جو بوقت ضرورت اختیار کی جاتی ہے۔

۲۔ نوٹ درجیل

یہ لاطینی اصطلاح ”نوٹ درجیل“ کی انگریزی شکل ہے۔ سفارتی کیفیت نامہ اور نوٹ درجیل کے انداز تحریر میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یہ اصطلاح بالعموم غیر ملکی سفارت خانوں اور وزارت خارجہ کے مابین خط و کتابت کے لیے استعمال کی جاتی ہے اور سفارتی کیفیت نامے ہی کی ایک متبادل صورت ہے۔

(۱) سفارتی کیفیت نامہ چھپے ہوئے ورق پر لکھا جاتا ہے۔

(۲) اس میں صیغہ واحد غائب استعمال کیا جاتا ہے۔

(۳) اس پر نمبر اور تاریخ کا اندازہ ہوتا ہے۔

واضح نویسی

۱۔ واضح نویسی کی تکنیک

انشاء ایک فن ہے مگر جب اسے ابلاغ کی غرض سے لکھا جائے تو یہ ہنر یا سائنس کہلانے کے قریب پہنچ جاتا ہے۔ وقافت کی زیادہ تر تحریریں بڑی گنجلک ہوتی ہیں۔ اس کے اسباب مندرجہ ذیل ہیں

- (i) اہل کارانہ رویہ : دفتر کی بگڑی ہوئی زبان
- (ii) لفاظی : طویل نویسی، کھوکھلے الفاظ کا طویل مجموعہ
- (iii) بھرتی : غیر ضروری الفاظ اور جملوں کا استعمال
- (iv) پہلو پچانا : مبہم بیانات
- (v) اعادہ : بے جا تکرار

(vi) ایسے محاورات

اور جملے استعمال

کرنا جو زبان مروجہ

یعنی انگریزی میں

دوسری زبانوں سے

آئے ہیں۔

(vi) گھسے پنے

اور فرسودہ جملے

مثال نمبر ۱

دھندلی تحریر

اگر سازو سامان نوشت و خواند کی بہم
رسانی آپ کی ضروریات کو پورا کرنے
کے لیے ناکافی ہو تو مہربانی فرما کر دفتر پڑا
کو تازہ مانگ بھیج دیجیے (۲۸- الفاظ)

مثال نمبر ۲

صارفین میں بنیادی ضرورت پر مواتر
اصرار کر رہے ہیں کہ قیمتوں کے
ڈھانچے کو موجودہ قیمتوں سے کم سطح پر
مستحکم کیا جائے۔ (۲۳- الفاظ)

واضح تحریر

اگر سامان نوشت کی مزید ضرورت ہو تو
طلب فرمائیں (۹- الفاظ)

صارفین کا مطالبہ ہے کہ قیمتیں کم ہوں
اور مستحکم رہیں۔ (۱۱- الفاظ)

دھندلی تحریریں بلعموم بالعموم کی عادت بن جاتی ہیں۔ وہ اپنی سوچ اور چلن میں
بہت زیادہ پر تکلف بن جاتے ہیں اور نمود و نمائش کا رجحان رکھتے ہیں۔ جبکہ بچے اپنے
برتاؤ میں بہت زیادہ مخلص اور اظہار خیال میں سادہ مزاج ہوتے ہیں۔ ذیل میں ایک
بچے کا رد عمل درج کیا جاتا ہے، جب اسے ایک پرندے اور حیوان پر مضمون لکھنے کے
لئے کہا گیا تھا۔

”جس پرندے کے متعلق میں لکھنا چاہتا ہوں، وہ الو ہے۔ الو دن کو بالکل نہیں
دیکھ سکتا اور رات چمگاڑ کی طرح بالکل اندھا ہوتا ہے۔“

”میں الو کے متعلق کچھ زیادہ نہیں جانتا، لہذا اب میں ایک اور حیوان کا
انتخاب کر رہا ہوں، وہ ایک گائے ہے۔ گائے ایک دودھ پلانے والا جانور ہے، اس کے
چہرے پہلو ہوتے ہیں۔ دایاں، بائیں، اوپر اور نیچے۔ اس کی پچھلی طرف ایک دم ہوتی

ہے، جس کے ساتھ وہ ایک برش لٹکائے رکھتی ہے۔ اس کی مدد سے وہ کھینوں کو دور
بھگاتی ہے تاکہ وہ دودھ میں نہ گریں۔ اس کے سر کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس پر سینگ
اگائے اور یہ بھی کہ منہ کو بھی ایک مقام مل جائے۔ سینگ نکریں مارنے کے لیے
ہوتے ہیں اور منہ چلانے کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے نیچے گائے دودھ لٹکائے رکھتی ہے۔
یہ دودھ لٹکانے کے لیے میا کیے گئے ہیں۔ جب لوگ دودھ نکالتے ہیں تو دودھ آ جانا
ہے اور اس کی بہم رسانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ گائے اس طرح کیسے کر لیتی ہے۔ مجھے
ابھی تک اس کا پتہ نہیں چلا۔ مگر یہ زیادہ سے زیادہ بتاتی رہتی ہے۔ گائے میں سو گھنٹے
کی عمدہ حس ہوتی ہے، اسے دور سے سو گھنٹا جا سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ ملک میں تازہ
ہوا کی ضرورت ہوتی ہے۔

”گائے کا مرد بتیل ہے۔ یہ دودھ پلانے والا جانور نہیں ہے۔ گائے بہت زیادہ
نہیں کھاتی، مگر جو کچھ بھی وہ کھاتی ہے اسے دوبار کھاتی ہے۔ اسی وجہ سے اسے کافی
مل جاتا ہے۔ جب یہ بھوکی ہوتی ہے تو ڈکارتی ہے۔ جب یہ خاموش ہوتی ہے تو اس کا
مطلب یہ ہے کہ اس کا پیٹ اس سے خوب بھرا ہوا ہے۔“

(سرارنٹ گوور کی کتاب ”واضح الفاظ“ سے ماخوذ)

اس بچے کے پاس کہنے کے لیے کچھ مواد تھا، جو اس نے صاف صاف کہ ڈالا
اور یوں اس نے ایک اسلوب حاصل کر لیا۔

ایک مستعد ذہن وہ ہے جو کسی پیچیدہ مسئلے کو فوری طور پر سمجھ لے اور پھر اس
کا مفہوم سادہ اور سہل زبان میں دوسروں کو سمجھا سکے لہذا واضح مختصر اور واضح لکھنے
کے لیے ہمیں اپنے اذہان کی تربیت کرنی چاہیے۔ تاکہ ہم تفصیلات سے گزرتے ہوئے
اپنے موضوع کے مغز تک پہنچ سکیں۔ اچھی تحریر کی بنیاد درست الفاظ کا درست مقام
پر استعمال ہے۔

واضح اسلوب واضح خیال کا متبادل نہیں ہو سکتا بلکہ یہ دونوں ساتھ ساتھ چلتے
ہیں۔ ایک طرف واضح فکر، واضح اسلوب کی طرف راہنمائی کرتا ہے، دوسری طرف
اپنی تحریروں کے جھنک الفاظ کو نظر انداز کرنا واضح سوچ کا بہترین طریقہ ہے۔

بعض بیانے ایسے موجود ہیں جن کی مدد سے ہم اس کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ ہماری تحریر قابل مطالعہ ہے یا نہیں۔ یہ بیانے ذیل میں درج کیے جاتے ہیں:-

- ہر فقرے کی الفاظ کے لحاظ سے اوسط طوالت
- ارکانِ تنجی کے حساب سے ہر فقرے کی اوسط طوالت
- ہر پیرے میں فقروں کی تعداد
- مفرد فقروں کی تعداد
- حرف جار سے متعلق فقروں کی تعداد
- آسان اور عام فہم الفاظ کی تعداد
- مجرور الفاظ کا تناسب
- بڑے الفاظ کا تناسب

۲۔ سادہ تحریر کے بنیادی اصول

(الف) پہلا اصول

(i) مختصر جملے

فقروں کو مختصر رکھیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا قاری آکٹاٹھ سے محفوظ رہے تو اپنی عبارت میں اپنے فقرات کی طوالت کو بدلیجے رہیے۔ آپ کی تحریر میں طویل فقرات بھی نہیں مگر ان کا سادہ اور مختصر فقرات سے توازن قائم رکھیے۔ اگر کوئی مختصر فقرہ ناقابل فہم ہو تو وہ اپنے اختصار کی خوبی کو خود ہی ضائع کر دیتا ہے۔

(ii) عام فہم جملے

فقرے بھی واضح اور عام فہم ہونے چاہئیں۔ اگر الفاظ مقصد کے عین مطابق استعمال کیے گئے ہوں تو بعض اوقات لمبے فقرے زیادہ واضح اور سمجھ میں آنے والے ہوتے ہیں۔

مثال

”اس سڑک پر افواج کی موٹر گاڑیوں اور ٹرکوں کے ہمراہ جن پر پہاڑی توپیں لدی ہوئی تھیں، ہم سڑک کے اپنے پہلو کی طرف رہتے ہوئے اور نیچے بٹے ہوئے دریا کی روانی کو دیکھتے ہوئے ریل کی پنڑی کے ساتھ ساتھ پرانے پل تک چلے گئے، جہاں پر سڑک اور ریل کی پنڑی نے ایک دوسری کو کٹ لیا اور سامنے وہ چھوٹا سا قصبہ نظر آگیا، جس پر قبضہ کرنے کے لیے ہم لوگ جا رہے تھے۔“

ارنٹ ہیمنگوی

فوج کو الوداع

یہ سارے کا سارا اقتباس ایک ہی فقرے پر مشتمل ہے۔ چونکہ ارنٹ ہیمنگوی نے محسوس اور مخصوص الفاظ کا استعمال کیا ہے اس لیے اس کے مطالب کو سمجھنا مشکل نہیں۔

(ب) فقرے کی طوالت

ایک فقرے کی عام طوالت ٹائپ شدہ دس یا بارہ الفاظ تک ہونی چاہیے۔ اگر کسی فقرے میں ٹائپ شدہ الفاظ کی تعداد بیس تک ہو جائے تو ضروری ہے کہ اس کا توازن قائم رکھنے کے لیے اس کے ساتھ ایک مختصر فقرہ لکھا جائے۔

(iv) اختتامیہ:

- فقرات کو ترجیحاً ”مختصر ہونا چاہیے۔“
- مگر عمیر الفہم چھوٹے فقرات سے پرہیز لازمی ہے۔
- ایسے طویل فقروں کو جن میں محسوس اور مخصوص الفاظ کا استعمال کیا گیا ہو ترجیح دینی چاہیے۔
- طویل فقرات کا توازن صاف اور مختصر فقرات کے ساتھ قائم کیا جائے۔

(ب) دوسرا اصول

(i) مفرد اور سادہ جملے

مفرد اور سادہ فقروں کو پیچیدہ فقروں پر ترجیح دیں۔ مارک ٹوین نے اپنے ایک نوجوان دوست کو نصیحت کی تھی۔

”میں نے دیکھا ہے کہ تم واضح، صاف اور عام فہم اور چھوٹے الفاظ اور مختصر فقرات لکھتے ہو، انگریزی لکھنے کا یہی طریق ہے، یہ جدید اور بہتر طریق عمل ہے اس پر جیسے رہو“

اس اقتباس میں سے مندرجہ ذیل کلیدی کلمات کا انتخاب کیا جا سکتا ہے۔

○ صاف اور سادہ زبان

○ چھوٹے الفاظ

○ مختصر فقرے

یہ تین چیزیں تحریر کو قابل مطالعہ بنا دیتی ہیں مگر ان کو کیسے حاصل کیا جائے؟

○ اگر درست لفظ بڑا ہے، تو کوئی بات نہیں، آگے بڑھیے اور اسے استعمال کیجیے۔

○ مگر چھوٹا لفظ وہی مطلب ادا کر سکے تو اسے استعمال کیجیے۔

○ یہ درست ہے کہ واضح اظہار کے لیے ہمیں سادہ اور پیچیدہ دونوں صورتوں کی ضرورت رہتی ہے۔

○ بعض اوقات پیچیدہ صحت بہتر رہتی ہے۔

○ مگر سادہ اور اسلوب کو ترجیح دینی چاہیے۔

(ii) بے کم و کاست اور مختصر اظہار کے لیے رہنما اصول

ترجیح دینے۔

○ مانوس الفاظ کے مقابلے میں مانوس الفاظ کو

○ مہم الفاظ کے مقابلے میں واضح الفاظ کو

○ مرکب الفاظ کے مقابلے میں ایک لفظ کو

○ بڑے الفاظ کے مقابلے میں چھوٹے الفاظ کو

○ غیر ملکی زبانوں کے مقابلے میں اپنی زبان کے الفاظ کو۔

(چونکہ اصل متن انگریزی میں ہے، اس لیے اس میں اپنی زبان کی جگہ انگریزی تو رہے گی۔)

مثالیں

طویل اور نا آشنا الفاظ	سادہ الفاظ
حول النفع	فائدہ
تعدیل و تجویز	تبدیلی
اولیں طور پر	پہلے
مناسب ترین موقعہ	بہتر موقعہ
میان چیز ہائے دگر	میں جملہ

(iii) تنوع کی ضرورت

سادہ فقرے اور الفاظ ہی کافی نہیں۔ سادہ فقرات اور الفاظ کا استعمال قاری کی دلچسپی کو ختم کر دیتا ہے۔ انشاء میں زندگی کا رنگ بھرنے کے لیے تنوع کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک اچھی عبارت میں سادہ اور مرکب دونوں قسم کے فقرات ہونے چاہئیں۔ اس کی تشکیل بھی متنوع ہونی چاہیے کیونکہ تنوع ہی اسلوب کا حسن ہے۔ اگر کسی انشاء میں فقرات فاعل۔ فعل۔ فاعل پر مبنی ہوں تو ان سے قاری اکتا جائے گا۔ عبارت کو قابل توجہ بنانے کے لیے اس کے جملوں کی ترکیب و تشکیل کو بدلتے رہنا چاہیے۔

(vi) اختتامیہ

○ ایک اچھی تحریر مرکب خیالات، جملوں اور فقرات سے بہرا نہیں ہو سکتی۔

- لیکن ان کا توازن سادہ فقرات سے قائم رکھا جائے۔
- بہت سے طویل فقرے اور جملے مدت سے استعمال ہو رہے ہیں اب انھیں ترک کر دینا چاہیے۔

(ج) تیسرا اصول

(i) مناسب الفاظ

ہمیں کتنے الفاظ کی ضرورت ہے؟ اس سوال کا سادہ جواب دے کر ہمیں ان تمام الفاظ کی ضرورت ہے جن پر ہم قابو پا سکتے ہیں۔ ہمیں ایک بڑے ذخیرہ الفاظ کی ضرورت ہے تاکہ ہمیں جب بھی ضرورت ہو تو موزوں لفظ ہمارے پاس موجود ہو۔ جانوروں سے یہ پتہ چلا ہے کہ ذخیرہ الفاظ کی مقدار کا کامریوں اور ذہانت سے قریبی تعلق ہے۔ ایک ذہین آدمی جس کا کردار پختہ ہو، اپنے بڑے ذخیرہ الفاظ کو دکھاوے کے لیے نہیں بلکہ صرف واضح اور درست مطلب کے اظہار کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وہ شخص جو اپنے سننے والوں پر بھاری بھر کم الفاظ برساتا رہتا ہے، آج کل بالعموم اسے نمائشی انسان سمجھ کر اس سے اعتراض برتا جاتا ہے یا اسے مضروب سمجھ کر اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ چھوٹے الفاظ بالعموم ٹھوس مطالعے کے حامل ہوتے ہیں، وہ مقامات، اشخاص، استاد یا افعال کو ظاہر کرتے ہیں۔ طویل الفاظ بالعموم مجرد ہوتے ہیں اور ان کا تعلق صفات کا بیان یا جاد الفاظ سے تعلقات کے اظہار سے ہوتا ہے۔ مختصر اور طویل الفاظ میں بعض اوقات بہت سے خیالات کو یکجا کرنے میں مدد دیتے ہیں اور اس طرح ہمارا وقت بچاتے ہیں اور ہمیں سوچ بچار کے لیے دونوں کی یکساں ضرورت ہے۔

(ii) فقروں میں ابلاغ کی ضرورت

مگر ابلاغ کے عمل میں سوچ صرف بہلا قدم ہے۔ بڑے الفاظ ہمیں اپنی فکر کو

ترتیب دینے میں مدد دیتے ہیں۔ چھوٹے اور مانوس الفاظ ہمارے خیالات کو دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔ زیادہ معاون ہوتے ہیں۔ ہمیں بڑے ذخیرہ الفاظ کی ضرورت ہے لیکن واضح ابلاغ کے لیے ہمیں ان کے استعمال کی تربیت حاصل کرنی چاہیے۔ مگر ہونا یہ ہے کہ بڑا آدمی چھوٹے الفاظ اور چھوٹے آدمی بڑے بڑے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ لفظ کیا ہے؟ لغت میں ہر لفظ کی اپنی حیثیت ہے، مگر ایک لفظ کو انسان کب سمجھتا ہے۔ وہ اس وقت جانتا ہے جب وہ اسے اپنے فقروں میں درست طور استعمال کرنے کے قابل ہو جائے۔ نا آشنا اور مشکل الفاظ کا مرکب انسان کو تھکا، آتا اور پسندی سے اتار دیتا ہے؟ یہ بنیادی سوال ہے۔ جب ہم یہ سیکھ لیں کہ مشکل الفاظ کو اتنا ہی استعمال کریں کہ وہ گئے جا سکیں اور آسان الفاظ کے ساتھ ان کا مرکب اسی قدر تیار کریں کہ آسان الفاظ کے معانی میں وسعت پیدا ہو سکے۔ اگر ہم یہ کر سکیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے موثر انشاء کے فن پر قابو پا لیا ہے۔

کچھ الفاظ مردہ بھی ہوتے ہیں۔ ایک لفظ مردہ ہوگا جب:

○ اسے تقریباً ہر قاری سمجھنے سے قاصر رہے۔

○ کثرت استعمال سے گھس چکا ہو۔

○ بہت ثقیل ہو جب کہ اس سے چھوٹا لفظ وہی مطلب ادا کر سکتا ہو۔

ایسے مردہ الفاظ کو ہمیں اپنی تحریر سے نکال کر زندہ الفاظ کو دینی چاہیے جو ہمارے خیالات کو آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔

(iii) بے مقصد الفاظ

بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں، جن کا کوئی مقصد نہیں ہوتا، وہ متعلقہ یا تحریر میں کوئی مطلب ادا نہیں کرتے، ان سے بچنا ضروری ہے۔ ایسے مثالی الفاظ یہ ہیں (جو کثرت سے بلا جواز استعمال ہوتے ہیں):

بہر حال، یقیناً، مثال کے طور پر، تاہم، بجز اس کے، اس کے خلاف، خوش قسمتی سے، بنیادی طور پر۔

درج ذیل جملے بھی بوقت ضرورت اور کبھی کبھی استعمال ہونے چاہئیں:

- یہ صورت حالات ہے
- اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے
- باوجود اس کے یہ ظاہر ہے کہ
- بہر حال ایسا ہو سکتا ہے کہ
- اس کا منطقی نتیجہ یہ ہے کہ
- اس لیے ہمیں اس نتیجے پر پہنچنا چاہیے کہ
- پس یہ صاف ظاہر ہے کہ

(د) چوتھا اصول

(i) جملوں کا انداز

جملوں کا معمولی انداز اور صفات کا غیر ضروری اضافہ اور متعلقات فعل کی بھرمار، افعال کی زندگی کا گنا گھونٹ دیتی ہیں، مثال کے طور پر ملاحظہ فرمائیں۔

- فاعلی استعمال: صف کے کھلاڑی نے لکیر کا نشان چھو لیا ہے۔
- مفعولی استعمال: لکیر کے نشان نے پچھلے صف کے کھلاڑی کو کامیابی سے ہمسنا کر دیا ہے۔

○ دفتری لفاظی: لکیر کے نشان کو چھو لینا ایک ایسی فعالیت ہے جو کھلاڑی باوجودیکہ وہ پچھلی صف کا نمائندہ ہے۔ افتخار و امتیاز اور نام و نمود کی غرض سے چھو لینا ناگزیر سمجھتا ہے۔

اظہار کی تینوں صورتوں کا فرق ظاہر ہے بالخصوص دفتری لفاظی نے تو چھو لینے کے فعل کی تمام زندگی ختم کر دی ہے۔ ہم دفتری تحریروں کے کچھ اور نمونے پیش کرتے ہیں:-

(الف) مفعولی انداز

یہ معاملہ اجلاس میں ہمارے زیر غور آیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس پر فی الفور عمل در آمد کیا جائے۔

(ب) فاعلی انداز

ہم نے اجلاس میں اس مسئلے پر غور کیا اور اس پر فوری عمل کرنے کا فیصلہ کیا۔ مفعولی انداز بیان نے معاملے پر فوری اقدام کے عمل کو بہت ست بنا دیا ہے۔ مفعولی انداز بیان بعض اوقات نہ صرف تنوع کے لیے بلکہ موثر ابلاغ کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ جب ہم کسی عمل کا بیان کرتے ہیں تو مثبت انداز بیان مناسب ہوتا ہے مگر جب ہم قانون سازی کرتے ہیں یا قواعد کی تشکیل و ترتیب پر کام کرتے ہیں تو منفی انداز بیان بہت موزوں ہوتا ہے۔

فاعلی انداز: منصف سٹی بجاتا ہے۔

مفعولی انداز: منصف کی طرف سے سٹی بجائی جاتی ہے۔

ان دونوں فقرات کی معانی میں ایک خفیف سا فرق قابل غور ہے۔ پہلا فقرہ منصف کے عمل کو ظاہر کرتا ہے جب کہ دوسرے فقرے میں ایک قاعدے کا بیان کیا گیا ہے جب کہ منصف کے لیے کسی موقع پر سٹی کا بجانا ضروری ہوتا ہے۔ اردو زبان میں یہ فرق فعل حال مطلق میں نہیں ہوتا بلکہ فعل حال مطلق اور جاری کے علیحدہ علیحدہ استعمال سے فرق واضح کیا جاتا ہے، مثلاً "منصف سٹی بجا رہا ہے اور سٹی بجاتا ہے یعنی جب بھی ضرورت ہو سٹی بجاتا ہے۔"

اسم صفت اور صفات کا بہت زیادہ استعمال عمل تقسیم کی رفتار کو ست کر دیتا ہے۔ اسم صفت کسی شے کو مخصوص اور محدود کر دیتا ہے اور اکثر پہلے کے لیے رکاوٹ یا روک کا باعث بنتا ہے۔ زبان دان اسم صفت کو بہت جلد بھانپ لیتا ہے کہ ایک بد معاش دروازے پر آکر کھڑا ہو گیا ہے۔ اچھے کمائی نویس اپنے قاری کو یہ بتاتے ہیں کہ ان کی کمائی کے کردار کیا کرتے ہیں۔ کرداروں کے متعلق بیان نہیں

دیتے۔ یہ فیصلہ خود قاری کرتا ہے۔ وہ کہانی افعال کے ذریعے سناتے ہیں۔ صفات کے ذریعے نہیں۔

مثال

- براہ راست بیان ○ قائل نے کمرے میں چھلانگ لگائی۔
اسائے صفت اور ○ قائل کمرے میں جلد داخل ہو گیا۔
فعل کا استعمال ○ قائل کمرے میں ایک تیز چھلانگ لگا کر داخل ہو گیا۔
تھکن پیدا کرنے والے اظہار کی مزید مثالیں
تھکن پیدا کرنے والا فقرہ
معیار میں ایک بہتری پیدا کی گئی ہے
قاعلیٰ انداز معیار بہتر بنایا گیا ہے
گہ متافع ایک تیزی سے پیدا ہونے والی کمی محسوس کی گئی۔
مہ متافع تیزی سے کم ہو گیا۔
گہ مانعات میں عمل تبخیر پیدا ہوتا ہے۔
مہ مانعات بخارات بن کر اڑ جاتا ہے۔

(۲) تلافی بندی۔ ذمہ داری کا خوف

احتیاط اور انکساری کا باطل احساس اور ذمہ داری کا خوف مبہم تحریر بناتا ہے۔
اعتماد اور بے لاگ طبیعت واضح اشیاء کی طرف رہنمائی کرتی ہے۔ ہم غلطیاں کر سکتے
ہیں مگر جب ان کا اعتراف کر لیا جائے، ان کی تصحیح ہو جاتی ہے اور ذمہ داری کا خوف
رفع ہو جاتا ہے۔

مثال

اعتماد کے ساتھ اور ذمہ داری کے خوف سے بلا تر ہو کر تحریر کرنا

میں پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ ہمیں ترقیبی منصوبے پر عمل کرنا چاہیے۔
عملے کے ارکان جب اسے سمجھ لیں گے تو اس کی تاثیر کریں گے۔

(۲) گھبراہٹ اور ذمہ داری کے خوف کے تحت تحریر کرنا

”طویل مطالعے کے بعد جو نتائج اخذ کیے گئے ہیں ان کی بنیاد پر موجودہ حالات
میں محرکات کے منصوبے کو پیش کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ اگر ارکان عملہ کے
سامنے محرکات کے منصوبے سے متعلق تمام حقائق پیش کر دیے جائیں اور اس کا سوچا
سمجھا ہوا نقطہ نظریہ ہے کہ ان کی منظوری کے حصول کا امکان موجود ہے۔“

(۴) اختتامیہ:

- جہاں تک ممکن ہو، مثبت انداز تحریر اختیار کریں۔
○ غیر ضروری اسائے صفات اور متعلقات افعال سے پرہیز کریں۔
○ ذمہ داری کو قبول کریں۔

(۵) پانچواں اصول

(۱) اپنے خیالات میں تنظیم پیدا کریں

واضح فکر تمام واضح انشاء کی بنیاد ہے۔ واضح تحریر سے قبل واضح خیالات
ضروری ہیں۔ انشاء بلا شک و شبہ سوچ و بچار کا دوسرا نام ہے یا سوچ و بچار عمل تحریر کا
پہلا اقدام ہے۔

(مشین لی ٹاک)

(۲) خیالات کو کس طرح ترتیب دیا جائے

تحریر سے پہلے سوچ و بچار سے جو کچھ آپ کہنا چاہتے ہیں، آپ کے ذہن میں اس
کی واضح صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ ایک زرخیز زمین مہیا کرتی ہے جس میں آپ

منطقی ترتیب کی فصل کاشت کر سکتے ہیں۔ صحیح مقام پر زور اور خیالات کی بہتر تشکیل و ترتیب قلم تحریر کی سوچ کے دوسرے مظہر ہیں۔ فقرات کی بہتر تعمیر اور الفاظ کا موزوں انتخاب بالواسطہ کی جگہ بلا واسطہ اثر اندازی پیدا کرتا ہے۔ جب ایک لکھنے والا اپنے ذہن میں بالکل واضح ہو، کہ اسے کیا لکھنا ہے اور اسے کس ترتیب سے لکھنا ہے، تو وہ ایک عمدہ تحریر تخلیق کر سکتا ہے۔ سوچ بچار کے عملی اقدام کے طور پر چار نکات کو ذہن نشین کر لیں اس سے پیشتر کہ آپ ٹائپ مشین، قلم اور کانڈ کو ہاتھ لگائیں یا لکھوانا شروع کریں:-

○ اپنے سامعین کے حلقے کو واضح طور پر اپنے سامنے رکھیں۔

○ اس خیال یا ان تصورات کے متعلق فیصلہ کر لیں کہ آپ اپنے قاری کے ذہن میں کیا خیال یا خیالات ڈالنا چاہتے ہیں۔

○ اپنے اصل نکتے کو صرف ایک فقرے میں بیان کریں۔

○ ذہن میں یا تحریری طور پر ایک خاکہ تیار کریں۔

(iii) اپنے سامعین اور مقصد کا تعین کر لیں

آپ کس کے لیے لکھ رہے ہیں؟ اور آپ انہیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟
اگر ان سوالات کا صحیح جواب آپ نے سوچ لیا تو آپ نے قلم از تحریر سوچنے کا عمل مکمل کر لیا۔ یہ ضروری ہے کہ آپ اپنے سامعین یا قاری کو جو کہنا چاہتے ہوں اس کا ایک سادہ اور مجرد وقتے میں تعین کر لیں تو آپ سامعین اور مقاصد کے تعین میں کامیاب ہو گئے۔

(iv) کھوتی

کسی ایک تحریر میں آپ صرف ایک یا ایک سے زیادہ چند خیالات واضح طور پر بیان کر سکتے ہیں اس لیے لکھنے سے پیشتر آپ کے ذہن میں واضح ہونا چاہیے کہ آپ کس چیز یا خیال کا ابلاغ کرنا چاہتے ہیں۔ اسے آپ ایک مخصوص بیان میں لکھ لیجئے۔

یہ آپ کے لیے کھوتی کا کام دے گی، جس کے سارے آپ کا مراسلہ، روداد، یادداشت یا مضمون لکھتا رہے گا۔ مگر آپ اپنی کھوتی کو مخصوص کر لیجئے۔ عام بیان بنائیے، جب کھوتی مضبوط ہوگی تو باقی تحریر پوری وضاحت کے ساتھ قدرتا بلکہ لامحالہ چلی آئے گی۔ سادگی، اظہار، بیان، تعریف یا تصورات کی دیگر صورتیں، اس کھوتی کے سارے چل نکلیں گی۔

(v) خاکہ

ہم میں سے بیشتر افراد کے لیے ضروری ہے کہ اپنے بنیادی خیال (کھوتی) کے پھیلاؤ کا خاکہ کسی نہ کسی حد تک تیار کر لیں۔

(vi) منظم خیالات پر عمل کریں

لکھنے کا اصل کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آپ بنیادی خیال (کھوتی) کو پھیلانے کے لیے واضح اور چست فقرے سوچنے لگتے ہیں۔ اس میں آپ کا غور و فکر کیا ہوا نقطہ نظر جو آپ اپنے قاری کو پیش کرنا چاہتے ہیں، موجود ہوتا ہے۔ اس امر کو ذہن نشین رکھتے ہوئے آپ ایک مربوط کہانی پہلے ہی فقرے میں بیان کر دیں گے۔ اگر فقرے میں نہیں تو دو فقروں میں یا ایک پیرے میں، یا آغاز کے دو پیروں میں۔

دفتری خط و کتابت کا دستور العمل

تعارف

دفتری خط و کتابت کی اصلاح و تسہیل ایک اہم مقصد ہے کیونکہ حکومت کے بہت سے کام تحریری الفاظ ہی کے تحت سرانجام پاتے ہیں۔

۲۔ خط و کتابت کی سہل کا تعلق صرف الفاظ سے نہیں بلکہ بہتر نظم و نسق اور اہلیت بھی اسی کی مرہون منت ہے۔ سہل مراسلت کے چند فوائد حسب ذیل ہیں:-

(الف) بہتر ابلاغ کے لیے فریقین ایک دوسرے کے خطوط اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ اس میں کوئی شک و شبہ یا الجھنک نہیں ہوتی، غلط نہیں جو مراسلت کے تکرار کا باعث بنتی ہوتی ہیں، رفع ہو جاتی ہیں۔

(ب) لکھنے والے، قاری اور ٹائپ کرنے والے کا وقت بچتا ہے، جس کا نتیجہ فرائض منصبی کی فوری انجام دہی میں نکلتا ہے۔

(ج) واضح طور پر سوچنے اور لکھنے کی تربیت سے ایک افسر کی اہلیت اور قوت فیصلہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جس سے کارکردگی مزید بہتر ہوتی ہے۔

(د) عوام کے ساتھ تعلقات میں بہتری آتی ہے۔ عوام کو جو حکومت کی طرف سے خطوط ملتے ہیں ان کی بنیاد پر عوامی خدمات کے متعلق وہ اپنے نقطہ نظر کی تشکیل کرتے

ہیں، ایک واضح، درست اور خوش اخلاق مراسلہ قاری کو ایک بہتر تصور پیش کرتا ہے، بمقابلہ ان خطوط کے جو بے ترتیب اور غیر واضح ہوں۔

(۵) اچھی مراسلہ نویسی کے لیے پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہمیں حکومت کی حکمت عملی کا اچھی طرح سے علم ہو، اور ان قواعد و ضوابط کا بھی جن کے تحت ایک ڈویژن کا نظم و نسق چلایا جا رہا ہو۔ لہذا ہمیں متواتر اپنے فرائض منصبی اور اپنی ڈویژن کے کام کی زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا ضروری امر یہ ہے کہ جو کچھ ہمیں کہنا ہے اس کا اظہار صاف صاف، مختصر اور سادہ زبان میں کریں۔

حصہ اول: اچھی مراسلہ نویسی کے اجزائے ترکیبی

۱۔ ایک مراسلے کا خاکہ

اس سے پہلے کہ آپ قلم اٹھائیں، یہ یقین کر لیں کہ مراسلہ ذہن تحریر کا مقصد کیا ہے۔ ہر مراسلے کا ایک مخصوص مقصد ہوتا ہے، کوئی درخواست کی جاتی ہے، کوئی اطلاع فراہم کی جاتی ہے، کوئی نیا منصوبہ پیش کیا جاتا ہے یا موجودہ طریقہ کار میں کسی تبدیلی کی تجویز پیش کی جاتی ہے۔ اچھا مراسلہ نویسی پہلے خط کے اہم نکات کا خاکہ لکھ لیتا ہے۔ جس میں ہر اہم نکتے کا ایک لفظ یا مختصر کلمے میں اظہار کر لیا جاتا ہے۔ طویل اور مفصل مراسلات کی صورت میں اس قسم کی خاکہ نویسی اہم حقائق کی فردگذاشت کے مواقع کو کم کر دے گی۔

۲۔ افتتاحیہ فقرہ یا پیرا

افتتاحیہ فقرہ یا پیرا اس طرح لکھنا چاہیے کہ پہلی نظر ہی میں پتہ چل جائے کہ یہ مراسلہ کس موضوع پر ہے۔ اگر کسی موصول شدہ مراسلے کی رسید بھیجینی مطلوب ہو، تو تمام زور صرف رسید ہی پر نہ لگا دیں، بلکہ مراسلہ نویسی کی دلچسپی کی معلومات سے آگاہ کریں۔ مندرجہ ذیل رسیدی جملے پسندیدہ سمجھے جاتے ہیں۔

○ ”آپ کا مراسلہ میرے سامنے ہے۔“

○ ”آپ کا خط مجھے مل گیا۔“

○ ”آپ کے خط کا شکریہ۔“

○ ”۲۳ جون ۱۹۹۳ء کو آپ نے اس کے متعلق تحریر فرمایا تھا

کہ۔“

حد سے تجاوز رسمی الفاظ اور جملوں سے بھی پرہیز کریں۔

موصول شدہ مراسلات کی عبارت کو دوسرے الفاظ میں دہرانا ضائع کرنا ہے اور

اس سے بچنا چاہیے۔ غیر ضروری معلومات فراہم نہ کریں۔ خط جتنا مختصر ہو گا سب کے

لیے بہتر ہو گا۔

۳۔ اختتامی فقرہ یا پیرا

خط ہم اور کمزور عبارت کے ساتھ ختم نہ ہونا چاہیے۔ اگر آخری پیرا یا

فقرات مراسلے میں عام ہم آہنگی یا مقاصد کے مطابق نہ ہوں تو مراسلات کمزور سمجھے

جاتے ہیں۔

آخری پیرا مراسلے کے اندراجات کی تفتیش ہو اور اس کی مضمون کو قوت بخشنے

اور اس عمل کا واضح اظہار کرے جو قاری سے مطلوب ہو۔ ماضی مطلق یا اسم حالیہ

کے فقرات اختتامیہ کے پیرے میں نہیں ہونے چاہیں۔ اس سے مراسلے کا اختتام کمزور

ہو جاتا ہے۔ مثلاً ”جس قدر ممکن ہو، ہم اس اطلاع یابی کے لیے شکر گزار ہوں گے یا

تحریر کرنا اس سے زیادہ موثر ہے کہ۔“ ”ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ

آپ کی سہولت کے مطابق ہم اس اطلاع یابی کے موصول ہونے پر خوش ہوں گے۔“

۴۔ اہمیت اور وضاحت کی خاطر پیرے تشکیل دینا

ایک پیرا ایک فقرے یا چند فقرات پر مشتمل ہوتا ہے جن میں مرکزی خیال کا

اظہار کیا گیا ہو، مراسلے کی تشکیل اس طرح کیجیے کہ ہر پیرا ایک اہم خیال کی وضاحت

کرے۔ اس خیال کو پھیلائیں اور غیر ضروری مواد سے پاک رکھیں۔ پیرے کا مرکزی

اظہار، مقصود ہے۔ طویل جملے اور غیر ضروری الفاظ سے بچیں، مثلاً "براہ مہربانی اسی کے ساتھ منسلک۔۔۔ ملاحظہ فرمائیں۔"

○ "ایک نقل آپ کی اطلاع اور رہنمائی کے لیے منسلک کی جاتی ہے"

..... "ایک نقل منسلک ہے"

○ موجودہ وقت اور زمانے میں اس..... "آج کل"

○ اس پر غور و فکر کی نوازش فرمائیں..... "غور فرمائیں"

"ظلال..... کا حوالہ دیتے ہوئے" "بحوالہ....."

(ج) کیا مراسلہ درست ہے؟

اظہار مزید خط و کتابت کا جواز پیدا کرتی ہیں۔ حقائق کا غلط بیان یا حکومت کی حکمت عملی کے خلاف بیان نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ مندرجہ ذیل نکات آپ کے مراسلے کی صحت کو یقینی بنا دیں گے، جس سے فضا مزید خوشگوار ہو جائے گی۔

○ موصول شدہ مراسلے کو احتیاط سے کریں۔

○ اہم فائلوں کا جائزہ لیں۔

○ ان حقائق کو جان لیں، جن کے متعلق آپ لکھ رہے ہیں۔

○ اپنے مراسلے کے متعلق دیکھ لیں کہ وہ کون سی حکمت عملی کے تحت ہے۔

○ اپنے مراسلے کے بیان کی پڑتال کر لیں۔

○ قواعد، پے اور رموز اوقاف کی صحت کے لیے جائزہ لے لیں۔

○ جب تک آپ کسی مراسلے کو اچھی طرح پڑھ نہ لیں، اس پر دستخط نہ

کریں۔

۷۔ ذمہ داری کے اقرار سے گریز اور بچاؤ کی ممانعت

حکومت کی حکمت عملی کے متعلق یقین کر لیں کہ کسی بھی معاملے میں واضح اور

درست نظریہ قائم کر لیں اور بغیر کسی تذبذب کے "ہاں" یا "نہ" میں جواب سوچ لیں۔ آپ سے یہ توقع نہیں کی جاتی کہ آپ ایسے موقع پر مشکل اسلوب اور پیش یا افتادہ جملوں میں پناہ لیں۔

حصہ دوم: الفاظ کا انتخاب

کسی مراسلے کا اثر زیادہ اس زبان پر منحصر ہے، جو اس میں استعمال کی گئی ہو۔ اگر کوئی بے جا لفاظی کا شکار ہو یا جس کے معانی الفاظ کے ناقص انتخاب کی وجہ سے غم ہو گئے ہوں، غلط تاثر پیدا کرتا ہے۔ بھاری بھر کم زبان قاری کو غصہ دلاتی ہے اور بے جا اور غیر ذمہ دار الفاظ کا استعمال غلط فہمی کا باعث ہوتا ہے۔ سرائیٹ گروں نے اچھے اور موثر خطوط کی تحریر کے لیے مندرجہ ذیل تین اصول قائم کیے ہیں۔

۱۔ ان سے زیادہ الفاظ استعمال نہ کریں جو آپ کے خیالات کے اظہار کے لیے ضروری نہ ہوں

مندرجہ ذیل سے پرہیز کریں۔

(i) اسمائے صفات اور متعلقات فعل کے غیر ضروری استعمال سے مثلاً "ناسوائے

ضرورت کے، مقابلاً"، "نسبتاً" قابل غور، قابل پسندیدگی، وغیرہ وغیرہ"

(ii) موٹے موٹے حروف ربط اور حروف جار، جیسے متعلقہ، بالواسطہ، اس معاملے

میں، اس کی نسبت سے اس کے ربط یا تعلق سے، جیسا کہ وغیرہ وغیرہ اور ان کی

جگہ سادہ حروف ربط یا حروف جار کا استعمال کریں۔ مثلاً "مثل" پر، وغیرہ۔

(iii) تعداد کے بیان میں پیچیدگی مثلاً "بعض معاملات میں" "معاملات کی

اکثریت میں" وغیرہ اور انھیں "کئی"، "چند"، "مکثر" وغیرہ سے بدل دیں۔

(iv) بھرتی کے الفاظ اور جملے مثلاً "یہ بھی بہت اہم ہے کہ مندرجہ ذیل نکات

کو ذہن نشین کر لیا جائے" "اسے عملی جامہ پہنانے کے امکان پر مناسب غور

فرمائیں" سوچا جائے تو ان میں سے بیشتر جملے صرف بھرتی کے معلوم ہوں گے۔

عوام کی طرف سے شکایات کی جواب میں مطبوعہ رسیدی فارم استعمال نہ کیے جائیں۔ ان میں سے ہر ایک شکایت کو علیحدہ علیحدہ اور مستعدی سے کارروائی کی جائے۔ صحیح رسید بہر حال شکایت کے متعلق فوری جواب ہے۔ سرکاری دفاتر تاخیر سے جواب دینے کی وجہ سے بدنام ہیں۔ فوری جواب سے نیک نامی ہوتی ہے اور عوام کے دلوں میں سرکاری اہل کاروں کا اعتماد بحال ہوتا ہے۔

۵۔ غیر متغیر اور بے جان خطوط

جن دفاتر میں روزمرہ کے معاملات میں استفسارات کی ایک بڑی تعداد ہر روز موصول ہوتی ہو، وہاں جوابات کا ذخیرہ رکھنا خالی از فائدہ نہیں۔ یہ ایسے مسودات ہوتے ہیں جو عام قسم کے ہر روز پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور ان کا مسودہ افسران اعلیٰ تیار کرتے ہیں۔ انہیں احتیاط سے استعمال کرنا ضروری ہے۔ اصولی طور پر ان کی سائیکلو سٹائل یا چھپی ہوئی نقول مکتوب الیہ کو نہ بھیجی جائیں بلکہ ٹائپ کرا کے بھیجی جائیں تاکہ مکتوب الیہ کو محسوس ہو کہ وہ ایک ذاتی مراسلہ موصول کر رہا ہے۔ ایک مطبوعہ یا نقل شدہ پامال خط، خواہ کتنی ہی خوبصورتی سے مدون کیا گیا ہو، ایک باقاعدہ مراسلے کا بدل قرار نہیں دیا جاسکتا۔ باقاعدہ مراسلے سے مکتوب الیہ کو احساس ہوتا ہے کہ اس کے معاملے میں ذاتی دلچسپی لی جا رہی ہے۔ جواب کو ہمیشہ حقائق کے مطابق ہونا چاہیے۔

باب ۶

اجلاسوں اور کانفرنسوں کی روداد نویسی

۱۔ تعارف

مختلف سطحوں پر کاروبار حکومت مختلف طریقوں سے چلایا جاتا ہے۔ فائلوں پر کام چلانا معمول کا معاملہ ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور طریقہ ہے، جس میں افسر اپنے دفتر میں بیٹھ کر فائلوں پر فیصلے نہیں کرتا بلکہ اجلاسوں اور کانفرنسوں کے ذریعے فیصلے کیے جاتے ہیں، جہاں پر کئی ڈویژنوں اور اداروں کے نمائندگان موجود ہوتے ہیں۔ ایک اجلاس میں تمام نقطہ ہائے نظر پر بحث کی جاتی ہے اور اتفاق رائے کے بعد فیصلے کیے جاتے ہیں یا سفارشات مرتب کی جاتی ہیں۔

۲۔ فوری فیصلوں کے لیے ایسے اجلاسوں کی ضرورت محسوس کی جاتی ہے کیونکہ خط و کتابت کے طویل طریق کار سے بچ کر ان میں میز پر آنے سامنے بیٹھ کر فیصلے کر لیے جاتے ہیں۔ سب کے خیالات کو سنا جاتا ہے، غور کیا جاتا ہے اور اس کے بعد سفارشات مرتب کی جاتی ہیں یا فیصلے کیے جاتے ہیں۔

۲۔ روداد کی ضرورت

چونکہ اجلاس میں بہت سے افسر شریک ہوتے ہیں، اسی لیے اجلاس منفقہ

فیصلوں یا سفارشات کو تحریر کر لیا جاتا ہے۔ یہ کام ایک افسر سرانجام دیتا ہے جو اجلاس یا کانفرنس کا معتمد ہوتا ہے، اگر کارروائی کو ضبط تحریر میں لا کر تمام ارکان میں تقسیم نہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ بحث و استدلال، سفارشات یا فیصلے وقت گزرنے کے ساتھ یا تو جزوی طور پر بھول جائیں گے یا غلط یاد رہ جائیں گے یا سمجھے جائیں گے یا پھر ان کی تشریح و توضیح ہر شخص اپنی مرضی کے مطابق کرنے لگے گا۔ اس کے نتیجے میں فیصلوں کی مابعد تعمیل کے عمل کو نقصان پہنچے گا اور درست فیصلوں کے متعلق غیر ضروری اختلاف ظہور میں آئیں گے۔

بعض اوقات روداد مجلس کے مسودے کو اس کے حتمی اجراء سے پہلے ارکان میں تقسیم کر لیا جاتا ہے تاکہ تمام اعتراضات اور نقطہ نظر کے اختلافات کا بروقت مداوا کر لیا جائے۔

۳۔ اجلاس کارکنی انتظام

ایک اجلاس کا انتظام مندرجہ ذیل طریق پر کیا جاتا ہے:

(i) صدارتی افسر، مثلاً "ایک صدر نشین یا کسی مجلس ناظمین کا ناظم انتظامی" اجلاس بلانے کا فیصلہ کرتا ہے۔

(ii) بورڈ یا کارپوریشن کا معتمد ایجنڈا جاری کرتا ہے۔

(iii) اجلاس ایک مقررہ تاریخ پر منعقد کیا جاتا ہے، اجلاس کا معتمد کورم کے پورا ہونے کا اعلان کرتا ہے، شرکائے مجلس کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں باقاعدہ حاضری یا مشاہدے سے کورم کی تعداد کا اندازہ کر لیا جاتا ہے۔

(iv) اجلاس کا معتمد مجلس کے سابقہ اجلاس کی روداد پڑھ کر سنا تا ہے اور صدر نشین زبانی پوچھ لیتا ہے کہ کیا شرکائے اجلاس سابقہ اجلاس کی کارروائی کو منظور کرتے ہیں۔

(v) اگر کوئی کارروائی سابقہ اجلاس میں نامکمل رہ گئی ہو، تو اس پر غور کیا جاتا ہے اور اس کا فیصلہ کر لیا جاتا ہے۔

(vi) کسی منصب دار، ادارے یا ذیلی کمیٹی کی اگر کوئی روداد بحث طلب ہو تو اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔

(vii) اس کے بعد ایجنڈے کی مدات پر بحث کی جاتی ہے اور سفارشات اور فیصلوں کو معتمد مجلس ضبط تحریر میں لاتا ہے۔

(viii) آئندہ اجلاس کی تاریخ مقرر کی جاتی ہے، مگر اس کا ہر دفعہ اندازہ لگانا ممکن نہیں ہوتا۔

(ix) ایجنڈے کی تمام مدات پر غور کے بعد مجلس درخواست کر دی جاتی ہے۔

(x) اس کے بعد معتمد متعلقہ کارروائی کے اہم نکات، فیصلے اور سفارشات جو ایجنڈے کی مختلف مدات پر مرتب کی گئیں، ارکان کو بھیج دیتا ہے۔

۴۔ کارروائی کو ضبط تحریر میں لانا

دیوان حکومت کی طرف سے جاری کردہ ہدایات کے پیرا ۵۵ میں کہا گیا ہے کہ:

"تمام اجلاسوں کی کارروائی کاروباری نوعیت کی ہوگی، کارروائی کے صرف اہم نکات اور ان پر کیے گئے فیصلوں کو ضبط تحریر میں لایا جائے گا، شخصی نظریات کو بجز خصوصی درخواست کے درج نہیں کیا جائے گا۔"

اس کی ضرورت صرف اسی صورت میں پیش آئے گی جبکہ نقطہ نظر کا اختلاف ہو۔ اگر تمام فیصلے متفقہ طور پر کیے گئے ہوں تو شخصی خیالات کو ضبط تحریر میں نہیں لایا جائے گا۔

۵۔ روداد کو تحریر میں لانے کی ترتیب

○ اجلاس کے انعقاد کی تاریخ، وقت اور جگہ کو تحریر کیا جائے۔

○ اجلاس کی صدارت جس نے کی اس کا ذکر کیا جائے۔

○ پیش نامہ درج کیا جائے۔

○ شرکاء ارکان کے نام لکھے جائیں۔ (اگر شرکائے اجلاس کی تعداد بہت زیادہ ہو جیسا کہ مرکزی ترقیاتی منصوبہ جات پاکستان کے اجلاسوں میں ہوتی ہے، تو شرکا کی فہرست شامل کر دی جائے)۔

○ اس امر کا ذکر کیا جائے کہ گزشتہ اجلاس کی کارروائی منظور کی گئی یا نہیں، (ایسا ان صورتوں میں ہو جایا کرتا ہے، جبکہ میقاتی اجلاس متعلقہ مجلس منتظمین ریا اجلاس عام برائے ادارہ جات زیر انصرام حکومت ادارہ جات اشتراک، حکومت کے ماتحت اداروں، کارپوریشنوں، مثلاً "پی آئی اے" پی آئی ڈی سی اور اوجی ڈی سی، ہو رہے ہوں۔

○ ایجنڈے کی مدت پر فیصلوں، سفارشات کا ذکر کیا جائے۔ اگر اجلاس میں کوئی قرار داد منظور ہوئی ہو تو اس کا ذکر کیا جائے۔

○ اختتام جلسہ کا ذکر کیا جائے، جو کبھی کبھی صدر نشین کے شکریے کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔

باب ۷

تلخیص نویسی کا ہنر

۱۔ تحریر کی دوبارہ تخلیق و تشکیل

جب ہم کسی تحریر کی دوبارہ تخلیق و تشکیل کے متعلق سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں مختلف نوعیت کے فقرے آتے ہیں کہ فقرہ کس طرح کا ہو، اس کا آغاز کہاں سے کیا جائے، جملے کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے، کیا یہ تحریر پہلے سے بہتر ہے۔ قاری کے ذہن پر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اگر پہلے جملے میں مقصد پورا ہوتا ہے تو اس میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، لیکن اگر پہلی تحریر اپنا مقصد پورا نہ کر رہی ہو تو پھر اس میں رد و بدل کر کے ایسا جملہ لکھنا پڑتا ہے، جو مقصد کو پورا کرتا ہو۔

۲۔ توضیحی ترجمہ اور اس کا مفہوم

اس سے مراد کسی عبارت کی توضیح و تشریح ہے، جس میں نہ صرف اس کا لب لباب بیان کیا جاتا ہے بلکہ اس کی تفصیلات بھی بیان کی جاتی ہیں، اس کی طوالت پر کوئی پابندی نہیں، یہ اصل عبارت کے برابر یا اس سے بھی زیادہ طویل ہو سکتا ہے۔

۳- خلاصہ

یہ کسی عبارت کا خلاصہ یا اس کی مختصر صورت ہے، اس میں اصل عبارت کا خلاصہ بیان کیا جاتا ہے اور اس کی غیر ضروری تفصیلات کو حذف کر دیا جاتا ہے۔

۴- تلخیص

یہ ایک فرانسیسی لفظ "Precis" کا ترجمہ ہے، اگر فن کی زبان میں بیان کریں تو ایک عبارت کی تلخیص کرنے کا مطلب یہ ہو گا کہ اس کے تمام اہم نکات کو اس میں سے نکال کر وضاحت کے ساتھ ممکن حد تک کم از کم الفاظ میں بیان کر دیا جائے، یہ حقائق کا راست باز بیان ہے، جس میں کوئی کانت چھانت نہیں کی جاتی، اس کی طوالت اصل عبارت کے تیرے حصے سے زائد نہیں ہوتی۔ تلخیص، کسی عبارت، فقرے یا جملے کی بھی ہو سکتی ہے اور جملے کے ایک جز کی بھی۔

مثالیں

فقہہ ----- اصل:	وہ ہمیشہ بے پروائی سے اپنی بساط سے زیادہ رقم خرچ کر دیتا ہے	(۱۱ الفاظ)
تلخیص:	وہ فضول خرچ ہے	(۳ الفاظ)
اصل:	جب سورج کی کرنیں اندھیرے کو دور کرنے کا آغاز کر رہی تھیں	(۱۵ الفاظ)
تلخیص:	وہ جاگ اٹھا	(۲ الفاظ)
جزو جملہ -----	وہ علی الصبح جاگ اٹھا	(۳ الفاظ)
تلخیص:	مستقبل قریب میں	(۳ الفاظ)
	جلد	(۱ لفظ)

۵- خلاصے اور تلخیص میں فرق

اس امر میں اختلاف ہے کہ فی الواقع خلاصے اور تلخیص میں کوئی فرق ہے، کچھ ماہرین کی رائے میں ان دونوں میں کوئی فرق نہیں، مگر دوسروں کے خیال میں ان میں معمولی سا فنی فرق ہے۔ بالعموم خلاصہ اصل عبارت کا ایک تہائی ہوتا ہے مگر تلخیص اس سے بھی کم ہوتی ہے۔ دوسرا فرق یہ ہے کہ خلاصے میں متن سے کچھ اقتباس لیا جاسکتا ہے، مگر تلخیص میں اس کی اجازت نہیں۔ تلخیص اصل عبارت کی قطعاً نئی تخلیق ہے۔

۶- خلاصہ یا تلخیص نویسی کا عمل

عمل تو دونوں میں یکساں ہی ہے، یہ کوئی مشینی عمل نہیں بلکہ ایک ذہنی کام ہے۔ سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ اصل عبارت کو اچھی طرح سے سمجھ لیں۔ خلاصے یا تلخیص کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ صرف الفاظ کی قطع و برید کی جائے، یعنی درخت کی ٹھن چھٹائی کر دی جائے بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جیسا چھوٹا درخت بنایا جائے، یہ مناسب نہیں کہ تلخیص کرنے کے لیے آپ اصل عبارت کے ہر جملے کا مختصر جملہ بناتے جائیں بلکہ تلخیص ایک نئی عبارت ہوتی ہے۔ اصل عبارت کے الفاظ لینے کی مطلق ضرورت نہیں ہے، بلکہ جتنے کم لیے جائیں اتنا ہی اچھا ہے۔ تلخیص کے عمل کا مطلب ایک عبارت سے دوسری عبارت میں بنیادی خیال کا انتقال ہے۔

۷- تلخیص نویسی کے عام اصول

تلخیص نویسی کا مدعا یہ ہے کہ کسی عبارت کی روح کو مجمل طور پر پیش کر دیا جائے۔ اسے عمدہ اور بانہ رنگ میں لکھا جاسکتا ہے۔ اجمل کی کوشش کا نتیجہ خیالات کے بے ربط ترجمے کی شکل میں نہیں نکلنا چاہیے، جو ناکافی طور پر مربوط فقرات کا مجموعہ اور تار کے مضمون کی طرح حروف جار سے محروم ہو۔ ایک عمدہ تلخیص عبارت

کا خلاصہ پیش کرے گی، جس میں گفتگو کے اہم دلائل مراست یا روداد کا لب لباب بغیر غیر متعلق عبارت آرائی کے موجود ہو گا۔

۸- سات رہنما اصول

(الف) انتخاب

- (i) نفس مضمون کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے تاکہ آپ اس امر کا اندازہ کر لیں کہ عبارت میں کیا اہم ہے اور کیا نہیں۔
- (ii) اس کے بعد متن کے کلیدی الفاظ کے نیچے خط کھینچ لیے جائیں۔

(ب) تناظر

- (i) حقائق اور خیال کے درمیان اصل متن میں پیدا کردہ رشتے کو قائم رکھیں تاکہ وہی تاثر قائم رہے جو اصل نے قائم کیا ہو۔
- (ii) مرکزی خیال نمایاں رہے اور دوسرے خیالات اس کے ماتحت رہیں۔

(ج) ترتیب

- (i) ایک تہخیص کو واضح اور غیر شکستہ تسلسل خیالات کو پیش کرنا چاہیے، ایک قسم کی منطقی بیڑھی جس میں ایک ڈنڈے کے بعد دوسرا علی الترتیب آتا رہتا ہے۔

(ii) یہ ترتیب اصل متن کی ترتیب کے مطابق ہو۔

- (iii) الفاظ جملوں اور فقرات کی بندش مختصر ہو، مگر خیالات کے تسلسل کو نہ چھیڑا جائے۔

(د) اختصار

- (i) بھاری بھر کم الفاظ سے پرہیز کیا جائے۔

(ii) لمبے جملے کو مختصر جملے میں اور مختصر جملے کو لفظ میں تبدیل کر لیا جائے۔

(د) صفائی

- (i) مبہم بیان تہخیص کے مقصد کو غارت کر دیتا ہے۔
- (ii) واضح اظہار میں ناکافی اکثر سمجھنے میں ناکافی کا اعتراف ہوتا ہے۔
- (iii) عبارت کا لب لباب خیال یا خیالات کی ادائیگی کو اصل سے زیادہ موثر اور مختصر طور پر پیش کرتا ہے۔

(و) روانی

- (i) ایک تہخیص میں شکاف نہیں رہنے چاہئیں۔
- (ii) ایک دو الفاظ کی بچت کی خاطر عبارت کی روانی کو نقصان نہیں پہنچانا چاہیے۔
- (iii) جب کبھی شکاف پر کرنے کی ضرورت ہو تو ”بلکہ“ سے اور ”اور“ جیسے چھوٹے چھوٹے الفاظ سے ان کو پر کر لیں، اس کے نتیجے میں اکڑی ہوئی عبارت میں روانی پیدا ہو جائے گی۔

(ز) وحدت

- (i) تہخیص کو ایک جسم کی طرح مکمل ہونا چاہیے کہ مختلف اجزا کا مجموعہ۔
- (ii) خیالات یا حقائق باہم مل کر پوستہ ہونے چاہئیں۔
- (iii) ایک تہخیص میں اتحاد بالکل اسی طرح ہے جس طرح جسم کے اجزاء کا اتحاد۔ ایک انسانی جسم میں کئی اعضا ہوتے ہیں، ٹانگیں، بازو وغیرہ وغیرہ، مگر روح کے بغیر جو انہیں زندگی عطا کرتی ہے، وہ بے فائدہ ہیں۔ اتحاد کے بغیر تہخیص نامکمل رہتی ہے لفظوں کا ایک ڈھیر جس میں ابھی تک خیال کی روح نہ چھوگی گئی ہو۔
- (iv) تہخیص کو اصل انشائیہ کا ایک چھوٹا سا نقش ہونا چاہیے، جس کا ڈھانچہ

واضح اور سادہ ہو اور اس کے آغاز، وسط اور انجام اپنی اپنی جگہ پر اپنی بہار دکھا رہے ہوں۔

۹۔ تلخیص کا طریقہ

اصولی بات یہ ہے کہ تلخیص نویسی کے چھ مراحل ہیں، جن سے گزر کر منزل تک رسائی ممکن ہے:

(الف) متن کو معانی اور عام مطالب سمجھنے کے لیے اچھی طرح سے پڑھیں۔

(ب) اہم نکات کو ذہن نشین کرنے کے لیے متن کو دوبارہ پڑھیں اور اہم نکات کے نیچے لکیریں لگائیں۔

(ج) ایک مختصر مگر جامع عنوان کے تحت موضوع کا خلاصہ کر لیں، یہ عنوان تلخیص کے ناظر کو جانچنے کے لیے معیار کا کام دے گا اور اصل عبارت کے نفس مضمون سے تعلق کو واضح کرے گا۔

(د) ایک علیحدہ کاغذ پر اہم خیالات کے متعلق مختصر سا اظہار کر لیں، یہی اظہار بعد میں تلخیص کے مسودے کا رویہ اختیار کرے گا۔

(و) اس کے بعد تلخیص کے لکھنے کا لمحہ آ گیا ہے۔ معیار قائم کرنے کے لیے پہلے مسودے کو بالکل بھول جائیں۔ آپ کا ذہن اس وقت تک اصل کو اچھی طرح سے سمجھ چکا ہو گا اور کم از کم الفاظ کے استعمال اور اصل عبارت کے شاذ و نادر حوالوں کی بنا پر متن کے اہم خیالات کے دوبارہ اظہار پر اور ہو چکا ہو گا۔

(و) اس کے بعد اپنی تلخیص کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہ کیا اس میں تمام اہم نکات اور اصل کو تقویت دینے والے ضمنی خیالات موجود ہیں۔

باب ۸

خلاصوں کی تیاری

۱۔ تعارف

خلاصے سے مراد کم حجم کی ایک کسی خاص موضوع پر ایسی تحریر ہے جس میں غیر ضروری تفصیلات کے بیان سے پرہیز کیا گیا ہو۔ اس کی مدد سے افسران بالا موٹے موٹے مسلوں کی ورق گردانی کے بغیر معاملے کو اچھی طرح سمجھ لیتے ہیں۔ انھیں متعلقہ قسموں، محکموں کو درپیش مسائل، ان کے متوقع حل اور مذکورہ حل کے حق میں ان دلائل کا بھی علم ہو جاتا ہے کہ ایک حل کو دوسرے پر ترجیح دی جائے۔

۲۔ حکومت کے دفاتر میں خلاصے

حکومت کے دفاتر میں خلاصے مختلف مقاصد کے لیے تیار کیے جاتے ہیں۔ قواعد کار اور دیوان حکومت کی ہدایات میں مختلف قسم کے خلاصے جات کے لیے علیحدہ علیحدہ ہدایات دی گئی ہیں، بعض معاملات میں کابینہ ڈویژن اور عملہ ڈویژن نے ان ہدایات کی وضاحت اور اہمیت کو بتانے کے لیے احکام جاری کیے ہیں۔

خلاصہ جات کی مختلف اقسام اور ان کے تیاری کے لیے طریق کار کی ذیل میں وضاحت کی جاتی ہے:

۳۔ خلاصہ برائے صدر

- جب کبھی کوئی معاملہ جناب صدر کی خدمت میں پیش کیا جائے تو:-
- (i) اسے ایک جامع، مجمل اور معروضی خلاصے کی شکل میں پیش کرنا چاہیے، جس میں تمام متعلقہ حقائق اور نکات بغرض فیصلہ درج کیے گئے ہوں۔
 - (ii) صدر مملکت کے لیے خلاصہ بھی انہی اصولوں کے تحت تیار کیا جاتا ہے جو کہ کابینہ کے لیے خلاصے کے لیے معین کیے گئے ہیں، ماسوائے اس کے کہ اس مقصد کے لیے صرف ایک ہی نقل درکار ہوتی ہے، جسے چھاپنا نہیں چاہیے بلکہ خوبصورتی اور صفائی سے کھلا کھلا (دوہری جگہ چھوڑ کر) خلاصے کے لیے مخصوص کانڈ پر ٹائپ کر لینا چاہیے۔
 - (iii) خلاصے میں وزیر محکمہ کی مخصوص سفارش بھی لکھی جانی چاہیے اور اگر ضرورت ہو تو اس کے ہمراہ جواب کا مسودہ بھی شامل کیا جائے۔
 - (iv) اس پر مستند وزارت کے دستخط ثبت ہوں گے اور اسے مسل کے پوشے میں باقاعدگی سے رکھا جائے۔
 - (v) اگر صدر مملکت کو احکام جاری کرنے ہوں، یا دستور کے تحت اس کی منظوری خاص کی ضرورت ہو، تو ایسی صورت میں اس مقصد کے لیے ایک پیرا خلاصے میں درج کر دیا جائے۔

۴۔ سول ملازمین کی تقرری، ترقی اور تبادلہ جات

قواعد ۱۹۷۳ء، ترمیم شدہ زیر اعلان عملہ ڈویژن نمبری ایس آر او ۳۹۹ (۱) ۷۹، بھریہ یکم مئی ۱۹۷۹ء، سکیل ۲۰ اور بالا کے افسران کے لیے ہیئت مجاز برائے تقرری خود صدر مملکت ہیں، اس لیے موصوف کی منظوری برائے تقرری افسران سکیل ۲۰ و بالا

خلاصہ بھیج کر حاصل کرنی ضروری ہے، ایسے خلاصے میں مندرجہ ذیل امور کی نشاندہی کی جائے گی:-

- (الف) خالی اسامی کیسے پیدا ہوئی۔
- (ب) متعلقہ قواعد کے تحت یہ اسامی کس طرح پر کی جائے گی، براہ راست بھرتی کے ذریعے، یا بذریعہ ترقی یا بذریعہ تبادلہ۔
- (ج) اگر وہ براہ راست بھرتی سے پر کی جا رہی ہو، تو علاقائی صوبائی کونڈ جس سے اس کا تعلق ہو، واضح طور پر مذکور ہو۔
- (د) اس اسامی کے لیے مجوزہ اہلیت، شرائط اور قابلیت کی خلاصے میں نشاندہی کی جائے یا بطور ضمیر منسلک کر دی جائے اگر ضروری ہو تو بھرتی کے قواعد کی ایک نقل شامل مسل کر دی جائے۔
- (ه) اسامی کو پر کرنے کے لیے کی گئی کارروائی، وہ اسامی ر خالی اسامی وفاقی وفاقی پبلک سروس کمیشن کو مطلع کی گئی یا فی الوقتی تقرری کے لیے اس کا براہ راست ایشمار دیا گیا، وفاقی ماموریہ ملازمت ہائے سرکاری کی محکمہ مجلس انتخاب کا سفارشات ترقی کے معاملے پر محکمہ کمیٹی ترقی مرکزی انتخابی مجلس کی، جیسی بھی صورت ہو، سفارشات شامل مسل کی جائیں اور متعلقہ رواد کی نقل بھی ہمراہ منسلک کی جائے۔
- (و) سفارش کردہ امیدواران برائے تقرری، تبادلہ، ترقی کی لیاقت، اہلیت، تجربے کے متعلق پوری تفصیلات میا کی جائیں اور تقدم کی فہرست میں ان کے مقام پر واضح نشاندہی کی جائے۔
- (ز) امیدوار کا وطن (سکونت نامہ) واضح طور پر بیان کیا جائے۔
- (ح) جب مجوزہ ترقی میں سابق کا مسئلہ بھی موجود ہو، تو اس کے متعلق مفصل جواز میا کیا جائے۔ دوسری صورت میں یہ واضح طور پر بیان کیا جائے کہ سابق کا کوئی مسئلہ درپیش نہیں۔
- (ط) جب فرد کردار یا دیگر دستاویزات خلاصے کے ساتھ منسلک ہوں، تو

۱۱۔ قومی اقتصادی کونسل کو پیش کرنے کے لیے خلاصہ

- (i) قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس زیر ہدایت صدر مملکت کابینہ ڈویژن طلب کرتی ہے، جو کہ کونسل کے صدر ہیں۔
- (ii) اس خلاصے کے لیے بھی وہی صورت اور طریق کار مقرر ہے، جو کابینہ کے لیے خلاصے کے سلسلے میں بیان کیا گیا ہے۔

۱۲۔ بین الصوبہ جاتی اور گورنر صاحبان کی مشاورت کے لیے خلاصہ جات

- (i) ایسے اجلاسوں میں صرف انتہائی اہم معاملات جن میں حکمت عملی کا فیصلہ مطلوب ہو، یا صوبہ جات اور وفاق کے مابین کوئی مشاورت مقصود ہو، پیش کیے جاتے ہیں۔
- (ii) ایسے اجلاس کابینہ ڈویژن کی ہدایت صدر مملکت کی ہدایت پر طلب کرتی ہے۔
- (iii) اس کے لیے خلاصے کی تیاری کا طریق کار وہی ہے جو کابینہ کے اجلاسوں کے لیے مقرر ہے۔
- (iv) ایسے اجلاسوں کے لیے خلاصہ کابینہ ڈویژن کو کم از کم اجلاس سے ۲۱ دن پہلے پہنچ جانا چاہیے۔

۱۳۔ معتمدین کی کمیٹیوں، کابینہ کی کمیٹیوں اور قومی اقتصادی کونسل کی مجلس

عالمہ کے اجلاسوں کے لیے خلاصہ جات

- (i) یہ اجلاس متعلقہ کمیٹی کے صدر نشین کی ہدایت کے تحت کابینہ ڈویژن طلب کرتی ہے۔
- (ii) ان کے لیے خلاصے اسی نمج پر تیار کیے جاتے ہیں جو کابینہ کے اجلاسوں کے لیے مقرر ہے۔

۱۴۔ معتمد عملہ کے لیے خلاصہ جات

قاعدہ ۶، قواعد (تقرری، ترقی و تبادلہ) مجریہ ۱۹۷۳ء (ترمیم شدہ) عملہ ڈویژن کے اعلامیہ ایس، آر، او ۳۹۹ (i) ۷۹ مجریہ ۱۰ مئی ۱۹۷۹ء کے تحت سول ملازمین سکیل ۱ تا ۱۹ کے ملازمین کے لیے ہیئت مجاز برائے تقرری معتمد عملہ ہیں۔ انھیں منظوری تقرری ترقی براہ راست بھرتی و تبادلہ جات وغیرہ خلاصہ کی منظوری کے لیے ارسال کرنے کا طریق کار حسب ذیل ہے:-

(i) خلاصے کا آغاز اسامیوں کی تعداد کے ذکر اور وہ کس طرح وجود میں آئیں، کے بیان سے ہو گا۔

(ii) اس کے بعد یہ بیان کیا جائے گا کہ ان اسامیوں کو متعلقہ قوانین کے تحت کس طرح پر کیا جائے گا، آیا براہ راست بھرتی کے ذریعے پر کی جائیں گی۔ اگر براہ راست بھرتی کے ذریعے پر کرنا ہو تو علاقائی رجسٹری کوٹے کی صورت میں ان اسامیوں پر تقرری کے لیے امیدواروں کی اہلیت، جو متعلقہ بھرتی کے قواعد میں مقرر کی گئی ہے یا تو خلاصے میں درج کی جائے یا بطور ضمیمہ منسلک کی جائے، اگر ضروری ہو تو متعلقہ قوانین کی ایک نقل شامل کی جائے۔

(iv) خلاصے میں اس امر کی بھی نشاندہی کی جائے کہ اسامی کو پر کرنے کے لیے کیا کارروائی کی جا چکی ہے، کیا اسامی کو پر کرنے کے لیے وفاقی پبلک سروس کمیشن کو اطلاع دی جا چکی ہے یا فی الواقع تقرری کے لیے اخبارات میں اشتہار دیا جا چکا ہے اور کیا کمیشن یہ یا محکماتہ انتخابات کی کمیٹی نے کسی یا کچھ امیدواروں کی تقرری کی سفارش کی ہے۔ ترقی کے سلسلے میں مرکزی انتخابی مجلس یا محکماتہ مجلس ترقی نے، جیسی بھی صورت ہو، اس ترقی کی منظوری دے دی ہے۔ یہ تمام حقائق خلاصے میں درج کیے جائیں۔

(v) امیدواران سفارش کردہ برائے ترقی تقرری کے لیے سفارش کردہ امیدواروں کے تجربے اور اہلیت سے متعلق پورے کوائف خلاصے میں درج

کیے جائیں اور فہرست تقدم میں ان کے مقام کی واضح نشاندہی کی جائے۔

(vi) امیدوار کا توطن (سکونت نامہ) وضاحت سے بیان کیا جائے۔

(vii) جب مجوزہ ترقی میں تسابق کا مسئلہ شامل ہو، تو اس کی پوری تفصیلات مہیا کی جائیں، دوسری صورت میں یہ واضح طور پر تحریر کیا جائے کہ تسابق کی کوئی صورت شامل نہیں۔

(viii) معتد عملہ کے لیے خلاصہ جات کی نقول خلاصہ جات کے کانڈ پر کھلا کھلا ٹائپ کر کے ارسال کی جائیں گی۔ اصل نقل مع احکام واپس کر دی جائے گی اور سٹی اس دفتر میں برائے ریکارڈ رکھ لیا جائے گا۔

۱۵۔ خلاصہ جات برائے وزیر محکمہ

اپنے محکمے کے وزیر کی خدمت میں کوئی معاملہ پیش کرتے وقت خلاصہ ضرور پیش کیا جائے، بشرطیکہ مسل پر آخری کیفیت مکمل نہ ہو۔

۱۶۔ پیچیدہ اور طویل معاملات میں خلاصے

پیچیدہ اور طویل معاملات میں بالخصوص ایسے معاملات جن میں دیگر ڈویژنوں کے حوالے بھی شامل ہوں، افسر صیغہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایک حوالہ جات سے مزین علیحدہ خلاصہ (تین نقلیں) تیار کرے جو ہر لحاظ سے مکمل ہو، اور اس میں تمام اہم فیصلے شامل کر لیے گئے ہوں، اس خلاصے پر وہی افسر دستخط کرے گا، جس نے اسے تیار کیا ہو، ایسی صورتوں میں فائل کی کیفیت کے حصے میں متعلقہ معاملے کے حقائق کو دوبارہ نقل کرنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اس خلاصے کی ایک نقل دوسرا ڈویژن اپنے پاس رکھ سکتا ہے، جسے یہ مسل ارسال کی گئی ہو۔

۱۷۔ مسل پر موجود معاملے کا خلاصہ

اس کے علاوہ جو کہ سابقہ بیروں میں مخصوص مقاصد کے لیے خلاصے کے

متعلق لکھا جا چکا ہے، کسی بھی مسل پر ایک افسر صیغہ خلاصہ تیار کر کے لگا سکتا ہے، جب وہ یہ سمجھتا ہو کہ یہ طریق کار معاملہ فہمی اور جلد تصفیے کے لیے معاون ہو گا۔

۱۸۔ ہر قسم کے خلاصہ جات تیار کرنے کا طریقہ کار

ہر قسم کے خلاصہ جات تیار کرنے کے لیے مندرجہ ذیل طریق کار پر عمل کیا جائے گا:

(i) اس وزارت یا ڈویژن کا نام جس میں خلاصہ تیار کیا گیا ہو، خلاصے کی پیشانی پر درج کیا جائے گا (مسل کا نمبر اور تاریخ اجراء کے ہمراہ)۔

(ii) خلاصے کا عنوان اس امر کی وضاحت کرے گا کہ یہ خلاصہ کس کے لیے تیار کیا گیا ہے، مثلاً "صدر مملکت، وزیراعظم وغیرہ وغیرہ کے لیے، لیکن ایسی صورت میں کہ خلاصہ کسی مخصوص افسر کے لیے تیار نہ کیا گیا ہو، جیسا کہ پیچیدہ اور طویل معاملات میں ہوتا ہے، تو عنوان محض "خلاصہ" ہی کافی ہو گا۔

(iii) موضوع خلاصہ مختصر مگر بالذات مکملی برائے وضاحت عنوان خلاصہ کے بعد درج کیا جائے۔

(iv) خلاصے کے بیروں پر بالترتیب نمبر لگائے جائیں۔

(v) خلاصے کا آغاز مسئلہ زیر بحث کی نشاندہی سے کیا جائے، اس کے حل کے لیے ماضی میں کی گئی کوشش، اور اگر یہ مسئلہ حل نہ ہوا تو کونسی ناپسندیدہ صورت حالات کا سامنا کرنا پڑے گا، علی الترتیب لکھا جائے۔

(vi) اس کے بعد مسئلے کے مختلف حل بیان کر کے ان پر مختصر بحث کی جائے اور اپنے دلائل کے ساتھ سفارش کردہ طرز عمل برائے تصفیہ کی نشاندہی کی جائے۔

(vii) اگر کوئی سفارش مالی ضروریات کا تقاضا کرتی ہو، تو تخمینہ اخراجات (ملکی اور غیر ملکی مسلوں میں)، متوالی اور غیر متوالی اور اسے کس طرح حاصل کیا جائے، درج کیا جائے۔

(viii) کلینڈ وغیرہ کے لیے، خلاصے کے آخری حصے میں مندرجہ ذیل امور شامل

ہوں گے:

(الف) ایک پیرا جس میں مخصوص سفارش، اور عمل درآمد کا ذکر کیا جائے، جو مطلوب ہو۔

(ب) ایک پیرے میں یہ ذکر کیا جائے کہ کیا خلاصہ وزیر محکمہ متعلقہ کی منظوری سے جاری کیا گیا ہے۔

(ج) ایک پیرے میں اس امر کی توثیق کی جائے گی کہ دوسری متعلقہ ڈویژنوں نے متعلقہ خلاصے کو مسودے کے مرحلے پر دیکھ لیا ہے اور آیا ان قسموں کے وزراء اس کے اندراجات سے متفق ہیں، جبکہ کسی معاملے سے کئی ڈویژن متعلق ہوں اور ان کے درمیان اختلاف رائے ہو، تو ان کے نقطہ ہائے نظر کو خلاصے میں شامل کر لیا جائے۔

باب ۹

املاکی تکنیک

۱۔ املاکی اہمیت

اپنے ہاتھ سے کیفیات اور مسودے لکھنے کی بجائے املا قابل ترجیح ہے کیونکہ:

(الف) اس سے وقت بچتا ہے۔

(ب) یہ مختصر نویس کے فرائض منصبی میں دلچسپی کی باعث ہوتی ہے اور اس کی

اہمیت اور افادیت میں اضافے کا موجب بنتی ہے۔

(ج) ٹائپ شدہ کیفیات اور مسودے زیادہ واضح اور پرکشش ہوتے ہیں۔

(د) ہاتھ سے لکھی ہوئی کیفیات قاری کے ذہن پر کوئی اچھا اثر نہیں چھوڑتیں بلکہ

اس سے ذہنوں پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی ظاہری شکل و صورت بد نما

ہو جاتی ہے۔

۲۔ املاکی بنیادی شرائط

واضح اور مختصر املا کرانے کے لیے ایک افسر میں یہ خوبیاں ہونا ضروری ہیں:

(الف) اپنے فرائض منصبی کا کافی تجربہ، خیالات کی چنگلی اور فراوانی اور

تخیل کی سرعت۔

(ب) نفس مضمون کا قریبی علم اور معاملہ سے متعلق تمام حقائق پر عبور۔

(ج) زبان پر پورا قابو اور اظہار کے لیے الفاظ و فقرات کے انتخاب کی سہولت۔

۳۔ املا کرانے کی تیاری کیسے کی جائے
یہ دانش مندی ہوگی کہ:

(الف) تمام متعلقہ مواد کو حاصل کر کے ترتیب دے دیا جائے۔

(ب) متعلقہ حوالہ جات اور نظموں کو اپنے پاس محفوظ رکھ لیا جائے۔

(ج) املا کی تیاری کی غرض سے ایک مختصر سا خاکہ ایک کیفیت یا ایک مسودہ قبل از وقت تیاری کے طور پر تشکیل دے دیا جائے۔ اس سے ہمیں درج ذیل فوائد حاصل ہوں گے۔

۱۔ خیالات اور حقائق کو منطقی ترتیب دینے میں مدد ملے گی۔

۲۔ وقت سے قبل سوچ بچار میں مدد ملے گی۔

۳۔ اس سے روانی کے ساتھ مربوط فکری عمل کی طرف رہنمائی ہوگی اور افسر اور مختصر نویس دونوں کا وقت بچے گا۔

۴۔ مختصر نویس کو کب بلایا جائے

ایک مختصر نویس کو صرف اسی وقت بلایا جائے جبکہ افسر املا کرانے کے لیے بالکل تیار ہو، کیونکہ:

(الف) اس سے بار بار کی رکاوٹوں کا ازالہ ہو جائے گا۔

(ب) اس سے غیر مربوط فکر کی بندش ہو جائے گی۔

(ج) اس سے مختصر نویس کی دلچسپی قائم رہے گی اور وہ بھی افسر کے ساتھ دفتری امور میں مصروف رہے گا، ورنہ وہ بیکار بیٹھ کر پریشان ہوتا رہے گا جبکہ افسر فقروں کے بارے میں سوچتا رہے گا۔

(د) اس سے مختصر نویس کو مایوسی نہیں ہوگی اور اس کی رفتار اور فن میں مزید

نکھار پیدا ہو گا۔

۵۔ بیرونی

املا کے اختتام کے ساتھ فرائض منصبی کا خاتمہ نہیں ہو جاتا، سب سے پہلے مختصر نویس سے یہ کہا جائے کہ جو کچھ اس نے مختصر نویسی کی کاپی میں لکھا ہے، وہ الفاظ اور جملے پڑھ کر سنائے اس سے املا لکھوانے والے کو یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے زبانی ادا کردہ الفاظ تحریری طور پر بھی خوبصورت ہیں یا نہیں۔ اس عمل کو بار بار دہرانے سے عمدہ ذوق کی تخلیق ہوگی۔

جب املا ختم ہو جائے تو اس کا تنقیدی جائزہ لیا جائے، ایسا کرتے وقت مندرجہ ذیل امور ملحوظ رہیں

(الف) املا کے مواد کی ایک نقل رکھ لی جائے، بعد ازاں اس کا اصلاح کی غرض سے مطالعہ کیا جائے۔

(ب) ٹائپ شدہ نقل کی احتیاط سے پڑتال کی جائے تاکہ تکمیل اور صحت کا یقین ہو جائے۔

۶۔ کرنے اور نہ کرنے کی باتیں

○ املا کو اپنے اور مختصر نویس کے درمیان ایک مشترکہ عمل بنالیں۔

○ اگر ممکن ہو تو املا کے لیے ایک وقت مقرر کر لیں۔

○ غیر ضروری خلل اندازی سے بچیں۔

○ اپنی غلطیوں کا الزام مختصر نویس کو نہ دیں۔

○ غیر ارادی طور پر اور لاشعوری طور پر مختصر نویس کی طرف سے کی گئی غلطیوں کو درگزر کریں، اس کی کمزوریوں کو برداشت کریں۔

○ جب املا لکھوا رہے ہو، آرام اور سکون سے بیٹھیں اس سے فکر کا عمل

بہتر ہو گا۔

○ کام کو جلد ختم کرنے کے لیے بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، زود نویس کو ٹائپ کرنے کے لیے کافی وقت دیں تاکہ وہ آپ کے خوبصورت جملوں کو تحریر کی شکل میں محفوظ رکھ سکے۔

○ جب املا لکھ رہے ہوں تو تمباکو نوشی سے پرہیز کریں، پائپ یا سگریٹ سے واضح لب و لہجے اور تلفظ کو نقصان پہنچتا ہے۔ واضح اظہار کے لیے جبروں اور ہونٹوں کو پوری طرح کھلانا چاہیے۔

○ املا کے دوران ٹیلی فون کرنے سے احتراز کریں۔

○ نہ تو بالکل آہستہ بولیں اور نہ ہی شور مچائیں، ایک درمیانہ انداز ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔

○ املا کے وقت جم کر بیٹھیے۔

○ املا صبح سویرے کرا لیں تاکہ کام جلد ختم ہو سکے۔ صبح سویرے ایک گھنٹے کا کام پورے دن کی نسبت بہتر ہوتا ہے کیونکہ آپ تازہ دم ہوتے ہیں اور اس وقت ممانوں، ٹیلیفون کی گھنٹیوں اور افسروں کے سلاموں سے چھٹی ہوتی ہے۔ اس کے مقابلے میں بھیڑ کے دوران دو گھنٹے کا کام بھی کچھ حقیقت نہیں رکھتا۔

○ اپنے مختصر نویس کی آپ کے لیے عام خطوط اور یاد دہانیوں کو تیار کرنے میں حوصلہ افزائی کریں۔ اس میں اس وجہ سے اعتماد پیدا ہو گا اور آپ کو آرام ملے گا۔

○ اگر چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہوں تو انہیں درست کر لیا جائے، لیکن اگر بہت سی غلطیاں ہوں اور ان کی وجہ سے تیار شدہ کام برا لگے تو عام مواد کو دوبارہ ٹائپ کرا لیں، اس طرح تیار شدہ مواد قاری کو لکھنے والے کی شخصیت کا ٹھیک اندازہ مہیا کرنے کا ایک مسودہ یا کیفیت کتنی بھی خوبصورت ہو اگر اس میں ٹائپ کی بے شمار غلطیاں ہوں تو وہ قاری کو متاثر نہیں کر سکے گی۔

۷۔ یاد رکھنے کی عمومی باتیں

(الف) دفتر میں امور کے دوران بعض عمومی نوعیت کی باتیں ایسی ہوتی ہیں،

جنہیں یاد رکھنا از حد ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے پاس ایک ایسی ڈائری رکھیں جن پر نوٹس کی شکل میں محفوظ رکھتے جائیں۔

(ب) اپنے مختصر نویس سے کام لیتے وقت ایک افسر کو اس کی نفسیاتی کیفیات کا خیال رکھنا چاہیے۔

(ج) افسر کا رویہ بروقت حاکمانہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اسے موقع شناس اور بروہار ہونا چاہیے۔

(د) اگر مختصر نویس کا کوئی ذاتی مسئلہ ہو تو افسر کو اس کی مدد کرنی چاہیے۔

اگر وہ اس کی تکلیف کے ازالے کے لیے کچھ نہیں کر سکتا تو کم از کم اس سے ہمدردی کا اظہار ضرور کرے اس سے بہتر انسانی تعلقات ہمیشہ اہلیت میں اضافہ کرتے ہیں۔

۸۔ مراسلاتی نمونے

حکومت پاکستان

وزارت امور خارجہ

نمبر ۳۳ ف (ج)۔ ۲۱۔ ۱۰۔ ۷۲ اسلام آباد مجریہ ۱۵ اگست ۱۹۷۲

منجانب:

افسر صفحہ

بخدمت: افسر کبیر حسابات

وزارت امور خارجہ

اسلام آباد

موضوع: دورہ جناب شاہنواز صاحب، ستارہ خدمت ستارہ پاکستان

میس پی کے، پی ایف ایس

ناظم اعلیٰ، بطور خصوصی سفیر صدر برائے صوبالیہ

جناب والا

مجھے ہدایت کی گئی ہے کہ میں جناب صدر کی منظوری بابت منظوری دورہ جناب شاہنواز صاحب ستارہ خدمت، پی ایف ایس ناظم اعلیٰ بطور سفیر خصوصی صدر مملکت از ۱۵ اگست ۱۹۷۲ء تا ۲۲ اگست ۱۹۷۲ء کی آپ کو اطلاع دوں۔

۲۔ عرصہ مستعار الحدیثی بیرون ممالک کے دوران وہ ان کے تابع ہوں گے، جن کو بنیادی قیود و شرائط قوانین کے ضمیمہ ۷ میں اور ضمنی قوانین کی جلد ۲ میں وقتاً فوقتاً ترامیم کے ساتھ متعین کر دیا گیا ہے۔ ان کو دوران سفر اور بیرونی قیام کے دوران یومیہ الاؤنس اور ہوائی اڈے کا محصول بطور پیشگی زر مبادلہ میں پاکستان میں برآمد کرنے کی اجازت ہو گی، جس کے لیے وہ روپے کا تحفظ خود فراہم کریں گے، بشرطیکہ وہ اپنی تنخواہ اور یومیہ الاؤنس کے سلسلے میں کوئی رقم کسی غیر ممالک میں متعین پاکستانی سفارت خانے سے برآمد نہیں کرائیں گے۔ انھیں پاکستان سے صوبالیہ اور واپسی کا کفایتی درجے کا ہوائی جہاز کا کرایہ وصول کرنے کا حق ہو گا۔

۳۔ تیس برطانوی پونڈ (جو ۷۸ امریکی ڈالر کے برابر ہوتے ہیں) کی رقم میں بھی سائز اخراجات کے لیے ان کے حق میں بذریعہ ہذا منظور کی جاتی ہے۔ یہ رقم جناب شاہنواز کے حوالے کر دی جائے۔ وہ حسب معمول اس کے حسابات پیش کریں گے۔

۴۔ نمائندہ خصوصی کے لیے یومیہ الاؤنس اور اخراجات و اخراجات سمان نوازی سے متعلق زر مبادلہ (جس کا ذکر پیرا ۲ میں کر دیا گیا ہے) واگذاشت کر دیا جائے گا۔ زر مبادلہ کے اخراجات، وزارت امور خارجہ کے اس سال کے لیے مخصوص زر مبادلہ میں ادا کیے جائیں گے اور روپے کے اخراجات بزر عنوان "۳۵۔ امور خارجہ۔۔۔۔۔ (ب) تفرقات۔۔۔۔۔ ب۔ ۲ اقوام متحدہ و دیگر مشاورتوں کے لیے وفد" میں مجرا کیے جائیں گے اور وزارت کی منظور شدہ گرانٹ شمولہ بجٹ سال رواں سے پورے کیے جائیں گے۔

۵۔ بذریعہ ہذا وزارت مالیات کی رضامندی بحوالہ غیر سرکاری مراسلہ، نمبر ۳۰۱۔ ڈی۔ ایف اے ۷۲ بحجریہ ۱۵ اگست ۱۹۷۲ء کا اجرا ہوا۔

آپ کا خادم
دستخط
افسر صیغہ

نقل بخدمت:

- ۱۔ جناب شاہنواز صاحب، ستارہ پاکستان، ستارہ خدمت، پی ایف ایس
- ۲۔ سفارت پاکستان، جدہ
- ۳۔ منتظم زر مبادلہ، بینک دولت پاکستان، اسلام آباد، مع درخواست کہ مناسب اجازت برائے جناب شاہنواز ناظم اعلیٰ، وزارت امور خارجہ حکومت پاکستان، اسلام آباد جاری فرما دیا جائے۔

مالیات ڈویژن

شعبہ مشیر مالیات، اسلام آباد

بحجریہ ۱۵ اگست ۱۹۷۲ء

نقل ہذا افسر اعلیٰ حسابات، وزارت امور خارجہ، اسلام آباد

دستخط
نائب مشیر مالیات

(ii)

حکومت پاکستان

وزارت داخلہ

نمبر: ۱۹/۳۷/۵۷۔ سی ڈی کراچی ۳ نومبر ۱۹۸۰ء

دفتری یادداشت

موضوع: وفاقی رصوبائی حکومتوں کے ترقیتی اداروں زیر تربیت سرکاری ملازمین کے لیے سفر خرچ و روزینہ کی منظوری
 زیر دستخطی کو یہ گزارش کرنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ سرکاری ملازمین جن کو صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے ادارہ جات برائے تربیت شہری دفاع میں ان کے صدر مقامات ہیڈ کوارٹرز کے علاوہ کسی دوسرے مقام پر تربیت حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہو، انھیں مندرجہ ذیل شرح کے مطابق سفر خرچ و روزینہ حاصل کرنے کا حق حاصل ہو گا:

- (۱) سفر خرچ جیسا کہ انھیں دورے کے دوران ملتا ہے۔
- (۲) مروجہ قواعد کے مطابق روزینہ کی وصولی۔

دستخط

(.....)

نائب معتمد و نائب ناظم اعلیٰ

بخدمت:

جملہ وزارتیں رڈویشن، روزینہ شہری دفاع، روزینہ حکومت پاکستان

(ii)

نیم سرکاری مراسلہ

منجانب (.....)

نائب ناظم اعلیٰ

(صحت)

فون نمبر:.....

ڈی او نمبر

حکومت پاکستان

وزارت صحت، صحت و معاشی بہبود

(صحت رڈویشن) اسلام آباد

پیارے خان صاحب!

کیا آپ نظر کرم کرتے ہوئے اپنے نیم سرکاری مراسلہ نمبری.....
 بحریہ..... بہ موضوع منصوبہ بہبودی صحت کی طرف توجہ مبذول فرمائیں گے۔
 ۲۔ میں آپ کی خدمت میں منصوبے سے متعلق ایک مسودہ ارسال کر رہا ہوں،
 میں شکر گزار ہوں گا کہ آپ اس کا مطالعہ فرمائیں اور جتنا جلد ممکن ہو اس پر
 اپنی آراء سے مطلع فرمائیں، یہ تجویز کیا گیا ہے کہ اگلے ماہ کے آغاز میں ایک
 اجلاس بلا کر امر متعلقہ کا تفسیر کر لیا جائے۔
 اس معاملے میں آپ کا جلد جواب باعث مسرت ہو گا۔

آپ کا مخلص

دستخط

نائب ناظم اعلیٰ

صحت

بخدمت

شریک معتمد

منصوبہ ہندی و ترقیات ڈویشن

اسلام آباد

(iv)

حکومت پاکستان

ڈویشن صنعت

بحریہ ۱۵ فروری ۱۹۸۵ء

نمبر امر نمبر ۱

یادداشت

موضوع: معاون کی اسامی کے لیے بھرتی

بجوالہ درخواست مورخہ ----- جناب ----- کو معاون کی عارضی
جناب ----- کی درخواست مورخہ ----- کے حوالے سے انھیں
صحت ڈورین میں معاون کی عارضی اسامی درج ذیل شرائط کے تابع پیش کی جاتی ہے۔

(i)

(ii)

(iii)

۲۔ اگر جناب ----- اس پیش کش کو قبول کرنے پر رضامند ہوں تو
وہ زیر دستخطی کے پاس ----- تک حاضر ہو جائیں، بصورت دیگر تقرری کی
پیش کش منسوخ سمجھی جائے گی۔

افسر صیغہ

بخدمت

(v)

حکومت پاکستان

وزارت امور خارجہ

نمبر ایف: ۱۰-۱۰۵۸-ایف ۱۰
اسلام آباد، تاریخ: ----- ۱۹

یادداشت

موضوع: مراسلات کی ترسیل

یہ علم میں آیا ہے کہ بعض پاکستانی سفارت خانے ابھی تک ہمارے سفارت

خانہ واقع شاک ہوم میں پرانے پتے پر ڈاک ارسال کر رہے ہیں، حالانکہ ان تمام
سفارتخانوں کو بہت پہلے مذکورہ سفارت خانے کے پتے کی تبدیلی سے بجوالہ وزارت ہذا
یادداشت نمبر ----- بحریہ ----- آگاہ کر دیا گیا تھا۔ اس پتے
کو یہاں دوبارہ درج کیا جاتا ہے اور گزارش کی جاتی ہے کہ تمام متعلقہ ارکان کو اس
تبدیلی سے آگاہ کر دیا جائے۔

سفارت خانہ پاکستان

جی آر۔ v میکسٹینٹ

شاک ہوم سوئیڈن

فون:

دستخط افسر صیغہ

فون:

۱۔ جملہ سفارت خانہ جات پاکستان

غیر ممالک

۲۔ جملہ وزارتیں رڈورین اور ملحقہ محکمہ جات

۳۔ تمام صوبوں کے مستمدین اعلیٰ

(vi)

غیر رسمی نوٹ:

موضوع: بین الاقوامی پاسپورٹ

پاسپورٹ کے اجراء کو منضبط بنانے کے لیے موجودہ قواعد منجمد دیگر امور کے یہ
بیان کرتے ہیں کہ کسی درخواست گزار کو پاسپورٹ پولیس کی حتمی اور مکمل تحقیقات
کے بعد اور ان کی طرف سے موصولہ رپورٹ بعد ہی جاری کیا جائے گا۔

۲۔ یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا وقت کی ایک حد مقرر کر دی جائے کہ اس کے
بعد پولیس کی طرف سے کاغذات کی واپسی کا انتظار کیے بغیر پاسپورٹ جاری کر دیا

جائے۔

یہ ڈویژن قانون ڈویژن کی شکر گزار ہو گی، اگر وہ مندرجہ بالا پیرا ۲ میں دی گئی تجویز سے متعلق اپنی رائے سے آگاہ فرمائیں۔

دستخط

فون:

قانون ڈویژن، اسلام آباد

داخلہ ڈویژن غیر رسمی نوٹ ۳ داخلہ ۸۱، مجریہ ۳ ستمبر ۱۹۸۱ء

(۷)

حکومت پاکستان

وزارت امور خارجہ، اسلام آباد

موضوع: جناب _____ کو کراچی سے بصرہ تک ہوائی جہاز کے کرایہ کی ادائیگی

بحوالہ وزارت ہذا غیر سرکاری نوٹ نمبر _____ مجریہ _____ اس بل کی ادائیگی جس کا حوالہ مندرجہ بالا غیر سرکاری نوٹ میں دیا گیا تھا، اب تک ناظم اعلیٰ حسابات (پاکستانی محاسبات) کی طرف سے میسرز والکرٹ برادرز کو (بحوالہ مراسلہ ناظم اعلیٰ حسابات جی اے _____ مجریہ _____) کی جا چکی ہے، اس کی نقل وزارت ہذا کی معرفت وزارت مالیات مہیا کی گئی تھی، ایک کی نقل شامل مراسلہ ہے۔ لہذا درخواست کی جاتی ہے کہ ہماری اصل مسل جو ہم نے مالیات ڈویژن کو غیر سرکاری نوٹ نمبر _____ مجریہ _____ کے تحت ارسال کی تھی، ازراہ کرم واپس کر دی جائے تاکہ ہم اپنے کلذات جلد از جلد مکمل کر سکیں۔

دستخط

فون:

مالیات ڈویژن حکومت پاکستان

وزارت خارجہ غیر رسمی نوٹ نمبر _____ مورخہ _____

ڈی۔ ۵۲۱۔ این ۳۹، مجریہ ۸۰۔ ۲۔ ۲۵

(۲۱۱)

اخباری اعلامیہ

بدھ، ۳ مارچ ۱۹۸۱ء کی صبح _____ بجے سے پہلے اسے شائع کیا جائے نہ نشر کیا جائے۔

اخباری اعلامیہ

بلغاریہ اور پاکستان کے درمیان سفارتی تعلقات

حکومت پاکستان اور حکومت بلغاریہ نے اس امر پر اتفاق کر لیا ہے کہ سفیروں کی سطح پر سفارتی تعلقات قائم کر لیے جائیں۔ ان کو یقین ہے کہ موجودہ باہمی دوستانہ تعلقات اس عمل سے مزید مضبوط ہو جائیں گے اور دونوں ممالک کے لیے فائدے کا باعث ہوں گے۔

افسر اعلیٰ اطلاعات، محکمہ اطلاعات عامہ، حکومت پاکستان اسلام آباد کی خدمت میں درخواست ہے کہ اخباری اعلامیہ کو جاری کر کے خاصی تشریح کی جائے۔

دستخط ناظم اعلیٰ

وزارت امور خارجہ

اسلام آباد مورخہ _____

اسلام آباد

(۱۹)

اخباری اعلامیہ

حجاج کی بذریعہ ہوائی جہاز اضافی نشستیں منسوخ کر دی گئیں

حکومت پاکستان نے تجویز کیا تھا کہ اس سال ہوائی جہازوں کی مقررہ نشستوں کے علاوہ حجاج کو ۷۰۰ اضافی نشستیں مہیا کر کے حج پر بھیجا جائے۔ بعض ناگزیر حالات کی بنا پر حکومت کی یہ خواہش پوری نہ ہو سکی۔

لہذا یہ ممکن نہ ہو گا کہ حج کا ارادہ رکھنے والے ان تمام اصحاب کو جن کے نام اضافی نشستوں کے لیے حالیہ چناؤ میں درج کیے گئے تھے، اس سال حج پر بھیجا جاسکے۔

حکمہ اطلاعات حکومت پاکستان کی خدمت میں ارسال ہے تاکہ اخباری اعلامیہ جاری کیا جائے اور اسے بھرپور طریقے سے مشترک کیا جائے۔

دستخط ناظم

وزارت دینی امور حکومت پاکستان

اسلام آباد

کراچی فروری

(x)

سفارت پاکستان

ارجنٹائن

سفارت خانہ اسلامی جمہوریہ پاکستان وزارت امور خارجہ جمہوریہ ارجنٹائن کی خدمت میں داد و تحسین پیش کرتی ہے اور یہ گزارشات پیش کرنے میں فخر محسوس کرتی ہے کہ افغانستان میں حالات خراب ہو جانے کے باعث ہزاروں افغان باشندے سرحد پار کر کے پناہ لینے کی غرض سے بہت ہی قابل رحم حالت میں پاکستان میں آ گئے ہیں، حکومت پاکستان نے ان کو خالص انسانی ہمدردی کی بناء پر قبول کیا ہے۔ ان کی تعداد اب تک ۲۶۵ ملین افراد تک پہنچ چکی ہے اور روسی فوج کی افغانستان میں دخل اندازی کی وجہ سے اس تعداد میں مزید اضافہ متوقع ہے۔ اس نے پاکستان کے محدود

ذرائع پر بہت بڑے بوجھ کا اضافہ کر دیا ہے۔

حکومت پاکستان نے قبل ازیں کئی بین الاقوامی اداروں کو افغان پناہ گزینوں کی نگہداشت کے لیے اعانت کی درخواست کر رکھی ہے۔ ان اداروں اور کچھ دوست ممالک کی طرف سے ہمیں اب تک صرف بیس ملین امریکی ڈالروں کی مدد مل سکی ہے جبکہ موجودہ افغان پناہ گزینوں کی اس تعداد کی نگہداشت پر ہمارے ۸۰ (سی) ملین امریکی ڈالر سالانہ خرچ ہو رہے ہیں۔ اس لیے ان حالات کے پیش نظر حکومت پاکستان کے لیے یہ ضروری ہو گیا ہے کہ وہ دوست حکومتوں اور بین الاقوامی اداروں سے مزید امداد کے لیے درخواست کرے۔

سفارت خانہ برائے اسلامیہ جمہوریہ پاکستان زیر ہدایت حکومت پاکستان قابل احترام حکومت جمہوریہ ارجنٹائن سے افغان پناہ گزینوں کی بہبود کے لیے انسانی بنیاد پر ہر قسم کی اعانت کے لیے درخواست کرتی ہے بشرطیکہ یہ مدد حکومت پاکستان کے متعلقہ ادارہ جات کی معرفت مہیا کی جائے۔ اس سلسلے میں ضروریات ترجیحاً اس طرح ہیں۔

(الف) نقد اعانت

(ب) خیمے

(ج) گرم کپڑے

(د) کھیل

(ه) گندم

(و) خوردنی تیل

(ز) شکر

(ح) چائے کی پتی

سفارت حکومت پاکستان اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک بار پھر وزارت خارجہ حکومت ارجنٹائن کو بہت زیادہ پاس و مروت کا یقین دلاتی ہے۔

وزارت امور خارجہ

جمہوریہ ارجنٹائن ایونس آئرز

سر
بیونس آئرس

تصریح

اسی قسم کے کیفیت نامے ایسے تمام ممالک کو جاری کیے گئے تھے جن کے ساتھ باہمی سفارت خانے قائم ہیں۔ مثلاً "چلی" "پیرو" "پورا گوانے اور ایکواڈور" معرفت سفارت خانہ جات، "مقیم بیونس آئرس

دستخط

ریاض الدین احمد

وزیر مختار

باب ۱۰

مالیاتی طریق کار

۱- اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین سے اقتباس

(۱) وفاقی اشتہالی فنڈ اور سرکاری حساب

۱- وفاقی حکومت کے وصول کردہ تمام محاصل، اس حکومت کی وصول کردہ تمام

رقوم مجموعی فنڈ کا حصہ ہوں گی جسے وفاقی اشتہالی فنڈ کہا جائے گا۔

۲- تمام دیگر رقوم۔۔۔۔۔

(الف) جو وفاقی حکومت وصول کرے یا اس کے نام پر وصول کی جائیں یا

(ب) عدالت عظمیٰ یا وفاق کے اختیار کے تحت قائم کردہ کسی دیگر عدالت کی

طرف سے وصول کردہ یا اس کے پاس جمع کرائی گئی رقوم۔

(۲) وفاقی اشتہالی فنڈ اور سرکاری حساب کی تحویل

وفاقی اشتہالی فنڈ کی تحویل، اس فنڈ میں رقوم کی ادائیگی اور اس سے رقوم کی

اعانت یاداشت

(۱۱)

حکومت پاکستان کو بھارتی باشندوں کی طرف سے اس قسم کی درخواستیں موصول ہو رہی ہیں کہ انھیں پاکستان میں مزید قیام کی اجازت دی جائے اور اس کے لیے وہ یہ وجوہات تحریر کرتے ہیں کہ یا تو ان کے پاسپورٹ کھو گئے ہیں یا ان کی قانونی میعاد جواز ختم ہو چکی ہے اور یہ کہ انھوں نے بھارتی سفارت خانے کو اس بارے میں درخواست دے رکھی ہے۔ بھارتی سفارت خانے سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ ان بھارتی باشندوں کو نئے پاسپورٹ جاری کرے یا ان کی میعاد میں توسیع کرے۔ اگر یہ ممکن نہ ہو تو بھارتی سفارت خانہ ان بھارتی باشندوں کو واپس وطن بھیجنے کا کوئی اور انتظام کرے۔

بازخواست، وفاقی حکومت کی طرف سے یا وفاقی حکومت کے نام پر وصول کردہ دیگر رقوم کی تحویل، ان کی وفات کے سرکاری حساب میں ادائیگی یا اس سے بازخواست اور مذکورہ معاملات سے متعلق تمام معاملات یا ضمنی معاملات کی ضابطہ بندی مقصد کے ایکٹ کے ذریعے یا اس سلسلے میں قانون وضع ہونے تک صدر مملکت کے وضع کردہ قواعد کے تحت ہوگی۔

(۱۱) سالانہ کیفیت میزانیہ

۱۔ وفاقی حکومت ہر مالی سال کے سلسلے میں اس سال کے لیے وفاقی حکومت کی وصولیوں اور اخراجات کے تخمینہ جات کا کیفیت نامہ قومی اسمبلی کے سامنے پیش کرے گی جس کا حوالہ اس حصہ میں سالانہ تخمینہ جات میزانیہ کے طور پر دیا گیا ہے۔

۲۔ سالانہ کیفیت میزانیہ الگ الگ ظاہر کرے گا۔

(الف) ایسی رقوم جو آئین کے مطابق وفاقی اشتمالی فنڈ سے واجب الوصول اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مطلوب ہوں اور

(ب) دیگر اخراجات کو پورا کرنے کے لیے رقوم جن کو وفاقی اشتمالی فنڈ سے خرچ کرنے کی تجویز ہو۔ محاصل کے اخراجات اور دیگر اخراجات کے مابین امتیاز کرے گا۔

(۱۲) وفاقی اشتمالی فنڈ سے واجب الوصول اخراجات

حسب ذیل اخراجات وفاقی اشتمالی فنڈ سے واجب الوصول اخراجات ہوں گے:

(الف) صدر مملکت کو قابل ادائیگی معاوضہ اور اس کے دفتر سے متعلق دیگر اخراجات اور حسب ذیل کو قابل ادائیگی معاوضہ

۱۔ عدالت عظمیٰ کے جج صاحبان

۲۔ چیف ایگیشن کمشنر

۳۔ سینٹ کے چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین

۴۔ قومی اسمبلی کے سپیکر اور ڈپٹی سپیکر

۵۔ محاسب اعلیٰ

(ب) عدالت عظمیٰ، محکمہ محاسب اعلیٰ، دفتر چیف ایگیشن کمشنر اور ایگیشن

کمیشن، سینٹ اور قومی اسمبلی سیکریٹ کے انتظامی اخراجات مع افسران اور

ملازمین کو قابل ادائیگی معاوضہ

(ج) تمام مصارف قرضہ مع سود، مصارف بے باقی فنڈ، اصل زر کی واپسی

اور بے باقی اور قرضہ جات حاصل کرنے کے سلسلے میں دیگر اخراجات اور

وفاقی اشتمالی فنڈ کی ضمانت پر قرضے کے اجرا اور واپسی، جن کی وفاقی

حکومت ذمہ دار ہو۔

(د) کسی عدالت یا ٹریبونل کی طرف سے پاکستان کے خلاف کسی فیصلے،

ڈگری یا ثالثی فیصلے کو بے باق کرنے کے لیے مطلوب رقوم

(ه) کوئی اور رقوم جن کا آئین یا مقصد کے ایکٹ کے ذریعے اس طرح

واجب الوصول ہونے کا اعلان کیا جائے۔

(۱۳) سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ سے متعلق طریقہ کار

۱۔ سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کا اتنا حصہ جتنا وفاقی اشتمالی فنڈ سے واجب الوصول

اخراجات سے متعلق ہو اس پر قومی اسمبلی میں بحث ہو سکتی ہے لیکن اسے قومی

اسمبلی کے ووٹ کے لیے پیش نہیں کیا جائے گا۔

۲۔ سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ کا اتنا حصہ جتنا دیگر اخراجات سے متعلق ہو،

مطالبات زر برائے گرانٹ کی صورت میں قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا جائے

گا اور اسمبلی کو اختیار ہو گا کہ کسی مطالبہ زر کی منظوری دے یا منظوری دینے

سے انکار کر دے یا متعینہ رقم کی کٹوتی کے تحت کسی مطالبہ زر کی منظوری دے

۳۔ بشرطیکہ قومی اسمبلی کے آغاز سے دس سال کی مدت تک یا قومی اسمبلی کے دوسرے عام انتخابات ہونے تک جو بھی بعد میں وقوع پذیر ہو۔ کسی مطالبہ زر کو کسی کٹوتی کے بغیر منظور شدہ تصور کیا جائے، بجز اس کے کہ اسمبلی کے کل ارکان کی اکثریت ووٹ کے ذریعے منظوری دینے سے انکار کر دے یا متعینہ رقم کی کٹوتی کے تحت منظوری دیدے۔

۴۔ وفاقی حکومت کی سفارشات کے بغیر کوئی مطالبہ زر برائے گرانٹ پیش نہیں کیا جائے گا۔

(vi) مجاز اخراجات کے ذریعے جدول کی توثیق

۱۔ وزیر اعظم اپنے دستخطوں کے ذریعے جدول کی توثیق کریں گے جس میں تصریح کی جائے گی۔

(الف) دفعہ ۸۲ کے تحت قومی اسمبلی کی طرف سے دی گئی گرانٹوں کی اور

(ب) وفاقی ایشمال فنڈ سے واجب الوصول اخراجات کو پورا کرنے کے لیے مطلوب رقم کی۔ لیکن کوئی رقم بھی اس سے قبل قومی اسمبلی کے سامنے پیش کردہ کیفیت نامہ میں مذکورہ رقم سے زائد نہیں ہوگی۔

۲۔ اس طرح توثیق شدہ جدول قومی اسمبلی کے سامنے پیش کی جائے گی لیکن اس پر کوئی بحث یا ووٹ نہیں ہوگا۔

۳۔ آئین کے تحت وفاقی ایشمال فنڈ سے کوئی خرچ باضابطہ طور پر مجاز تصور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ توثیق شدہ جدول میں اس کی تصریح نہ کی گئی ہو اور شق (۲) کے تحت اس جدول کو قومی اسمبلی کے سامنے پیش نہ کیا گیا ہو۔

(vii) ضمنی اور زائد گرانٹیں

اگر کسی مالی سال کے سلسلے میں یہ معلوم ہو.....

(الف) کہ کسی خاص خدمت پر رواں سال کے لیے اخراجات کی خاطر مجاز کردہ

رقم ناکافی ہے یا یہ کہ کسی نئی خدمت پر خرچ کی ضرورت آ پڑی ہے کو کہ اس سال کے سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ میں شامل نہیں تھی، یا

(ب) کہ کسی خدمت پر کسی مالی سال کے دوران اس سال کے لیے اس خدمت کی خاطر منظور کردہ رقم سے زائد رقم خرچ ہو گئی ہے۔ تو وفاقی حکومت کو وفاقی ایشمال فنڈ سے خرچ کی اجازت دینے کا اختیار ہو گا چاہے خرچ آئین کے تحت فنڈ سے واجب الوصول ہو یا نہ ہو یا وفاقی حکومت قومی اسمبلی کے سامنے ضمنی کیفیت نامہ میزانیہ یا جیسی بھی صورت ہو، کیفیت نامہ زائد میزانیہ پیش کرے گی جس میں اس خرچ کی رقم درج کی جائے گی اور دفعہ ۸۰ تا دفعہ ۸۳ کے متن کا اطلاق ان کیفیت ناموں پر اسی طرح ہو گا جس طرح کہ ان کا اطلاق سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ پر ہوتا ہے۔

۲۔ میزانیہ کاری

مالیاتی انضباط اور میزانیہ کاری کا نظر ثانی شدہ نظام ۱۹۶۰ء میں نافذ کیا گیا تھا۔ اس کے بعد مسلسل اس کا جائزہ لیا جاتا رہا ہے اور وقتاً فوقتاً اس میں اصلاح ہوتی رہی ہے۔

۲۔ اس نظام کے تحت عملے اور منصوبہ جات کے سلسلے میں انتظامی وزارتوں کی پیش کردہ تجاویز کے لیے میزانیہ میں رقوم رکھنے سے قبل وزارت مالیات ترقیاتی عامل پارٹی ر قومی اقتصادی کونسل احتیاط سے چھان بین کرتی ہے۔ لیکن ایک دفعہ حاکم مجاز کی طرف سے منصوبے کی حتمی منظوری کے بعد اور میزانیہ میں اس کے لیے رقم رکھنے کے بعد انتظامی وزارتوں کو پورا اختیار ہوتا ہے کہ وہ تفویض کردہ اختیارات کے تحت میزانیہ گرانٹوں کی حدود میں اخراجات کی منظوری دیں۔

۳۔ معتمد جس میں قائم مقام معتمد، اضافی معتمد اور کسی وزارت ڈویژن، اس کے ماتحت محکمہ جات اور ماتحت دفاتر کے لیے وزارت ڈویژن کے زیر انضباط مطالبات زر سے ہونے والے اخراجات کے سلسلے میں افسر خاص حساب داری ہوتا ہے۔ افسر

خاص حساب داری حسب ذیل امور کو یقینی بنانے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔

(الف) اس کی وزارت رڈویشن، ملحقہ محکمہ جات یا ماتحت دفاتر کے لیے متعین کردہ رقوم اسی مقصد کے لیے خرچ کی جائیں جس کے لیے ان کا تعین کیا گیا ہو اور یہ کہ اخراجات گرانٹ کی حدود کے اندر ہوں۔

(ب) رقوم کو متعلقہ قواعد و ضوابط کے حوالے سے تفویض کردہ اختیارات کے مطابق خرچ کیا جائے۔

(ج) اصل اخراجات مختص کردہ میزانیہ سے زائد نہ ہوں۔ تمام ادائیگیوں کی قسم بندی درست طور پر متعلقہ حساب کے تحت کی جائے اور محکمہ حسابات کی ہر ماہ حسابہ کے حسابات کے ساتھ تطبیق کی جائے اور زوائد اور بچتوں کے تسویہ کے لیے بروقت کارروائی کی جائے۔

(د) اخراجات مالیاتی موزونیت کے اعلیٰ اعتبار کو پیش نظر رکھتے ہوئے کیے جائیں۔

(ه) اس بات کو یقینی بنانا کہ اس کی وزارت رڈویشن سے متعلق معاملات و وصولیات میں محاصل جمع کرنے اور انھیں حساب میں لانے کے لیے مناسب مشینری موجود ہے۔

۴۔ معتمد صاحبان کو یہ ذمہ داری اس حقیقت کے پیش نظر تفویض کی گئی تھی کہ مالیات اور انتظامیہ کو الگ کر دیا جائے اور مالیات کو دیگر عناصر سے الگ کر دیا جائے۔ حکمت عملی کے فیصلوں میں اہم جزو ہوتے ہیں تو مالیاتی معاملات کی طرف مناسب توجہ نہیں دی جاسکتی۔ لہذا یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ آئندہ حکمت عملی کے تمام سوالات پر غور و فکر کرتے وقت مالیات کو ابتدا سے ہی ایک ضروری جزو تصور کیا جائے گا اور وزارت رڈویشن کے انتظامی سربراہ اور باکفایت انتظامیہ کے لیے اس بات کو پیشگی شرط کے طور پر یقینی بنائیں گے کہ حکمت عملی کے فیصلے کرتے وقت اور انھیں عملی جامہ پہناتے وقت ان کی وزارت رڈویشن تمام مرحلوں پر مالیاتی پہلوؤں کو پیش رکھے گی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ افسر خاص حساب داری کی حیثیت سے وہ

وزارت رڈویشن کو تفویض کردہ کام کے سلسلے میں مجموعی طور پر اہل اور باکفایت کارکردگی کے جواب دینے کے لیے تیار رہے۔

۵۔ دو اہم اصول جن کا خیال رکھنا خاص حساب داری کے لیے ضروری ہے وہ کفایت اور ضابطے کے تحت کارروائی ہیں۔ کیونکہ کسی نظام کی کامیابی کا انحصار اس جوش اور جذبے پر ہے جس کے تحت روزمرہ انتظام میں ان کو ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ کفایت کا مطلب ہے خرچ کردہ رقم سے پوری پوری قدر حاصل کرنا اور ضابطے سے مراد ہے قانون کے مقرر کردہ مقاصد کے لیے رقم خرچ کرنا۔ ضروری نہیں ہے کہ دونوں ایک ہوں کیونکہ یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ آئینی ضابطے کے بغیر بھی روپیہ خرچ کرنے میں ضیاع ہو سکتا ہے۔ یہ متفحصانہ کسی وزارت رڈویشن کے لیے متعین کی جانے والی رقوم اسی مقصد یا مقاصد کے لیے خرچ کیے جائیں جس کے لیے ان کا تعین کیا گیا ہو۔ متفحصانہ کی اخراجات پر نگرانی کا اہم حصہ ہے۔ اگر انتظامی حاکم مجاز متفحصانہ کے مجاز کردہ مقصد کے علاوہ کسی اور مقصد کے لیے رقوم کی منظوری دے تو یہ اس نگرانی کی نئی ہوگی۔ لہذا اس بات کو یقینی بنانا افسر اعلیٰ حساب داری کا فرض ہے کہ اخراجات گرانٹ یا تخصیص کی حدود کے اندر رہیں۔ اخراجات کی منظوری دیتے وقت اسے اپنے ماتحتوں کے نام اس امر کی ہدایات جاری کر کے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ متعلقہ قواعد و ضوابط کی ضروریات پر مکمل طور پر عمل درآمد کیا جائے اور جہاں ضروری ہو وزارت مالیات کی منظوری حاصل کی جائے۔

۶۔ وفاقی حکومت کے حسابات حد بندی پر مجلس حسابات عامہ غور کرتی ہے جو ہمیشہ دوسری باتوں کے علاوہ اس بات میں دلچسپی رکھتی ہے کہ ظاہراً "ضیاع اور فضول خرچی کے معاملات کے بارے میں معلوم کرے۔ مجلس عموماً توقع رکھتی ہے کہ افسر اعلیٰ حساب داری اسے اس بات سے مطمئن کرے گا کہ متفحصانہ کی منظور کردہ حکمت عملی پر کفایت کا لحاظ کرتے ہوئے عمل کیا گیا ہے اور اس کے برعکس مجلس کے علم میں لائی جانے والی کسی مثال کے بارے میں وضاحت پیش کرے گا۔ لہذا اسے مالی معاملات کی خود دیکھ بھال کرنی چاہیے کیونکہ اخراجات پر نگرانی کے سلسلے میں اس طرف سے اور

اس کے ماتحتوں کی طرف سے کوئی بھی لے لے وہ خود ذمہ دار ہو گا۔ اس مقصد کے لیے اسے اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ وہ خود اور اس کے ماتحت وقتاً فوقتاً حکومت کی جاری کردہ ہدایات کی خلاف ورزی نہ کریں جو اس کے پاس رکھی گئی رقوم کے استعمال کے بارے میں ہوں۔ ذاتی جواب دہی کے اصول کا اطلاق اس صورت میں نہیں ہو گا اگر افسر اعلیٰ حساب داری کے فیصلے کو متعلقہ وزیر رد کر دے۔ بعض اوقات ایسا ہو سکتا ہے کہ افسر اعلیٰ حساب داری کے فیصلے کو وزارت ڈویژن کے مالیاتی انتظام پر اثر انداز ہونے والے اہم معاملے میں رد کر دیا گیا ہو اور اسے ایسا رستہ اختیار کرنا پڑے گا جو کہ افسر اعلیٰ حساب داری (Principal Accounting Officer) کی حیثیت سے اس کے فرائض کے خلاف ہو۔ ان حالات میں اسے دوبارہ معاملے کو متعلقہ وزیر کے سامنے پیش کرنے سے نہیں ہچکچانا چاہیے اور یہ وضاحت کرنی چاہیے کہ یہ طریقہ کیسے افسر خاص حساب داری کی حیثیت سے اس کے فرائض کے برعکس ہے۔

۷۔ اپنے فرائض کی بجا آوری میں افسر خاص حساب داری کو وزارت ڈویژن سے منسلک مشیر مالیات سے مشورہ کرنے سے نہیں ہچکچانا چاہیے۔ یہ لازمی ہے کہ انتظامی وزارتوں، ڈویژنوں اور وزارت مالیات کے مابین قریب ترین رابطہ اور تعاون ہو۔

۳۔ افسر مالیات و حسابات

ہر وزارت ڈویژن میں کسی نائب معتمد یا افسر صنف کو افسر مالیات و حسابات بنا دیا جاتا ہے۔ وہ افسر خاص حساب داری کو تمام مالیاتی، میزانیاتی اور حساباتی معاملات میں مشورہ دینے کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ متعلقہ وزارت ڈویژن کے زیر اختیار ہوتا ہے اور اسی کے میزانیہ سے اسے ادائیگی ہوتی ہے۔ وہ براہ راست افسر اعلیٰ حساب داری کے تحت کام کرتا ہے اور اگر یہ ممکن نہ ہو تو اس سے نیچے اعلیٰ افسر کے تحت اس کے فرائض اور ذمہ داریاں حسب ذیل ہیں:

(۱) وزارت مالیات کے عہدہ مراسلہ برائے طلبی میزانیہ کے مطابق

وزارت ڈویژن اس کے ملحقہ محکموں اور ماتحت دفاتر کی وصولیات و اخراجات کے میزانیاتی تخمینہ جات مع نئے اخراجات کے کیفیت نامہ کے اور ضمنی گرانٹوں سے پورا کرنے کے لیے اضافی رقوم کی تجاویز کا رابطہ اور اندرونی جانچ پڑتال

(ii) سالانہ ترقیاتی پروگرام کا اشمال اور اس امر کو یقینی بنانا کہ وزارت ڈویژن کی ترقیاتی سکیمیں مقررہ طریق کار اور ہدایات کے مطابق تیار کی جاتی ہیں۔

(iii) تفویض شدہ اختیارات کے میدان میں جہاں طلب کیا جائے مشورہ دینا۔

(iv) مقررہ طریق کار کے مطابق غیر تفویض شدہ حدود کے تمام معاملات، بیرونی زرمبادلہ کے معاملات اور ضمنی مطالبات زر جو متعلقہ مشیر مالیات کے ذریعے مالیات ڈویژن کو ارسال کرنے مقصود ہوں، ان پر کارروائی کرنا۔

(v) مناسب طریقے پر حسابات رکھنا اور محکمہ محاسبی کے اصل اعداد و شمار کے ساتھ ان کی بروقت تطبیق کرنا اور وزارت ڈویژن، ان کے ملحقہ محکمہ جات اور ماتحت دفاتر میں ”نومہ داریوں کا رجسٹر“ مرتب کرنا اور اخراجات و وصولیات کے ارتقا کی نگرانی کرنا اور وزارت ڈویژن سے ماہوار محکمہ اخراجات بیشتر مالیات کو متعلقہ ماہ سے اگلے ماہ کی ۲۱ تاریخ تک ارسال کرنا۔

(vi) مجلس حسابات عامہ اور حسابات حد بندی پر محاسبہ کے مشاہدات سے متعلق تمام کام اور مجلس کے مشاہدات اور سفارشات کی تعمیل کو یقینی بنانا۔

(vii) عمومی مالیاتی قواعد جلد اول کے پیرا گراف ۱۳ کے تحت بے قاعدگیوں اور خرد برو کے خلاف اندرونی جانچ پڑتال۔

(viii) وفاقی قواعد خزانہ، عمومی مالیاتی قواعد میں شامل تمام دوسرے قواعد اور احکام نیز مالیات ڈویژن کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ہدایات کی تعمیل کو یقینی بنانا۔

۴۔ مشیران مالیات

وزارتوں، ڈویژنوں سے منسلک مشیران مالیات، وزارت مالیات کے انتظامی

انضباط کے تحت ہوتے ہیں، ان کو تنخواہ وزارت مالیات کی میزانیہ گرانٹ سے ملتی ہے اور انھیں وزارتوں، ڈویژنوں سے متعلق وزارت مالیات کے شریک معتمد (جائٹ سیکرٹری) کے اختیارات حاصل ہوتے ہیں۔ مشیران مالیات کی تنظیم کا متعلقہ وزارتوں، ڈویژنوں کے قرب و جوار میں واقع ہونا مالی مشورہ دینے کے سلسلے میں ایک عظیم اعاشہ ہے۔ وزارت کے افسران اور تنظیم مشیران مالیات کے افسران ایک دوسرے کے کمرے میں جا سکتے ہیں۔ آپس میں بات چیت کر سکتے ہیں اور آسانی اور جلدی سے معاملات کا تصفیہ کر سکتے ہیں۔ اصل مقصد افسر خاص حساب داری کو مشورہ ہر وقت دستیاب رکھنا اور حسب ذیل میدانوں میں ان کی معاونت کرنا۔

(الف) ترقیاتی سکیموں کی عمل کاری

(ب) تجاویز میزانیہ کی چھان بین

(ج) مالی معاملات سے متعلق خود مختار اداروں کی تجاویز کا جائزہ

(د) تفویض شدہ اختیارات کی حدود کے باہر معاملات میں مشورہ دینا

(ه) لین دین کی موزونیت اور باضابطگی سے متعلق کسی معاملے کے حسابات پر اثر انداز ہونے والے معاملات اور ادائیگی کے تمام معاملات میں خدمات فراہم کرنا۔

مشیران مالیات کے کردار کو زیادہ مؤثر اور بامعنی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ مشیران مالیات کو متعلقہ وزارتوں، ڈویژنوں اور ملحقہ محکموں، ماتحت دفاتر اور خود مختار اداروں کے کام میں شریک رکھا جائے۔ یہ بھی کہ انھیں وزارتوں، ڈویژنوں، ان کے ملحقہ محکموں، ماتحت دفاتر اور خود مختار اداروں کے مالیاتی انتظام سے متعلق اہم کاموں، منصوبوں اور معاملات میں شامل رکھنا چاہیے۔

۵۔ ضوابط ملازمت

ضوابط ملازمت کی تعبیر، اطلاع اور رعایت، زرمبادلہ کے تعین اور مطالبات زبردستی ضمنی گرانٹ کے معاملات وزارت مالیات کی ذمہ داری رہیں گے۔ قواعد

ملازمت کی تعبیر، اطلاق اور رعایت سے متعلق معاملات وغیرہ براہ راست مالیات ڈویژن (شعبہ ضوابط) کو ارسال کیے جاتے ہیں اور مشیران مالیات کے ذریعے ارسال نہیں کیے جاتے۔ بہر حال ان کی واپسی مشران مالیات کی وساطت سے ہوتی ہے۔ ہر مشیر مالیات کی معاونت گئی نائب مشیران مالیات کرتے ہیں۔

۶۔ مالیاتی منظوریوں

قواعد و ضوابط ملازمت سے متعلق مالیاتی منظوریوں جو مالیات ڈویژن کے شعبہ ضوابط کی رضامندی سے جاری کی جاتی ہیں۔ ان کی نمبر محاسبہ کے نام اس شعبہ کے وساطت سے کی جائے گی اور نہ کہ متعلقہ وزارت، ڈویژن کے مشیر مالیات کے ذریعے۔

۷۔ مشیر مالیات، مالیات ڈویژن سے استصواب

(الف) جن معاملات میں مشیر مالیات سے استصواب ضروری ہو ان میں افسر حسابات و مالیات کو اس امر کو یقینی بنانا چاہیے کہ

(i) استصواب قواعد اور ہدایات کے تحت واقعی ضروری ہے۔

(ii) متعلقہ قواعد اور احکام کے تحت معاملے کا مناسب جائزہ لیا گیا ہے۔

(iii) معاملے کے حقائق اور استصواب کے نکات جامع بالذات نوٹ یا دفتری

یادداشت میں واضح طور پر درج کیے گئے ہیں جو کہ دوپروں میں پیش کیا جائے گا۔

(ب) افسر مالیات و حسابات کو چاہیے کہ مشیر مالیات کی طرف سے معاملات کے

مناسب تصفیہ کے طلب کردہ مزید معلومات اور دیگر معلومات فراہم کرے۔

(ج) اسی طرح ان معاملات میں جہاں مشیر مالیات کوئی معاملہ مالیات ڈویژن کے کسی

اور شعبے کو ارسال کرنا ہو، اسے اوپر دی گئی ہدایات کے مطابق سے استصواب کیے بغیر

ایسا کرنا چاہیے۔

۸۔ مشیران مالیات کا کردار اور اختیارات

مشیران مالیات، نائب مشیران مالیات ان وزارتوں، ڈویژنوں سے متعلق جن سے وہ منسلک ہوں، حسب ذیل اختیارات استعمال کریں گے۔

(الف) رواں غیر ترقیاتی اخراجات

(i) غیر متوقع اخراجات کے لیے ضمنی گرانٹ کی تجاویز: ضمنی گرانٹ کی تجاویز کا بھی مشیر مالیات کو دوسری اخراجات کی تجاویز کی طرح جائزہ لینا چاہیے۔

(ii) یک مشت گنجائش: یک مشت گنجائش منتقل ہونے والے سے متعلق تمام تجاویز کا حتمی جائزہ اور تصفیہ مشیر مالیات کرے گا۔

(iii) رقوم کی تبدیلی حد: وزارت مالیات کی دفتری یادداشت نمبر ایف (۵) آر۔ ۸۰/۸۳ مورخہ ۱۱ مارچ ۱۹۸۱ء کے منسلکہ ۱۱ کے نمبر شمار ۳ میں دیے گئے مالیات ڈویژن کے مد بندی اور تبدیلی مد کی منظوری دینے کے اختیارات مشیران مالیات استعمال کریں گے۔

(iv) اخراجات کی منظوری: مجاز گنجائش میزانیہ سے اخراجات کی منظوری کے لیے مالیات ڈویژن کے افسران کے اختیارات حسب ذیل ہوں گے:

غیر متوالی	متوالی	
۲۰۰۰۰۰۰ روپے	۱۰۰۰۰۰۰ روپے	۱۔ افسران صیغہ (اخراجات)
۱۰۰۰۰۰۰	۵۰۰۰۰۰	۲۔ نائب مستمدین، نائب مشیران مالیات
		۳۔ شریک معتمدان، مشیران مالیات
		کوئی حد نہیں، سوائے اس کے کہ اہم حکمت عملی کے معاملات اضافی معتمد مالیات (اخراجات) معتمد مالیات، وزیر

مالیات کو پیش کیے جائیں

(ب) ترقیاتی سیکمیں

(الف) مشیران مالیات کو اول تا آخر ترقیاتی سیکموں پر کارروائی سے متعلق رکھا جائے گا۔ وہ حسب ذیل امور کے ذمہ دار ہوں گے۔

(i) ۱۰ ملین سے کم غیر متوالی اور ایک ملین سے کم متوالی ترقیاتی سیکموں کی چھان بین اور منظوری جن کو مرکزی ترقیاتی مجلس کار کے سامنے پیش کرنا ضروری نہیں ہوتا تاہم منظوری دینے سے قبل جہاں ضروری ہو، مشیر مالیات، شریک معتمد (ترقی) سے مشورہ کرے گا تاکہ مربوط حکمت عملی کو درج ذیل (ب) کے مطابق یقینی بنایا جاسکے۔

(ii) وفاقی وزارتوں، ڈویژنوں کی تیار کردہ ایسی ترقیاتی سیکموں کی چھان بین جو مرکزی ترقیاتی مجلس کار کو پیش کی جاتی ہوں۔ اگر مشیران مالیات مرکزی ترقیاتی مجلس کار کو پیش کی جانے والی سیکموں کے مالیاتی پیلوڈوں سے مطمئن ہوں تو وہ منصوبہ بندی ڈویژن کو پیش کرنے کے لیے ان سیکموں کو درگزر کر دیں گے اور متعلقہ وزارتیں ان حقائق کا تذکرہ سکیم کے رسومہ یا منصوبہ بندی ڈویژن کو ارسال کیے جانے والے مراسلہ میں کریں گی جس کے ساتھ سکیم ارسال کی جائے گی لیکن اگر سیکموں پر مشیران مالیات کا کوئی مشاہدہ تبصرہ ہو تو اسے لازمی طور پر شریک معتمد (ترقی) اضافی معتمد (اخراجات) کو مرکزی ترقیاتی مجلس کار کے اجلاس میں پیش کرنے پر بحث کے لیے پیش کیا جائے۔

(ب) ترقیاتی کاموں کے سلسلے میں حکمت عملی کو مربوط کرنا شعبہ ترقیات کی ذمہ داری ہوگی۔ شعبہ ترقیات حسب ذیل کی یقین دہانی بھی کرے گا۔

(i) سکیم مجموعی ترقیاتی منصوبے کے لیے موزوں ہے۔
(ii) سکیم کسی دوسری وزارت، ڈویژن، محکمہ کی سکیم کے ساتھ اصولی طور پر یا

تفصیلی طور پر متصادم نہیں ہے اور یہ کہ دو مختلف وزارتوں/ڈویژنوں/محکموں کی ٹیکوں میں متصادم حکمت عملی نہیں اپنائی جا رہی۔

(۴) مختلف وزارتوں/ڈویژنوں/محکموں کی ٹیکوں میں بڑے کاموں اور تفصیلی عمل میں کوئی دہرا پن نہیں ہے۔

(ج) ترقیاتی مجالس کار کے اجلاسوں میں شرکت کریں گے۔

(۱) شریک معتمد (ترقیات) ۱۰ ملین یا اس سے زیادہ لیکن ۵۰ ملین (غیر متوالی)

سے کم اور ایک ملین ٹھکراری کے لیے (متوالی) سے زیادہ ٹیکوں کے لیے

(۲) اضافی معتمد مالیات (اخراجات) ۵۰ ملین یا اس سے زیادہ کی ٹیکوں کے لیے۔

(ج) نقصانات کی قلمروگی

نقصانات کی قلمروگی کے معاملات کا حتمی تصفیہ معتمد مالیات (فنانس سیکرٹری) کی

طرف سے حسب ذیل افسران کر سکتے ہیں۔

(۱) نائب معتمدین/نائب مشیران مالیات ۱۰۰۰۰ روپے تک

افسران بکار خاص مساوی درجے کے:

(۲) شریک معتمدان/مشیران مالیات

کوئی حد نہیں، سوائے اس کے کہ

حکمت عملی کے اہم معاملات یا اہم

اصولوں سے انحراف کے معاملات

معتمد معتمد مالیات (اخراجات) کو

پیش کیے جائیں۔

(۳) مختلف کمیٹیوں/اجلاسوں میں مالیات ڈویژن کی نمائندگی

انتظامی وزارتوں/ڈویژنوں سے منسلک مشیران مالیات مختلف کمیٹیوں/اجلاسوں

میں مناسب سطحوں پر مالیات ڈویژن کی نمائندگی کریں گے۔ اگر معتمد مالیات یا اضافی معتمد مالیات (اخراجات) کسی خاص اجلاس میں خود جانا چاہیں تو متعلقہ مشیر مالیات ان کے لیے ضروری خلاصہ تیار کریں گے اور ان کے سامنے پیش کریں گے۔

۹۔ تفویض اختیارات

وزارت مالیات کی دفتری یادداشت نمبر ایف۔ر۔ (۵) آر۔ ۸۰/۲ مورخہ ۱۱ مارچ

۱۹۸۱ء حسب ترمیم وقتاً فوقتاً کے منسلک ۱۱ کے تحت وزارتوں/ڈویژنوں کو اضافی

اختیارات دیے گئے ہیں۔ ان کو ان شرائط کے تحت استعمال کیا جا سکتا ہے۔

(الف) منظور شدہ میزانیہ گرانٹ کے اندر جائزہ مد بندی یا تبدیلی مد کے ذریعے رقوم

کی دستیابی۔

(ب) منظور شدہ زرمبادلہ سے زرمبادلہ کا تعین۔

نئے نظام کے نفاذ سے قبل بنیادی قواعد اور عمومی مالیاتی قواعد کے تحت دیے

گئے اختیارات کا استعمال جاری رہے گا۔ ان اختیارات کو وزارتیں/ڈویژن اپنے

مشیران مالیات سے مشورہ کے بغیر استعمال کر سکتی ہیں۔ اس سلسلے میں مشیران مالیات

کی طرف سے دیے گئے کسی مشورے کی پابندی ضروری نہیں ہے اور متعلقہ

وزارتہ/ڈویژن کے معتمد (سیکرٹری) اس کو رد کر سکتے ہیں۔

۱۰۔ انتظامی وزارتیں/ڈویژن اور ان کے اختیارات

انتظامی وزارتیں/ڈویژن ان کے اختیارات کو مناسب حد تک سربراہان محکمہ

جات اور سربراہان دفاتر کو تفویض کر سکتے ہیں جو کہ حسب ذیل ہیں:-

(۱) انتظامی وزارتوں/ڈویژنوں کے معتمد صاحبان کی طرف سے وزارتوں/ڈویژنوں

میں اپنے ماتحت افسران کو مشیر مالیات سے مشورے کے بغیر۔

(۲) انتظامی وزارتوں/ڈویژنوں کے معتمد صاحبان کی طرف سے اپنے ماتحت دیگر

افسران کو مشیر مالیات سے مشورے کے بعد۔

(ii) سربراہان محکمہ جات کی طرف سے صدر مقام پر ماتحت افسران کو مشیر مالیات سے مشورہ کیے بغیر۔

(iv) سربراہان محکمہ جات کی طرف سے دیگر ماتحت افسران کو مشیر مالیات سے مشورے کے بعد رواں اخراجات سے متعلق سکیموں کے سلسلے میں جو کہ تفصیلی طور پر تیار کی گئی ہوں اور اخراجات میزانیہ میں شامل ہوں، ان کی منظوری انتظامی وزارت میں رڈویشن وزارت مالیات کی رضامندی کے بغیر دے سکتے ہیں۔ جہاں اخراجات میزانیہ میں یک مشت رقم رکھی گئی ہوں۔ ان کے لیے مشیر مالیات کی رضامندی سے اس حد تک منظوری دی جا سکتی ہے جس حد تک وزارت مالیات کے شریک معتمد کی حیثیت سے اس کے اختیارات ہوں جو معاملات مشیران مالیات کے اختیارات سے باہر ہوں۔ وہ ان کی طرف سے وزارت مالیات کی رضامندی کے لیے پیش کیے جاتے ہیں۔

۱۱۔ منصوبوں کی منظوری دینے کے اختیارات

(i) مختلف حاکمان مجاز کے اختیارات منظوری حسب ذیل ہیں۔

حاکم مجاز اختیار منظوری

۱۔ قومی اقتصادی کونسل کی انتظامی کمیٹی

(ای سی این ای سی) تمام سکیمیں جن کی لاگت ۳۰ ملین روپے (غیر متوالی) سے زائد ہو۔

۲۔ مرکزی ترقیاتی مجلس (سی ڈی ڈبلیو) ۱۰ ملین تا ۳۰ ملین تک (غیر متوالی)

لاگت کی وفاقی سکیمیں بشرطیکہ وزارت مالیات اس سے اتفاق کرے۔

۳۔ وفاقی وزارتیں ۱۰ ملین روپے تک غیر متوالی

لاگت کی تمام سکیمیں۔ یہ اختیارات حسب ذیل شرائط کے تحت ہوں گے:

(i) متعلقہ وزارت ادارے کے اندر

مناسب منصوبہ بندی اور نگرانی یونٹ تخلیق کرے گی اور محکمہ ترقیاتی مجلس کار پارٹی قائم کرے گی جس میں وزارت مالیات کا نمائندہ بھی شامل کیا جائے گا۔

(ii) وزارت مالیات محکمہ ترقیاتی مجلس کار کے فیصلے سے متفق ہو۔ اگر اتفاق نہ ہو تو سکیم مرکزی ترقیاتی مجلس کار ر اقتصادی کونسل کو پیش کی جائے گی۔

(iii) محکمہ ترقیاتی مجلس کار کے اجلاس سے کم از کم ۱۰ دن قبل سکیم پی سی کی ایک نقل منصوبہ بندی اور ترقیاتی ڈویژن کو بھی پی سی کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے اور محکمہ ترقیاتی مجلس کار کے اجلاس میں شرکت کرنے کا حق ہو گا۔

(iv) محکمہ ترقیاتی مجلس کار کی طرف حتمی طور پر منظور کردہ سکیم کی ایک نقل فوری طور پر منصوبہ بندی اور ترقیاتی ڈویژن اور وزارت مالیات کو ارسال کی جائے گی۔

۱۲۔ وزارت مالیات کے مشورے سے ۱۰ ملین غیر متوالی اور ۲ ملین روپے متوالی سے کم لاگت کی سکیمیں۔ اختیارات

۱۳۔ تجارتی ادارے جن کے مالیاتی ارکان ر ناظم مالیات ڈویژن کے مشورے سے مقرر کیے جائیں۔

۵۔ کارپوریشنیں ریجر تجارتی ادارے جن کے ارکان مالیات، ناظم وزارت مالیات کی منظوری سے ہوں۔

وفاقی وزارتوں کے مقابل مذکورہ شرائط کے تحت ہوں گے۔

۵۔ ۳ ملین روپے متوالی یا ایک ملین روپے کی تمام سکیمیں۔ اختیارات وفاقی وزارتوں کے مقابل مذکورہ شرائط کے تحت ہیں۔

۶۔ شمالی علاقہ جاتی کی کونسل

۶۔ ۱۰ ملین روپے متوالی یا ۲ ملین روپے متوالی سے کم لاگت کی تمام سکیمیں۔ اختیارات وفاقی وزارتوں کے مقابل مذکورہ شرائط کے تحت ہوں گے۔

۷۔ اسلام آباد ترقیاتی مجلس کار

۷۔ ۱۰ ملین روپے متوالی اور ۳ ملین روپے متوالی سے کم لاگت کی سکیمیں۔ اختیارات وفاقی وزارتوں کے مقابل مذکورہ شرائط کے تحت ہوں گے۔

۸۔ وفاقی زیر انتظام قبائلی علاقہ جات

۸۔ ۱۰ ملین روپے متوالی اور ۲ ملین روپے متوالی سے کم لاگت کی تمام سکیمیں۔ اختیارات وفاقی وزارتوں کے مقابل مذکورہ شرائط کے تحت ہوں گے۔

۹۔ وفاقی زیر انتظام قبائلی علاقہ جات (ایف اے ٹی اے)

۹۔ گورنر صوبہ سرحد صوبائی سکیموں کے سلسلے میں قابل منظوری حد تک وفاقی زیر انتظام قبائلی علاقوں کی سکیموں کی منظوری دے سکتے ہیں یعنی ترقیاتی مجلس کار کی کارروائی کے بعد ۳۰ ملین (غیر متوالی) لاگت کی سکیمیں۔

۴۔ ایسے معاملات میں مشیران مالیات کے مشورے کی پابندی ضروری ہوگی جو انتظامی وزارتوں، ڈویژنوں کے اختیارات کی حدود میں نہ آتے ہوں۔ اگر مشیر مالیات کا مشورہ وزارتوں، ڈویژنوں کے قابل قبول نہ ہو تو متعلقہ وزارت، ڈویژن کے معتمد یہ معاملہ اضافی معتمد مالیات (اخراجات) معتمد مالیات کے سامنے پیش کر سکتے ہیں یا متعلقہ وزیر مالیات کے سامنے معاملہ پیش کر سکتے ہیں۔

۱۲۔ میزانیاتی طریق کار

میزانیہ مالیاتی انضباط کی ایک ضروری دستاویز ہوتی ہے۔ مشیر مالیات کے ذریعے وزارتوں، ڈویژنوں کی طرف سے تجویز کردہ اخراجات کی جانچ پڑتال پیش از میزانیہ مشق کے طور پر وزارت مالیات کرتی ہے لہذا ہم رسائی میزانیہ سے اتفاق کرنے سے قبل مشیر مالیات کو تجویز میزانیہ کی احتیاط سے پڑتال کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ میزانیہ میں اخراجات کی ہم رسائی ہو جائے اور میزانیہ موثر ہو جائے تو وزارتوں، ڈویژنوں کو منظور شدہ میزانیہ گرانٹ میں سے تفویض کردہ مالی اختیارات کے تحت اخراجات کی منظوری دینے کا اختیار ہوتا ہے۔ ان کی مالیاتی حدود کے اندر مشیر مالیات سے مشورہ کیے بغیر اخراجات کی منظوری جاری کرنے کے قابل ہونے کے لیے وزارتوں، ڈویژنوں کو اس بات کا اطمینان کرنا چاہیے کہ تخمینہ جات کے حصہ I اور حصہ II میں شرح وار تفصیلات درج کی جائیں۔ حسب ذیل میزانیاتی طریق کار پر عمل کرنا چاہیے:-

(i) میزانیہ کاری ایک مسلسل عمل ہے۔ میزانیہ کی تیاری متعلقہ سال سے کافی پہلے شروع ہو جانی چاہیے۔ جب تجویز تیار ہو جائیں۔ عملہ اور اخراجات کی دیگر شقوں کی تھلیص مشیر مالیات سے کروانی چاہیے۔

(ii) تخمینہ جات میزانیہ کا حصہ I اور حصہ II اور نئی شقوں کے کیفیت ناموں کی حتمی جانچ پڑتال مشیر مالیات کی طرف سے ہوتی ہے۔ وہ مالیات ڈویژن کے شعبہ میزانیہ اور ناظم اعلیٰ حسابات حاصل پاکستان کو تخمینہ جات I کے سلسلے میں احکام میزانیہ کی نقول اور نئی شقوں کے کیفیت ناموں کی توثیق شدہ نقول تخمینہ جات

حصہ I کے سلسلے میں فراہم کرے گا۔ قبول کردہ حصہ I اور حصہ II کے تخمینہ جات کی تدوین مطالبات زر کی صورت میں افسر مالیات و حسابات کی طرف سے ہونی چاہیے اور مشیر مالیات کے ذریعے مالیات راس المال کے تخمینہ جات سب سے پہلے افسر مالیات و حسابات کو مربوط کرنے چاہیں اور مشیر مالیات کی منظوری کے بعد مالیات ڈویژن کے شعبہ میزانیہ کو ارسال کرنے چاہئیں۔

(ii) وصولیات حاصل اور وصولیات راس المال کے تخمینہ جات سب سے پہلے افسر مالیات و حسابات کو مربوط کرنے چاہئیں اور مشیر مالیات کی منظوری کے بعد مالیات ڈویژن کے شعبہ میزانیہ کو ارسال کرنے چاہئیں۔

(iv) سوائے بہت ہی استثنائی حالات کے یک مشت رقوم تجویز پیش نہیں کرنی چاہیے اور اس کا بھی اندراج کرنا چاہیے۔ جہاں ایسی کوئی رقوم بہم نہ لگی ہو اس میں اخراجات کی متاخری صرف مشیر مالیات کے پیشگی مشورے سے ہونا چاہیے۔ عارضی اسامیوں کے لیے یک مشت بہم رسائی کی صورت میں مشیر مالیات صرف مالیات ڈویژن کے شریک معتمد کے اختیارات کی حد تک اپنے اختیارات کو استعمال کر سکتا ہے ان اختیارات سے زائد معاملات اضافی معتمد مالیات (اخراجات) معتمد مالیات کی رضامندی کے لیے پیش کرنے پڑتے ہیں۔

(v) عام حکمت عملی کے طور پر کسی نئی غیر منظور شدہ سکیم کے لیے سوائے بے حد استثنائی حالات سالانہ ترقیاتی پروگرام میں کوئی پروگرام کی رقم نہیں رکھی جائے گی اور اس کا اندراج ہمیشہ میزانیہ اور سالانہ ترقیاتی پروگرام کی کتاب دونوں میں کیا جائے گا۔ تاہم اس بہم رسائی سے رقوم کی واگذاری صرف حاکم مجاز کی طرف سے ہی سکیموں کی منظوری اور متعلقہ تنظیم مشیران مالیات کی پیشگی منظوری سے ہوگی۔

(vi) اسی طرح عام حکمت عملی کے طور پر سالانہ ترقیاتی پروگرام میں کوئی حلقہ دار یک مشت رقم نہیں رکھی جائے گی۔ سوائے بے حد استثنائی حالات کے جن کا اندراج ہر حال میں کیا جائے گا۔ ان یک مشت بہم رسائی رقوم کے بارے

متعلقہ وزارتیں رڈویژن منظور شدہ سکیموں کی فہرست ہر حال میں فراہم کریں گی جس میں ہر سکیم کے بارے میں یک مشت رقوم کی تفصیلات درج کی جائیں گی اور یہ فہرستیں مشیران مالیات منسوبہ بندی ڈویژن اور دیگر اداروں کو فراہم کی جائیں گی۔ اس بہم رسائی سے رقوم کی واگذاری مشیران مالیات کی پیشگی منظوری سے ہوگی۔

(vi) تمام انفرادی سکیموں کے لیے مقرر کردہ رقوم سے واگذاری جو حاکم مجاز کی طرف سے منظور کی جا چکی ہو یا صدر نشین انتظامی کمیٹی قومی اقتصادی کونسل نے متوقع منظوری دیدی ہو ان سے واگذاری بھی متعلقہ تنظیم مشیران مالیات کی پیشگی منظوری سے ہوگی۔

(vii) سوائے غیر معمولی حالات کے مطالبات زر برائے ضمنی گرانٹ پیش نہیں کیے جائیں گے جس کے لیے مشیر مالیات مالیات ڈویژن کو مکمل جواز فراہم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ وجوہات بھی دی جائیں گی کہ بہم رسائی میزانیہ کے لیے تجاویز پیش کرتے وقت اضافی اخراجات کی پیش بینی کیوں نہ ہو سکی۔ مشیر مالیات مالیات ڈویژن کی پیشگی منظوری کے بغیر کوئی اخراجات نہیں کیے جائیں گے۔

(ix) شعبہ بیرونی مالیات کی طرف سے وقتاً فوقتاً جاری کردہ ہدایات کے مطابق زر مبادلہ کا میزانیہ تیار کیا جائے گا۔

۱۳۔ میزانیہ کی تیاری کے لیے عمومی ہدایات

۱۔ سالانہ کیفیت نامہ میزانیہ جس میں سالانہ حاصل اور اخراجات کا تخمینہ مع پاکستان اور بیرون ملک میں ہونے والی وصولیات اور ادائیگیوں کے شامل ہوتا ہے، قومی اسمبلی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جس مواد سے مطالبات زر برائے گرانٹ تیار کیے جاتے ہیں اسے وزارت مالیات دوسری وزارتوں کے پیش کردہ تفصیلی تخمینہ جات سے حاصل کرتی ہے اور وزارتیں اس مواد کے لیے سربراہان محکمہ جات، سربراہان دفاتر

اور دیگر افسران پر انحصار کرتی ہیں جو یہ محاصل جمع کرتے ہیں یا اخراجات کرتے ہیں۔
ناظم اعلیٰ حسابات تخمینہ جات میزانیہ اور مطالبات زر برائے گرانٹ کی تیاری اور
اشتمال کے سلسلے میں معاونت کا ذمہ دار ہوتا ہے جس کا فیصلہ وزارت مالیات محاسب
اعلیٰ کے مشورے سے کرتی ہے۔ میزانیہ اور مطالبات زر برائے گرانٹ کا فارم
وزارت مالیات کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے اور اس کی ترتیب یا قسم بندی میں کسی
قسم کا ردوبدل اس کی منظوری کے بغیر نہیں ہو سکتا۔

۲۔ تخمینہ جات میزانیہ تیار کرتے وقت تخمینہ کار حاکمان مجاز کو انتہائی پیش بینی سے
کام لینا چاہیے۔ وصولیات اور اخراجات کی تمام قسمیں جن کی پیش بینی ہو سکتی ہو ان
کی بہم رسانی مناسب مدت کے تحت ہونی چاہیے۔ تاہم پیش بینی کا خیال رکھتے ہوئے
اخراجات کی غیر ضروری شقوں کی بہم رسانی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اس بات کی
احتیاط کے ساتھ ساتھ کہ تمام قسمیں جن کی پیش بینی ہو سکتی ہو ان کے لیے بہم رسانی
کی جائے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ بہم رسانی اس حد تک کی جائے جو حقیقتاً ضروری
ہو۔ وزارت مالیات اگر کسی شق کے لیے بہم رسانی کو ناجائز سمجھے تو وہ اسے کاٹنے یا
اس میں کمی کرنے کے حق کو استعمال کر سکتی ہے۔

۳۔ تفصیلی تخمینہ جات کی تیاری کے لیے بنیادی قواعد حسب ذیل ہیں۔

(i) تخمینہ جات اس رقم کی بنیاد پر کیے جائیں جس کے آئندہ سال کے اندر
حقیقتاً وصول یا ادا ہونے کی توقع ہو۔ اس میں سال کے دوران ذمہ داریوں اور
مطالبات کے علاوہ گذشتہ سال کے بقایا جات بھی شامل ہوں گے۔ دوسرے الفاظ
میں تخمینہ جات میں آئندہ سال کے دوران ہر قسم کی وصولیات اور ادائیگیاں
شامل ہونی چاہیں۔ بلا لحاظ اس کے کہ ان وصولیوں اور ادائیگیوں کا تعلق اس
سال سے ہے یا گذشتہ سال سے۔ مثال کے طور پر کسی ماں کی فراہمی کا حکم
اگست ۱۹۸۳ء میں دیا گیا ہو لیکن اگست ۱۹۸۵ء تک اس کی ادائیگی کی توقع نہ ہو
تو اس کے لیے رقم کی بہم رسانی ۸۶-۱۹۸۵ء کے تخمینہ جات میزانیہ میں کی
جائے گی نہ کہ ۸۵-۱۹۸۳ء کے تخمینہ جات میں۔ اسی طرح اگست ۱۹۸۳ء میں

واجب الوصول ہونے والے محاصل جن کی اگست ۱۹۸۵ء تک وصول ہونے کی
توقع نہ ہو ان کی بہم رسانی ۸۶-۱۹۸۵ء کے تخمینہ جات وصولیات میں کی جائے
گی نہ کہ ۸۵-۱۹۸۳ء کے تخمینہ جات میں۔

(ii) تخمینہ جات میں صرف خالص وصولیات یا خالص مصارف شامل نہیں ہونے
چاہئیں۔ ہر ٹکے کے سلسلے میں وصولیات اور اخراجات کی مجموعی صورت حال
الگ الگ دکھانی چاہیے۔ وصولیات کا تخمینہ وصولیات کی جانب وصولیات کے
طور پر لگایا جائے اور اخراجات کو اخراجات کی جانب رکھا جائے۔ وصولیات کو
مصارف سے یا مصارف کو اخراجات سے منہا کرنے کی اجازت نہیں ہے اور
خالص وصولیات یا خالص اخراجات کے تخمینہ جات تیار کرنے کی اجازت نہیں
ہو گی۔ مجموعی وصولیات ادائیگیوں کی بناء پر تخمینہ تیار کرنے سے متفقہ
اخراجات پر انضباط قائم رکھ سکتی ہے اور اگر انتظامیہ صرف اخراجات کے اس
حصے کے لیے متفقہ کے پاس آئے جو وہ اپنی وصولیات سے پورا نہ کر سکتی ہو تو
ایسا کرنا ممکن نہیں ہو گا۔ تاہم بعض معاملات میں تخمینہ کاری خالص بنیادوں پر
ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر محاصل کی واپسی کل وصولی سے منہا کر دی جاتی ہے
اور تخمینہ جات صرف خالص وصولیات کے لیے تیار کی جاتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ
واپسیاں حقیقتاً اخراجات نہیں ہوتیں۔

(iii) اخراجات کی ایسی قسمیں جو کسی خصوصی یا عمومی منظوری کے تحت نہ آتی
ہوں ان کے لیے حصہ I میں کوئی بہم رسانی نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کسی غیر منظور
شدہ مدت کے لیے کوئی بہم رسانی ضروری سمجھی جائے تو اسے حصہ II میں شامل کیا
جائے۔ اسے کسی صورت بھی حصہ I (مستقل اور تعمیر پذیر اخراجات) میں شامل
نہ کیا جائے۔

(iv) ”تخوہ افسران“ اور ”تخوہ عملہ“ کے تحت تفصیلات ایک الگ فارم (بی)
ایف آر) میں فراہم کی جائیں جس میں نام، عمدہ، واجب الادا اضافہ درج کیا
جائے۔

(v) مستقل یا عارضی منظور شدہ عملہ کی صورت میں تنخواہ کی کل رقم جمع ہونے والے اضافہ جات کے جو کہ ڈیوٹی پر موجود اسامی وار اس مدت کے دوران وصول کرنے والا ہو شامل کی جائے۔

(vi) جہاں کوئی محفوظ رخصت موجود نہ ہو افسران اور عملے کے لیے مشاہرہ رخصت کی رقم رکھنی چاہیے اور اس کی بنیاد نئے عناصر کو پیش نظر رکھتے ہوئے گذشتہ اصل اعداد کی بنیاد پر ہونی چاہیے۔

(vii) جو لوگ مستعار الہمدستی پر ہوں یا بصورت دیگر غیر حاضر ہوں اور سال کے دوران ان کے واپس آنے کی امید نہ ہو اس سال میں جس سال کے لیے تخمینہ جات تیار کیے جا رہے ہوں تو ان کے لیے بہم رسائی رقم نہیں کرنی چاہیے مگر ان کے نام فارم جی ایف آر میں ضرور درج کرنے چاہئیں۔

(viii) جن اسامیوں کو خالی رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہو یا کفایت کے طور پر ملتوی رکھا گیا ہو ان کے لیے کوئی بہم رسائی رقم نہیں کرنی چاہیے۔ اگر ایسی کسی اسامی کو بحال کرنا مقصود ہو تو کوئی بہم رسائی سے قبل وزارت مالیات کی منظوری حاصل کرنی چاہیے۔

(ix) تمام مقررہ بازیاہوں اور مقررہ ادائیگیوں (سوائے مصارف عملہ) کے لیے رقم کا تعین کرنے والی منظوری کا حوالہ دیا جائے۔

(x) ہر محکمہ کو اپنے کل مصارف اور وصولیات کے لیے بہم رسائی کرنی چاہیے۔

(xi) وزارت مالیات کی رضامندی کے بغیر کوئی یک مشمت بہم رسائی نہیں ہونی چاہیے۔ سوائے بے حد استثنائی معاملات میں حالات کے جس کی وجوہات کا تحریری اندراج ہونا چاہیے۔

(xii) تخمینہ جات میزانیہ میں نقصانات کے لیے بہم رسائی رقم نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم اگر محکمہ کے کام کی نوعیت ایسی ہو کہ نقصان کو ہر سال لازمی تصور کیا جائے تو ہر معاملے میں وزارت مالیات کی خصوصی منظوری کے ساتھ بہم رسائی رقم کرنی چاہیے۔

(xiii) وصولیات اور مختصر مصارف کے تخمینہ جات محض گذشتہ تین سالوں کی حسابی اوسط نہیں ہونی چاہیے۔ اوسط صرف ایک راہنما ہے لیکن اسے مطلق نہیں سمجھنا چاہیے۔

(xiv) اگر خالی رہنے والی آسامیوں اور دیگر وجوہات کی بناء پر بجٹ کی توقع ہو تو اس کے لیے یک مشمت کٹوتی کی بہم رسائی کرنی چاہیے۔

۱۳۔ وفاقی اور صوبائی حکومتوں کی وصولیوں اور ادائیگیوں کی درجہ بندی کا چارٹ

۱۔ محاسب اعلیٰ پاکستان نے جمہوریہ اسلامی پاکستان کے آئین ۱۹۷۳ء کی دفعہ ۱۷۰ کے تحت صدر مملکت کی منظوری سے ”حسابات کی مدت نکالنا و خورد کی فرسٹ“ کو منسوخ کرتے ہوئے نیا درجہ بندی چارٹ جاری کیا ہے۔ نیا درجہ بندی چارٹ جاری کرنے کی ضرورت یہ تھی کہ حکومتوں نے وسیع تر ذمہ داریاں اٹھالی ہیں جن کا اثر ملک کی معاشی ترقی اور عوام کی فلاح و بہبود پر پڑا ہے۔ ان اضافی ذمہ داریوں کے ساتھ ان کارروائیوں کے معاشی اور معاشرتی اثرات کے بارے میں باخبر رہنے کی ضرورت میں اضافہ ہو گیا ہے تاکہ جانے بوجھے اور سوچے سمجھے حکمت عملی فیصلے کیے جاسکیں۔ لہذا درجہ بندی چارٹ جو اب یہی کرنے کے علاوہ معاشی نوعیت کے مطابق لین دین کی گروہ بندی کے منصوبہ کی عکاسی بھی کرتا ہے جس کو آسانی سے سمجھا جاسکتا ہے۔ یہ منصوبہ معیشت کے بڑے بڑے شعبوں میں رابطہ پیدا کرنے کے علاوہ قومی آمدنی اور اخراجات کا فیصلہ کرنے میں بھی سہولت فراہم کرتا ہے۔ یہ چارٹ سائنسی معلوماتی بنیاد بھی فراہم کرتا ہے تاکہ مطالبات اور ان کے معاشی فائدے کے مابین دستیاب ذرائع کا متوازن تعین ہو سکے۔ نئی درجہ بندی ابتدائی معلومات کی عمل کاری کے طریق کار کے لیے فوری طور پر اختیار کی جاسکتی ہے اور اس سے کمپیوٹر پر حسابات کی عمل کاری کے لیے سہولت ہوگی۔

۲۔ چارٹ کو دو حصوں ایشیائی فنڈ اور سرکاری حساب میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کسی

حکومت کے وصول کردہ تمام حاصل، قرضوں کی واپسی کے سلسلے میں اس کی وصول کردہ تمام رقوم اور اس کے حاصل کردہ تمام قرضے ایشیائی فنڈ میں جمع کیے جاتے ہیں۔ اجزائے قرضہ کے اخراجات اسی سے پورے کیے جاتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے یا حکومت کے نام پر وصول کردہ تمام دیگر رقوم یا قانونی عدالتوں کے پاس جمع کردہ رقوم، ترسیلات، مطلق حسابات وغیرہ سرکاری حساب کے تحت آتے ہیں۔

۳۔ حصہ I یعنی ایشیائی فنڈ میں وصولیات کی درجہ بندی مکلاں، خورد اور تفصیلی وصولیات کے ذریعے ہوتی ہے۔ اخراجات کی درجہ بندی دو حصوں یعنی تقابلی درجہ بندی اور معروضی درجہ بندی میں ہوتی ہے۔ تقاطعات کی تقسیم مکلاں، خورد اور تفصیلی معروضات میں ہوتی ہے۔ اس طرح اخراجات کی کوئی شق تقاطعات کے علاوہ مکلاں، خورد اور تفصیلی معروضات کی حامل بھی ہوتی ہے۔ اس طرح اخراجات کی ایسی قسم بندی کی جاتی ہے کہ یہ فوراً حکومت کی تقابلی ذمہ داریوں کو ظاہر کرے گی جس کے لیے اسے الگ رکھا گیا ہے اور اس کے ساتھ اس مقصد کو بھی ظاہر کرے گی جس کو پورا کرنا مقصود ہو۔ حصہ II یعنی سرکاری حساب میں لین دین کی تقسیم مکلاں، خورد اور تفصیلی مدات حساب میں ہوتی ہے۔

۴۔ تقابلی مع معروضی درجہ بندی وفاقی حکومت نے یکم جولائی ۱۹۷۹ء سے نافذ کی ہے جب کہ صوبائی حکومتوں نے یکم جولائی ۱۹۹۰ء سے نافذ کی ہے۔

۱۰۔ میزانیہ کی تیاری کے لیے نظام الاوقات اور تفصیلی طریق کار

۱۔ سالانہ میزانیہ تخمینہ جات ہر سال اکتوبر میں وزارت مالیات کی طرف سے جاری کردہ مراسلہ برائے طلبی میزانیہ کے مطابق تیار کرنے چاہئیں۔ حسب ذیل کے بارے میں الگ الگ تخمینہ جات تیار کرنے ہوتے ہیں۔

(۱) وصولیات

(۲) غیر ترقیاتی اخراجات

(۳) ترقیاتی اخراجات

۲۔ وصولیات

تخمینہ جات حسب ذیل وصولیات کے مطابق تیار کیے جاتے ہیں۔

مد وصولیات تخمینہ کار حاکم مجاز
خاص مدات حاصل مرکزی مجلس حاصل (سنٹرل بورڈ آف ریونیو)
دیگر وصولیات حاصل انتظامی وزارتیں
ڈویژن

راس المال

بیرونی امداد

اقتصادی امور ڈویژن

مدات قرض، امانت و ترسیلات

مشیران مالیات وزارت ہائے دفاع و مواصلات، بینک دولت

پاکستان، مرکزی نظامت قومی بچت اور انتظامی

وزارتیں، ڈویژن

۳۔ پہلے دوسرے ابتدائی اور حتمی تخمینہ جات مقررہ تاریخوں پر وزارت مالیات کو

پیش کرنے چاہئیں۔ اس میں اندرونی اور بیرونی دونوں ذرائع شامل ہوں گے اور اگلے

سال کے سالانہ ترقیاتی پروگرام کے حجم کی بنیاد فراہم کریں گے۔

۴۔ بیرونی قرضہ جات کے تخمینہ جات کی حمایت میں انفرادی منصوبوں اور مقاصد کی

تفصیلات دینا ضروری ہے جو حسب ذیل زمروں کے لیے الگ الگ تیار کیے جاتے

ہیں۔

زمرو ۱: وفاقی منصوبوں کے لیے قرضہ جات

زمرو ۲: غیر منصوبہ اشیاء کی خرید کے لیے قرضہ جات

زمرو ۳: صوبائی منصوبوں کے لیے قرضہ جات

زمرو ۴: ریلوے کے لیے قرضہ جات

زمرو ۵: وفاقی حکومت کے خود مختار اداروں، مقامی فنڈ

وغیرہ کے لیے قرضہ جات
 زمرہ VI: صوبائی حکومتوں کے تحت خود مختار اداروں،

مقامی فنڈ کے لیے قرضہ جات

زمرہ VII: قرض دینے والی ایجنسیوں کے لیے

نئی شعبہ میں منصوبوں کے واسطے قرضہ جات

تاہم ضمانت شدہ قرضہ جات کے تخمینے دوسرے بیرونی قرضہ جات سے الگ دکھائے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ بھی انفرادی منصوبہ جات کی تفصیلات شامل ہونی چاہئیں۔

۵۔ درج ذیل ملکوں اور خصوصی اداروں سے بیرونی امداد کے تخمینہ جات مکمل تفصیلات کے ساتھ فراہم تفصیلات کے ساتھ فراہم کرنے ہوتے ہیں۔

(الف) آسٹریلیا

(ب) کینیڈا

(ج) فورڈ فاؤنڈیشن

(د) اقوام متحدہ اور اس کے خصوصی ادارے

(ه) یو ایس ایڈ اور

(و) دیگر ممالک (ادارے الگ الگ دکھائے جائیں)

بیرونی منصوبہ جاتی معاونت قرضہ جات اور زر ہائے امداد دونوں کے تخمینہ جات کو متعلقہ منصوبہ جات کے ساتھ منسلک رکھنا پڑتا ہے اور مکمل طور پر سالانہ ترقیاتی پروگرام میں پیش کیا جاتا ہے اور وفاقی حکومت یا صوبائی حکومتوں کے متعلقہ اداروں اور خود مختار اداروں کے میزانیہ میں بھی شامل کیا جاتا ہے۔

۶۔ حکومت کو سرمایہ کاری پر منافع منقسمہ کی صورت میں ہونے والی وجوہات کے تخمینہ جات جو کہ مختلف خود مختار اداروں، کارپوریشنوں وغیرہ میں ترجیح حصص اور عام حصص کے سلسلے میں تیار کیے جاتے ہیں، ان کو تفصیلاً "تیار کرنا چاہیے اور ان حصص پر حکومت کے منافع منقسمہ کا اندراج کرنا چاہیے۔ ان وصولیات کو تخمینہ جات میں

شامل نہ کرنے کی وجوہات اور منافع منقسمہ کے سلسلے میں کسی کسی کی مکمل وضاحت کرنی چاہیے۔

۲۔ غیر ترقیاتی اخراجات

میزانیہ کی تیاری متعلقہ سال سے پہلے شروع ہو جانی چاہیے۔ انتظامی اداروں کو چاہیے کہ عملے سے متعلق تجاویز اور اخراجات کی دوسری شتوں کی تھلیس ان کے تیار ہونے کی مشیران مالیات سے واپسی اور وزارت مالیات کی طرف سے مراسلہ برائے طلبی میزانیہ کا انتظار نہ کریں۔ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ پڑتال اور منظوری کے لیے مشیر مالیات کے سامنے پیش کردہ تخمینہ جات میں متفقہ شتیں ہی شامل ہوں۔

۷۔ نظر ثانی شدہ تخمینہ جات برائے سال رواں

رواں سال کے لیے نظر ثانی شدہ تخمینہ جات کی تیاری آئندہ سال کے تخمینہ جات میزانیہ سے پہلے ہونی چاہیے، نظر ثانی شدہ تخمینہ جات کی تیاری میں حسب ذیل عوامل کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔

(i) رواں مالی سال کے پہلے چار ماہ کے اصل اخراجات

(ii) گزشتہ مالی سال اور اس سے قبل کے سال کی اسی مدت کے اصل اخراجات

(iii) گزشتہ مالی سال اور اس سے قبل کے مالی سال کے اصل اخراجات۔

(iv) میزانیہ گرانٹ، ضمنی گرانٹ کے ذریعے منظور کردہ اخراجات کی نئی شتوں کے اندر حد بندی یا تبدیلی مد اور دست برداشتہ رقوم کے لیے جاری کردہ یا تجویز کردہ احکام۔

(v) اگر رواں سال کے لیے اخراجات کے ترمیم شدہ تخمینہ جات منظور شدہ گرانٹ سے زائد ہو جائیں تو یہ بتانا کہ آج حاکم مجاز نے زائد خرچ کی اجازت دے دی ہے، اور اگر ایسا ہو تو تخمینہ جات کے ساتھ متعلقہ احکام کی تصدیق

شدہ نقول لگانی چاہئیں۔ یہ بھی ظاہر کرنا چاہیے کہ اس اضافے کو کس طرح پورا کرنے کی تجویز ہے، (یعنی گرانٹ کے اندر بچتوں کی تبدیلی مدیا ضمنی گرانٹ کے ذریعے)۔ اگر ترمیم شدہ تخمینہ جات منظور شدہ گرانٹ سے کم ہوں تو بچت کی وجوہات درج کرنی چاہئیں۔

۱۸۔ سال رواں کے میزانیہ کے تخمینہ جات

۱۔ تخمینہ جات دو حصوں میں تیار کیے جاتے ہیں۔

(i) مستقل اخراجات سے تعلق رکھتا ہے جو اگرچہ سال بہ سال بدلتے رہتے ہیں لیکن ان کا انحصار سربراہ محکمہ کے اختیار پر نہیں ہوتا، مثلاً "مستقل عملہ (افسران اور عملہ دونوں) سفری اور دیگر مقررہ الاؤنس اور دیگر عام اتفاقی اخراجات۔"

(ii) نئے مصارف سے تعلق رکھتا ہے جس میں اخراجات کی نئی قسمیں شامل ہوتی ہیں، مثلاً "موجودہ عملہ یا خدمات میں عارضی اضافہ، سہولیات اور ادارے جو کہ عارضی بنیادوں پر سال بہ سال جاری رہتے ہیں یا ان کے لیے نئی منظوری دی جاتی ہے اور سال رواں کے میزانیہ میں ان کے لیے بہم رسانی نہیں ہوتی۔ صرف ان تجاویز کو شامل کرنا چاہیے جن کی تحلیل مشیر مالیات کی طرف سے ہو چکی ہو۔ ان کو جامع بالذات یا دواداشت کی صورت میں مشیر مالیات کی خدمت میں پیش کرنا چاہیے، جس کے ساتھ ضروری تفصیلات شامل ہوں تاکہ پڑتال میں سہولت رہے۔"

۲۔ حصہ ۱ کے تخمینہ جات چھپے ہوئے فارموں پر تیار کیے جاتے ہیں جو کہ متعلقہ ناظم اعلیٰ حسابات کی طرف سے فراہم کیے جاتے ہیں، جس کے حلقے میں اخراجات کا اندراج ہونا ہوتا ہے۔ ان فارموں میں الگ الگ کالم ہوتے ہیں جو مندرجہ ذیل ظاہر کرتے ہیں:

(i) تخمینہ جات کی تفصیلی مدات (کلاس، خورد اور تفصیلی معروض)

(ii) ہر تفصیلی مد کے تحت گزشتہ تین سال کے اصل اخراجات۔ ان اصل اخراجات کی خانہ پری ناظم اعلیٰ حسابات کی طرف سے ہوگی۔

(iii) گزشتہ سال کے آخری ۸ ماہ کے اصل اعداد اور رواں سال کے پہلے ۴ ماہ کے اصل اعداد

(iv) رواں سال کا منظور شدہ میزانیہ

(v) رواں سال کے نظر ثانی شدہ تخمینہ جات

(vi) آئندہ سال کے لیے میزانیہ کے تخمینہ جات

گزشتہ تین سال کے اصل اعداد کا اندراج افسر حسابات کی طرف سے فارم کے متعلقہ کالموں میں کیا جاتا ہے اور پھر یہ فارم تخمینہ کار حاکمان کو مجاز ارسال کیے جاتے ہیں، چونکہ ترمیم شدہ تخمینہ جات گزشتہ اصل اعداد کی طرح ایسے مادی عوامل ہیں، جن کو میزانیہ کی تیاری میں سامنے رکھنا ضروری ہوتا ہے، لہذا ترمیم شدہ تخمینہ جات کو بڑی احتیاط سے تیار کرنا چاہیے اور جن وعدوں کی سال کے دوران تکمیل ہونے والی ہو، انھیں شامل کرنا چاہیے اور جن وعدوں کی سال کے دوران تکمیل نہ ہونے والی ہو انھیں چھوڑ دینا چاہیے۔

۳۔ تخمینہ جات میزانیہ میں شامل اخراجات کو "واجب الوصول" اور ماسوائے واجب الوصول میں تقسیم کر دینا چاہیے اور رواں اخراجات کو ترقیاتی اخراجات سے الگ دکھانا چاہیے۔

۴۔ رواں سال کے ترمیم شدہ تخمینہ جات کو اصل تخمینہ جات میزانیہ جمع ضمنی گرانٹ تفریق دست بردا شدہ رقوم اور بیرونی منصوبہ جاتی معاونت کے استعمال میں کمی سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ منظور شدہ ضمنی گرانٹوں کی فہرست بھی ہونی چاہیے۔

۵۔ ترقیاتی اخراجات کے تخمینہ جات میں کوئی ایسی سکیم شامل نہیں ہونی چاہیے، جسے مقررہ طریق کار کے مطابق منظور نہ کیا گیا ہو۔ سالانہ ترقیاتی پروگرام کی تیاری اور اسے منصوبہ بندی ڈویژن کو پیش کرنے کے ساتھ انتظامی

وزارتوں کو چاہیے کہ اس کی ایک نقل اپنے مشیر مالیات کو بھی پیش کریں۔ اس کے ساتھ انفرادی منصوبہ جات کے بارے میں اخراجات کے تفصیلی تخمینہ جات برائے میزانیہ بھی شامل ہونے چاہئیں۔ دیگر متعلقہ معلومات یا مواد نظام الاوقات کے مطابق فراہم کرنا چاہیے۔

جاری منصوبوں کی صورت میں تخمینہ جات کے ساتھ متعلقہ سلیس بھی ہونی چاہئیں جن میں رواں سال کے بہم رسانی میزانیہ منظور کی گئی ہو۔ تمام نئے منصوبہ جات جن کے لیے پہلی بار میزانیہ کے لیے تجویز پیش کی گئی ہو ان کے ساتھ فارم پی سی-ایا پی سی ۱۱ بھی ہونا چاہیے۔ فارم پی پی ڈبلیو ڈی-۳ میں ایک کیفیت نامہ پیش کرنا چاہیے جس میں تعمیرات ڈویژن کو تجویز کردہ اخراجات تعمیرات اگر کوئی ہوں تو انھیں علیحدہ دکھانا چاہیے اور ان کو تخمینہ جات میزانیہ کے ساتھ پیش کرنا چاہیے۔ تعمیرات ڈویژن سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل ترقیاتی منصوبہ جات کے مطابق ان کی تدوین کرے گا اور ترقیاتی منصوبوں کے سلسلے میں تخمینہ جات میزانیہ کے حتمی ہونے کے بعد تین دن کے اندر اس کی نقل وزارت مالیات کے شعبہ میزانیہ کو فراہم کرے گا۔

سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل منصوبہ جات سیکم کے تخمینہ جات میزانیہ تجویز کرتے وقت وزارتوں/ڈویژنوں کو اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ سالانہ ترقیاتی پروگرام میں شامل منصوبہ جات سیکم کی نوعیت اور حدود میں (۱) ترقیاتی میزانیہ کے لیے مجوزہ تھیں (ب) رواں میزانیہ میں فراہم کردہ تھیں تبدیل نہ ہوں۔ جہاں بعض کارروائیوں کے لیے میزانیہ جزوی طور پر رواں میزانیہ میں اور جزوی طور پر ترقیاتی میزانیہ (تحفظ نباتات، مساحت پاکستان، خدمات موسمیات وغیرہ) میں رکھا جائے تو متعلقہ انتظامی وزارتوں/ڈویژنوں کو تخمینہ جات میزانیہ برائے ترقیاتی اخراجات مشیر مالیات کے سامنے پیش کرتے وقت مجموعی تصویر پیش کرنی چاہیے۔

ترقیاتی اخراجات کے قبول شدہ تخمینہ جات کے سلسلے میں نئی شقوں کے

کیفیت ناموں کی اصل نقول پر واضح نشان لگانا چاہیے، جس سے ظاہر ہو کہ رقوم ترقیاتی اخراجات سے متعلق ہیں۔ اخراجات کی نئی شقوں کے کیفیت ناموں پر تقاضا اور مفروضی درجہ بندی صحیح طور پر درج کرنی چاہیے۔ کمپیوٹرائزیشن کی وجہ سے نئی شقوں کے کیفیت ناموں کے لیے نیا نمونہ اختیار کیا گیا ہے۔ اس کو پر کرنے کے لیے دی گئی ہدایات پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔

۱۹- ترقیاتی اخراجات کے تخمینہ جات کے زرمبادلہ کے اجزائے ترکیبی

۱- ترقیاتی اخراجات کے تخمینہ جات کے زرمبادلہ کے اجزائے ترکیبی کو بالکل واضح دکھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ وہ ذرائع بھی دیے جاتے ہیں جن سے ان کو پورا کرنا مقصود ہوتا ہے (اپنے ذرائع یا بیرونی امداد سے)۔ یہ معلومات ایک علیحدہ کیفیت نامے میں مقررہ فارم پر فراہم کی جانی چاہئیں جو کہ ترقیاتی اخراجات کے تخمینہ جات کے ساتھ مشیر مالیات کو پیش کرنا چاہیے۔ اگر زرمبادلہ کے اجزائے ترکیبی کو (محل یا جزوی) بیرونی امداد سے متعلق کرنا مقصود ہو تو امداد کے ذرائع اور قسم کو متعلقہ منصوبہ سیکم کے لیے ہمیشہ بہم رسانی میزانیہ اور نئی شقوں کے کیفیت نامہ میں ظاہر کرنا چاہیے۔

۲- بلا لحاظ ذریعہ یا قسم تمام بیرونی امداد (قرضہ یا گرانٹ) کو متعلقہ منصوبہ کے تخمینہ جات برائے اخراجات میں ظاہر کرنا چاہیے۔ وزارتوں/ڈویژنوں کو ترقیاتی اخراجات کے تخمینہ جات تیار کرتے وقت خاص احتیاط کرنی چاہیے کہ متوقع امداد کو ترقیاتی اخراجات کے تخمینہ جات میں مکمل طور پر حساب میں لے لیا جائے۔ بیرونی امداد کے تخمینہ جات کو تخمینہ جات میزانیہ میں شامل کرنے سے قبل ان کی تھلیص اقتصادی امور ڈویژن سے کروانی چاہیے۔ مکمل شدہ کیفیت نامہ مقررہ فارم میں اس ڈویژن کو ارسال کر کے یہ کام سولت سے کیا جاسکتا ہے۔ اس کے بعد تخمینہ جات میزانیہ کے ساتھ اسے مشیر مالیات کی خدمت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

۳۔ بیرونی معاونت بشکل اشیاء کی درجہ بندی اگرچہ بیرونی امداد کے طور پر ہوتی ہے تاہم اس کی میزانیہ بندی ذرائع کی جانب اکٹھی ہوتی ہے اور منصوبہ جات میں اس کی تقسیم نہیں ہوتی، اگرچہ کچھ اشیاء ترقیاتی منصوبوں پر صرف کی جاتی ہیں۔ چونکہ ان اشیاء کی ادائیگی روپوں میں ہوتی ہے، لہذا ان سے متعلق اخراجات کا حصہ وزارتوں، ڈویژنوں کو اپنی مقامی کرنسی کی ضروریات میں شامل کرنا چاہیے۔ اس بہم رسانی کی نئی شیئوں کے کیفیت ناموں میں واضح نشان دی گئی چاہیے۔

۴۔ زرمبادلہ کے اخراجات کے لیے بہم رسانی روپیہ میں اخراجات کے لیے دستیاب نہیں ہوتی اور نہ ہی اس کے برعکس۔ اخراجات روپیہ اور اخراجات زرمبادلہ کے مابین کسی تبدیلی کی اجازت نہیں ہوتی۔ روپیہ اور زرمبادلہ تخمینہ جات تیار کرتے وقت یہ بات نظر میں رکھنی چاہیے۔

۲۰۔ ترقیاتی سکیموں کے عملی اہداف

۱۔ ترقیاتی اخراجات کی بہم رسانی کی مکمل تائید میں تخمینہ کار حاکمان مجاز کو حسب ذیل عنوانات کے تحت علیحدہ معلومات فراہم کرنی چاہئیں اور اس کے ساتھ انفرادی منصوبہ جات، سکیموں کے تخمینہ جات بھی مشیر مالیات کو پیش کرنے چاہئیں جو ضروری پڑتا ہے بعد اسے شعبہ میزانیہ کو ارسال کرے گا۔

(الف) منصوبہ سکیم کا نام

(ب) تکمیل کی متوقع تاریخ

(ج) منصوبہ سکیم میں طبعی اہداف

(د) گزشتہ سال کے آخر تک اخراجات

(ه) گزشتہ سال کے ۳۰ جون تک تکمیل کا تناسب فیصد

(و) ترمیم شدہ تخمینہ جات اور حاصل ہونے والے ممکنہ اہداف

(ز) اگلے سال کے لیے تخمینہ جات میزانیہ

(ح) اگلے سال کے لیے مجوزہ اہداف

(ط) رواں اور آئندہ سال کے لیے اہداف مقرر کرنے کی بنیاد (یونٹ کی لاگت اور پیمائش کے دیگر یونٹ)

۲۔ مذکورہ بالا معلومات فراہم کرتے وقت تخمینہ کار حاکمان مجاز کو جہاں تک ممکن ہو طبعی اہداف کی تصریح مقدار کی صورت میں کرنی چاہیے، مثلاً "سڑک کی تعمیر کے لیے لمبائی میلوں میں، ہسپتال میں فراہم کیے جانے والے بستروں کی تعداد، سکولوں میں دستیاب نشستوں کی تعداد، تحفظ نباتات کے تحت آنے والے ایکڑوں کی تعداد) جہاں طبعی اہداف کی تشخیص مقدار کی صورت میں قابل عمل نہ ہو تو متوقع کارنامے کی تصریح تفصیل کے ساتھ کرنی چاہیے۔

۲۱۔ گرانٹوں کی اطلاع و تقسیم

قومی اسمبلی کی تصویبی گرانٹیں، مع منظور شدہ رقوم برائے غیر تصویبی اخراجات کی اطلاع وزارت مالیات کی طرف سے انتظامی وزارتوں، ڈویژنوں، محکموں کو دی جاتی ہے اور ناظم اعلیٰ حسابات کو بھی تفصیلات مطالبات زر برائے گرانٹ کی صورت میں ارسال کی جاتی ہیں۔ تب انتظامی وزارتیں، ڈویژن، محکمہ جات اپنے ماتحت افسران مختار اور افسران ادائیگی کے مابین ان رقوم کی تقسیم کا اہتمام کرتی ہیں۔ کسی ابتدائی یونٹ کی حد بندی کو مکمل یا جزوی طور پر کسی افسر مختار یا افسر ادائیگی کے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ ابتدائی یونٹوں کو مزید ثانوی یونٹوں میں بھی تقسیم کیا جا سکتا ہے اور ان کی حد بندی کو مکمل یا جزوی طور پر کسی ماتحت افسر کے پاس رکھا جا سکتا ہے۔ حد بندی کا مقصد تمام اخراجات پر حاوی ہونا ہوتا ہے، جس میں گزشتہ سال کی ذمہ داریاں بھی شامل ہوتی ہیں، جن کی ادائیگی یا تسویہ سال کے دوران مقصود ہوتا ہے۔ اس کی اجازت حاکم مجاز کی طرف سے کسی وقت بھی سال ختم ہونے سے قبل دی جا سکتی ہے۔

۲۲۔ انضباط اخراجات

گرانٹ کا انتظام کرنے والا حاکم مجاز اپنے زیر انضباط خدمات عامہ پر اخراجات کی رفتار کی نگرانی کرنے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور اخراجات کو گرانٹ کی حدود کے اندر رکھنا اس کا فرض ہوتا ہے۔ اخراجات پر موثر انضباط قائم رکھنے کے لیے وزارتوں، ڈویژنوں کو عمومی مالیاتی قواعد جلد اول میں دیے گئے طریق کار کو اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہر ماہ اخراجات کی رفتار یعنی حد بندی کا مسلسل جائزہ لیا جاتا رہے اور بچتوں اور زوائد کے بارے میں مناسب کارروائی ہوتی رہے۔

۲۳۔ متوقع بچتوں سے دست برداری

۱۔ اگر مالی سال کے دوران کسی سربراہ محکمہ یا افسر ادائیگی کو معلوم ہو کہ خرچ کسی خاص ذیلی مد کے تحت میزانیہ کی بہم رسانی سے کم ہو گا جو کہ مندرجہ ذیل وجوہات کی بناء پر ہو گا:

(i) اخراجات کا حقیقتاً "التوا"

(ii) کفایت کی وجہ سے حقیقی بچت

(iii) ابتدائی زائد تخمینہ کاری یا عام انتظامی وجوہات کی بنا پر عام بچت

۲۔ مندرجہ بالا (i) کے تحت بچتوں کو حاکم مجاز کی اجازت کے بغیر اخراجات کی

نئی شتوں کو پورا کرنے کے لیے مد بندی کے ذریعے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔

اگر مندرجہ بالا (ii) کے تحت بچت غیر متوقع ہنگامی صورت حال کی خاطر بہم رسانی

کے لیے خاص طور پر کی گئی ہو تو اسے عام طور پر اخراجات کی نئی شتوں کے لیے

استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ تمام متوقع بچتوں سے اسی وقت حکومت کے حق میں

دست بردار ہو جانا چاہیے جب کہ ان کی پیش بینی ہو جائے اور اس کے لیے

سال کے خاتمے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، سوائے اس کے کہ کسی دیگر پونٹ یا

پونٹوں کے تحت زائد اخراجات کو پورا کرنے کے لیے ان کی ضرورت ہو جن کی

اس وقت تک حتمی طور پر پیش بینی ہو چکا ہو۔ بچتوں کو مستقبل کے ممکنہ زائد

اخراجات کو پورا کرنے کے لیے محفوظ نہیں رکھنا چاہیے۔

۳۔ رقوم کو دستیاب ہونے کی وجہ سے یا گرانٹ کو ختم ہونے سے بچانے کے

لیے جلدی جلدی یا بلا سوچے سمجھے خرچ کرنا کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے۔ یہ

بات مفاد عامہ میں ہے کہ اگر کسی گرانٹ کو اچھی طرح استعمال نہ کیا جاسکتا ہو

تو اس سے دستبرداری اختیار کر لی جائے۔ مالی سال کے اختتامی مہینوں میں جلدی

جلدی خرچ کرنا مالیاتی موزونیت کے اصولوں کی خلاف ورزی ہے۔

۲۴۔ رقوم کی تبدیلی مد

تبدیلی مد کا مطلب ہے مد بندی کے ایک پونٹ سے دوسرے پونٹ کو رقوم کی

منتقلی، تبدیلی مد کی منظوری حاکم مجاز کی طرف سے وزارت مالیات کی دفتری

یادداشت نمبر ایف۔سر (۵) آر۔ ۸۰، مورخہ ۱۱ مارچ ۱۹۸۱ء کے منسلک شیٹ ۴ کے

تحت وزارتوں، ڈویژنوں کو تفویض شدہ اختیارات کے تحت دی جاسکتی ہے۔

۲۵۔ ضمنی گرانٹیں

۱۔ عام طور پر کوئی ایسے اخراجات نہیں کرنے چاہئیں جن کے لیے اصل تخمینہ جات

میں کوئی بہم رسانی نہ کی گئی ہو۔ تاہم اگر کسی مرحلے پر معلوم ہو کہ کسی غیر متوقع

ہنگامی صورت حال کی وجہ سے یا کم تخمینہ کاری کی وجہ سے زائد اخراجات ہونے

والے ہیں تو اگر ممکن ہو تو اخراجات کو یا تو ملتوی کر دینا چاہیے یا اسے تبدیلی مد کے

ذریعے پورا کرنا چاہیے۔ اگر متعلقہ افسر ایسا کرنے کا مجاز ہو تو، اگر بچتیں دستیاب ہوں

اور نہ ہی اخراجات کو ملتوی کیا جاسکتا ہو تو متعلقہ مشیر مالیات کے توسط سے وزارت

مالیات کو ضمنی گرانٹ کے لیے درخواست پیش کرنی چاہیے، درخواست کے ساتھ زائد

اخراجات کی مکمل وضاحت ہونی چاہیے اور اس کے ساتھ منظور شدہ گرانٹ سے

رقوم کی فراہمی کے ناممکن ہونے کی وضاحت بھی ہونی چاہیے۔

۲۔ درخواست وزارت مالیات کی طرف سے وقتاً فوقتاً مقرر کردہ تاریخ تک پیش کر

دینی چاہیے، تاہم محکموں کو آخری تاریخ تک درخواستیں روک کر نہیں رکھنی چاہئیں بلکہ ہر درخواست وزارت مالیات کو ارسال کر دینی چاہیے، جوں ہی یہ معلوم ہو جائے کہ ضمنی گرانٹ ضروری ہے۔ درخواست موصول ہونے پر وزارت مالیات گرانٹ کی مجموعی صورت حال کا جائزہ لے گی اور اس سال کے اصل اعداد اور گزشتہ سالوں کے اصل اعداد دیکھے گی، اگر اس معاملے کے بعد وزارت مالیات مان جائے کہ اخراجات نہ تو ملتی کیے جاسکتے ہیں اور نہ ہی دوسری مدت کے تحت بجٹ سے پورے کیے جاسکتے ہیں اور یہ کہ ضمنی گرانٹ ضروری ہے تو جتنی جلدی قابل عمل ہو گا قومی اسمبلی کے سامنے مطالبہ زر رکھ دیا جائے گا۔

۲۶۔ محاسبہ رپورٹ اور حسابات مد بندی

۱۔ آئین کی دفعہ ۱۷۱ کے تحت محاسب اعلیٰ پاکستان کے لیے ضروری ہے کہ وہ صدر مملکت کو وفاق کے حسابات سے متعلق رپورٹیں پیش کرے، جو ان کو قومی اسمبلی کے سامنے پیش کر داتا ہے۔ اسی بناء پر ہر مالی سال کے لیے حکومت کے تمام اخراجات (تصویبی یا واجب الوصول) کے محاسبہ شدہ حسابات بصورت حسابات مد بندی تیار کیے جاتے ہیں۔ محاسبہ کی تفتیش کے نتیجے میں اخراجات کی باقاعدگی اور موزونیت کے سلسلے میں محاسبہ رپورٹ میں ایسا تبصرہ جس کی ضرورت ہو، شامل ہوتا ہے۔ یہ سرکاری، تجارتی اور نیم تجارتی اداروں کے تجارتی، صنعتی اور نفع نقصان کے حسابات اور فرو ہائے توازن کے محاسبہ کے نتائج بھی قومی اسمبلی کے علم میں لاتی ہے۔ اس میں وہ رپورٹ بھی شامل ہوتی ہے جو محاسب اعلیٰ ذخائر کی وصولیات اور حسابات میں پائی جانے والی اہم بے قاعدگیوں کے بارے میں مناسب رائے کے ساتھ پیش کرے۔

۲۔ حسابات مد بندی زیادہ تر مد بندی اور اخراجات کے مابین پائے جانے والے فرق کے بارے میں وزارتوں، ڈویژنوں، محکموں کی طرف سے ناظم اعلیٰ حسابات کو پیش کردہ وضاحت پر انحصار کرتے ہیں۔ مد بندی اور اخراجات کے مابین فرق اور اخراجات پر مناسب انضباط میں ناکافی کی وضاحت اجمالی، درست اور معلوماتی ہونی چاہیے۔ مبہم

الفاظ میں عبارت مثلاً ”زائد تخمینہ کاری“ ”تبدیلی مد کے ذریعے پورا کیا گیا“ یا ”تبدیلی مد ناکافی اور غیر ضروری معلوم ہوئی“ وغیرہ سے گریز کرنا چاہیے۔ ہر صورت میں مجلس حسابات عامہ یہ جاننے میں دلچسپی رکھتی ہے کہ آیا خرچ ناگزیر تھا اور اس کی پیش بینی نہیں کی جاسکتی تھی۔

۲۷۔ کمیٹی برائے سرکاری حسابات

۱۔ ہر سیشن کے آغاز پر متفقہ کی مستقل مجلس (کمیٹی) بالترتیب مرکز اور صوبوں میں قائم کی جاتی ہے جس کا مقصد آئین کی دفعہ ۱۷۱ کے تحت حسابات مد بندی اور ان کی محاسبہ رپورٹ کی پڑتال ہونا ہے۔ کمیٹی متفقہ کے منتخب کردہ ارکان پر مشتمل ہوتی ہے۔ رکن کے عہدہ کی مدت ایک سال ہوتی ہے لیکن کوئی بھی ممبر دوبارہ منتخب کیا جاسکتا ہے۔ صدر نشین کا انتخاب کمیٹی اپنے ارکان میں سے کرتی ہے۔ کسی معاملے میں برابر ووٹ ہونے کی صورت میں صدر نشین اپنا دوسرا یا فیصلہ کن ووٹ لیتا ہے۔ انگلستان میں یہ رواج ہے کہ حزب مخالف کے کسی مشہور و معروف رکن کو صدر نشین کے طور پر منتخب کیا جاتا ہے تاکہ اگر ضروری ہو تو حکومت کی مالی کارروائیوں کے جائزے اور تنقید کے مناسب مواقع حاصل ہوں۔

ناظم اعلیٰ حسابات رکن تو نہیں ہوتا لیکن عام طور پر اسے صوبائی مجلس حسابات عامہ میں آنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ مرکزی مجلس حسابات عامہ کے لیے مجلس اعلیٰ کو دعوت دی جاتی ہے۔

۲۔ مجلس کا خاص کام یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ متفقہ کی طرف سے عطا کردہ رقوم کو انتظامیہ نے مطالبہ زر کی حدود کے اندر خرچ کیا ہے یا نہیں۔ مجلس کو جن باتوں کا اطمینان کرنا ہوتا ہے، یہ ہیں:

- (۱) جن رقوم کا اندراج خرچ شدہ رقوم کے طور پر کیا گیا ہے حقیقتاً خرچ کی گئی تھیں اور منظور شدہ رقوم سے زیادہ نہیں تھیں۔
- (۲) رقوم کو کسی ایسے مقصد کے لیے خرچ نہیں کیا گیا جو متفقہ کا منظور شدہ

نہیں تھا۔

(ب) انتظامیہ کی طرف سے رقوم کے خرچ میں دیگر بے ضابطگیاں نہیں ہیں۔
 سچ پوچھنے تو مجلس کا تعلق تصویبی اخراجات سے ہوتا ہے، لیکن مجلس حسابات
 عامہ کے قیام سے ایک رواج قائم ہے کہ مجلس تصویبی اور غیر تصویبی دونوں اخراجات
 کے بارے میں کارروائی کرتی ہے۔ جہاں ذخائر کے حسابات کا محاسبہ، محاسب اعلیٰ کی
 طرف سے کیا جاتا ہو تو مجلس ان کے بارے میں محاسبہ رپورٹ کا معائنہ اسی طرح
 کرتی ہے جیسے اخراجات کا۔

۳۔ مجلس کو متعلقہ محکمہ جات کے نمائندوں کا بیان لینے اور براہ راست ذمہ دار
 افسروں کو طلب کرنے کا اختیار حاصل ہے۔ مجلس حسابات مد بندی اور محاسبہ رپورٹ
 میں پیش کردہ کسی معاملے پر تنقید کرنے اور سفارشات پیش کرنے کا حق بھی لکھتی
 ہے۔ لیکن کمیٹی انتظامی ادارہ نہیں ہے۔ گمرے معائنے کے بعد اور واضح شہادت کے
 باوجود بھی اسے کسی خرچ کی شق سے منع کرنے یا کوئی حکم جاری کرنے کا حق حاصل
 نہیں ہے۔ یہ صرف کسی بے ضابطگی کی طرف توجہ دلا سکتی ہے اور اس پر اپنی رائے
 کا اظہار کر سکتی ہے اور اپنے نتائج تحقیقات اور سفارشات درج کر سکتی ہے۔

۴۔ حسابات کا معائنہ مکمل ہونے کے بعد مجلس کی سفارشات ایک رپورٹ کی شکل
 میں تیار کی جاتی ہے جو کہ متفقہ کے سامنے پیش کی جاتی ہے۔ اس پر بحث کے لیے
 عام طور پر ایک دن مقرر کیا جاتا ہے، جب کہ بہت سے نکات پیش کیے جاتے ہیں جو
 عوام الناس کے لیے بڑی دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں۔ متفقہ کی منظور کردہ رقوم سے
 دائم خرچ کردہ رقوم کے ہر معاملے میں ووٹ لیے جاتے ہیں۔

باب ۱۱

وفاقی حکومت کے قواعد خزانہ

۱۔ تعارف (قاعدہ ۱)

۱۔ یہ قواعد حکومت نے حکومت ہند ایکٹ ۱۹۳۵ء کی دفعہ ۱۵۱ کے تحت جاری کیے
 تھے جس کو پاکستان میں اپنا لیا گیا۔ ان قواعد کو ”وفاقی حکومت کے قواعد خزانہ“
 کہا جاتا ہے۔

۲۔ یہ قواعد ابتدائی طور پر اس طریق کار سے بحث کرتے ہیں جس پر خزانوں اور
 بینک دولت پاکستان کے دفاتر اور اداروں میں خزانے کے کاروبار نقدی کے سلسلے
 میں عمل ہونا چاہیے۔ وہ ان محکمہ جات کے لیے بنیادی اصول اور عمومی اطلاق
 کے تحفظات بھی فراہم کرتے ہیں، جو سرکاری رقوم کی وصولی، تحویل اور ادائیگی
 کے بارے میں کارروائی کرتے ہیں۔

۲۔ سرکاری حساب میں رقوم کا محل وقوع (قاعدہ ۳)

۱۔ وفاقی حکومت کے سرکاری حساب میں موجود رقوم کو مرکزی خزانہ یا بینک میں
 رکھا جاتا ہے (بینک سے مراد ہے بینک دولت پاکستان یا اس کا کوئی دفتر یا ادارہ
 جس میں بینک دولت پاکستان کے مختار کی حیثیت سے کام کرنے والے نیشنل بینک

پاکستان کی کوئی شاخ بھی شامل ہو سکتی ہے۔)۔ بنک میں جمع شدہ رقوم کو وفاقی حکومت کی طرف سے رکھی گئی رقوم تصور کیا جاتا ہے۔

۳۔ دیگر افسران زرر آری و ادائیگی (قاعدہ ۶)

- ۱۔ فوجی خزانہ صندوق کا انچارج افسر، محکمہ ڈاک و تار کے افسران یا اس سلسلے میں مجاز کردہ کوئی اور افسر خزانے یا بنک کے بتایا جات سے علیحدہ محکمہ نقد بتایا جات رکھتے ہیں۔ انھیں سرکاری رقوم کی وصولی اور ادائیگی کے سلسلے میں وہ تمام فرائض ادا کرنے پڑتے ہیں جو ایک افسر خزانہ کے ذمے ہوتے ہیں۔
- ۲۔ محاسب اعلیٰ سے مشورے کے بعد حکومت کسی ناظم اعلیٰ حسابات کو اجازت دے سکتی ہے کہ ادائیگی کے لیے حکومت کو پیش کردہ مطالبات اور سرکاری حساب میں جمع کرائی جانے والی رقوم کے سلسلے میں افسر خزانہ کے لیے کسی ایک فرض یا تمام فرائض کو ادا کرے۔

۴۔ سرکاری حساب میں محاصل کی ادائیگی (قاعدہ ۷ تا ۱۱)

- ۱۔ محاصل کے سلسلے میں سرکاری افسران کی طرف سے وصول کردہ یا ان کو پیش کردہ پوری رقوم بلا تاخیر خزانے یا بنک میں جمع کرانا چاہیے اور وفاقی حکومت کے سرکاری حساب میں شامل کرنا چاہیے۔ پاکستان کے بیرونی سفارت خانوں کے سلسلے میں رقوم ایسے بنک یا بینکوں میں جمع کرائی جائیں جن کو وزارت مالیات ہیٹ بنک کے مشورے سے مقرر کرے۔
- ۲۔ عمومی قاعدہ کے طور پر اس طرح وصول ہونے والی رقوم محکمہ اخراجات پورے کرنے کے لیے تصرف میں نہ لائی جائیں اور نہ ہی انھیں سرکاری حساب سے الگ رکھا جائے۔
- ۳۔ جو رقوم کوئی سرکاری افسر اپنی سرکاری حیثیت میں یا بصورت دیگر وصول کرے اور جو سرکاری محاصل کا حصہ نہ ہوں انھیں سرکاری حساب میں شامل

- نہیں کرانا چاہیے سوائے اس کے کہ خصوصی طور پر اس کی اجازت دی گئی ہو۔
- سرکاری حساب سے کوئی رقم نکلوا کر کسی بنک میں جمع نہیں کروانی چاہیے۔
- ۴۔ محکمہ ضوابط کے مطابق کمائڈر ان چیف (چیف آف سٹاف) کی طرف سے پیشگی حاصل کردہ زائداد بنک میں کمائڈر ان چیف کے سرکاری نام سے رکھا جا سکتا ہے، اسی طرح یونٹوں کے کمان دار اور دفاعی خدمات میں سرکاری رقوم کے انتظام سے متعلق دیگر افسران اپنی سرکاری حیثیت میں ان رقوم کے لیے بنک کے ساتھ رواں کھاتہ کھول سکتے ہیں۔
- ۵۔ بنک دولت پاکستان کسی بھی بنک میں جمع کرائی گئی رقوم کی محفوظ تحویل کے لیے ذمہ دار ہے۔

۵۔ سرکاری حساب سے رقم نکلوانا

- ۱۔ ”رقم نکلوانا“ سے مراد ہے سرکاری حساب سے حکومت کی طرف سے ادائیگیوں کے لیے رقوم نکلوانا۔ پاکستان کے بیرونی سفارت خانوں کی طرف سے حکومت کے لیے کی گئی ادائیگیاں بھی اس میں شامل ہوتی ہیں۔
- ۲۔ سب سے اہم اور ابتدائی اصول یہ ہے کہ سرکاری حساب سے کوئی رقم افسر خزانہ یا حساب دار اعلیٰ کی طرف سے بجز محکمہ محاسمی پاکستان کے کسی افسر کی تحریری اجازت کے بغیر نہیں نکلوائی جا سکتی۔ دوسرے الفاظ میں جب تک کسی مجاز افسر کا تحریری حکم نامہ ادائیگی نہ ہو کوئی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ ناظم اعلیٰ حسابات اپنے حلقہ حسابات میں رقوم نکلوانے کی اجازت دے سکتا ہے۔ وہ اپنے حلقہ حسابات سے باہر رقوم نکلوانے کی اجازت نہیں دے سکتا سوائے اس کے کہ کسی حاکم مجاز کی طرف سے خاص طور پر اس کی اجازت دی گئی ہو۔ عام طور پر کسی صوبے میں واقع خزانے اور بنک متعلقہ حساب داران اعلیٰ کے حلقہ حسابات کے تحت آتے ہیں۔ حساب دار اعلیٰ محاصل پاکستان براہ راست بنک دولت پاکستان، اسلام آباد، راولپنڈی اور کراچی اور اسلام آباد کے وفاقی خزانہ جات سے

رقم نکلاوا سکتا ہے۔ ناظم اعلیٰ حسابات محاصل پاکستان کے ذیلی دفاتر لاہور، کوئٹہ، پشاور، کراچی اور گلگت متعلقہ صوبوں اور شمالی علاقوں میں واقع بینک، خزانوں اور ضلعی دفاتر حسابات سے رقم نکلاوا سکتے ہیں۔

۳۔ عام طور پر افسر خزانہ حسب ذیل مقاصد کے لیے رقوم نکلاوانے کی اجازت دینے کا مجاز ہوتا ہے:

(۱) افسران وصولیاتی کو حکومت کی طرف سے واجب الادا رقم کی ادائیگی کے لیے۔

(۲) افسران وصولیاتی کو رقوم فراہم کرنے کے لیے تاکہ مستقبل قریب میں دیگر سرکاری ملازمین اور نجی فریقین کی طرف سے پیش کیے جانے والے مطالبات کی ادائیگی ہو سکے۔

(۳) افسر وصولیاتی کسی دوسرے افسر کو اسی قسم کے مطالبات کی ادائیگی کے لیے۔

(۴) کسی نجی فریق کو حکومت کی طرف سے واجب الادا رقم کی براہ راست خزانے یا بینک سے ادائیگی کے لیے۔

(۵) کسی سرکاری افسر یا حاکم مجاز کو سرمایہ کاری کے لیے ادائیگی کے لیے جو سرکاری حساب میں موجود رقم کی سرمایہ کاری کرنے کا مجاز ہو۔

۴۔ افسر خزانہ مندرجہ بالا کے علاوہ کوئی ادائیگی نہیں کر سکتا سوائے اس کے کہ خصوصی طور پر حساب دار اعلیٰ کی طرف سے اس کی اجازت دی گئی ہو۔ عام طور پر ادائیگی اسی ضلع میں ہونی چاہیے جس میں مطالبہ وقوع پذیر ہو۔ افسر خزانہ کے اختیارات قواعد خزانہ کے تحت حاصل ادائیگی کے اختیارات کے تحت محدود ہوتے ہیں۔ اگر افسر خزانہ کے سامنے کوئی ایسا مطالبہ پیش کیا جائے جو ان قواعد کے تحت یا ناظم اعلیٰ حسابات کی طرف سے تفویض کردہ اختیارات کے تحت نہ آتا ہو تو اسے اس مطالبہ کی ادائیگی سے انکار کرنے کا حق ہو گا۔ افسر خزانہ کو حکومت کی طرف سے ادائیگی کے کسی حکم پر عمل کرنے کا اختیار نہیں ہے جب

تک کہ کوئی خاص حکم واضح طور پر ادائیگی کے لیے اسے نہ دیا جائے۔ ایسا حکم عموماً "حساب دار اعلیٰ کے ذریعے ارسال کرنا چاہیے" لیکن اگر کوئی ہنگامی صورت حال ہو تو براہ راست حکم دیا جاسکتا ہے اور افسر خزانہ کو اس کی تعمیل کرنی ہو گی۔

۵۔ ہر افسر خزانہ حساب دار اعلیٰ کے سامنے مطالبے کے جواز کو قبول کرنے کا ذمہ دار ہے، جس کے نکلاوانے کی اجازت ناظم اعلیٰ حسابات نے دی ہو اور اس بات کا اطمینان کرنا بھی افسر خزانہ کا فرض ہے کہ رقم حقیقتاً وصول کنندہ نے وصول کر لی ہے۔ افسر خزانہ کو چاہیے کہ ہر ادائیگی کی نوعیت کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کرے اور جس مطالبے کے ساتھ مطلوبہ معلومات نہ ہوں اس کو قبول کرنے سے انکار کر دے۔ اگر اس کی یہ رائے ہو کہ کوئی مطالبہ نفاذی ہے تو اس پر ادائیگی نہ کرے اور متعلقہ فریق کو حساب دار اعلیٰ سے رجوع کرنے کی ہدایت کرے۔

۶۔ جب تک حساب دار اعلیٰ افسر خزانہ کو اختیار نہ دے اس وقت تک نہ تو کسی پنشن کی ادائیگی ہو سکتی ہے اور نہ ہی کوئی افسر اپنی تنخواہ، الاؤنس، انعام اعزازیہ وغیرہ وصول کر سکتا ہے۔ تاہم حکومت محاسب اعلیٰ کے مشورے سے استثنائی معاملات میں اس شرط کو ختم کر سکتی ہے۔

۷۔ نئے تقرر شدہ اشخاص کو چھوڑ کر جن کے لیے طبی تصدیق نامہ ضروری ہوتا ہے، افسر خزانہ کو کسی ایسے سرکاری ملازم کو پہلی بار تنخواہ اور الاؤنسوں کی ادائیگی نہیں کرنی چاہیے، جس کے مطالبے کے ساتھ تصدیق نامہ آخری تنخواہ موجود نہ ہو۔ اگر افسر خزانہ نے خود تصدیق نامہ آخری تنخواہ جاری کیا ہو تو وہ اس وقت تک مزید ادائیگی نہیں کرے گا جب تک کہ تصدیق نامہ آخری تنخواہ اسے واپس نہ کر دیا جائے۔

۸۔ افسر خزانہ ادائیگی کے لیے پیش کیے گئے کسی بل میں حسابی غلطی یا واضح غلطی کو درست کر سکتا ہے۔ افسر زبردار کو اس درجگی سے آگاہ کر دینا چاہیے۔

۹۔ ہنگامی حالات کی صورت میں کوئی کلکٹر ادائیگی کے لیے سوائے پیش کی ادائیگی کے کسی افسر خزانہ کو تحریری حکم دینے کا مجاز ہے اور اس کے لیے قواعد کی پابندی ضروری نہیں ہوتی۔ ایسے تمام معاملات میں کلکٹر کو اپنے حکام کی ایک نقل حساب دار اعلیٰ کو ارسال کرنی چاہیے، جن میں ان حالات کی تفصیل درج کرنی چاہیے، جن کی وجہ سے یہ کارروائی کرنی پڑی۔ افسر خزانہ کو بھی چاہیے کہ ادائیگی کے بارے میں ناظم اعلیٰ حسابات کو مطلع کرے۔

۱۰۔ جب بھی حساب دار اعلیٰ کسی افسر خزانہ کو ہدایت کرے کہ کسی افسر سے کسی رقم کی بازیابی کرے جو اسے زائد ادا کی گئی ہو یا غلط ادا کی گئی ہو تو اسے متعلقہ فریق کی طرف سے کسی التماس یا درخواست پر غور کیے بغیر بازیابی کرنی چاہیے۔ افسران سے بھی توقع کی جاتی ہے کہ وہ غیر ضروری اور قابل گریز مراسلت کیے بغیر ناظم اعلیٰ حسابات کے احکام کی تعمیل کریں گے۔

۱۱۔ ہر سرکاری افسر نے سرکاری رقوم اخراجات کے لیے فراہم کی جائیں ان رقوم کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار ہو گا جب تک کہ وہ حساب دار اعلیٰ کے اطمینان کے مطابق ان کا حساب پیش نہ کر دے، وہ اس بات کو یقینی بنانے کا ذمہ دار بھی ہے کہ ادائیگی اسی شخص کو کی جائے جو اسے وصول کرنے کا مستحق ہو۔

۶۔ نقدی کی برداشت و گزاشت کے لیے عمومی ہدایات (قاعدہ ۶ تا ۷)

۱۔ عمومی قاعدہ کے طور پر جہاں تک ممکن ہو سکے رقوم کو محکمہ افسروں کے ہاتھوں سے گزرنے کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ جب حکومت کے واجبات کے طور پر رقم پیش کی جائے یا جمع کرانے کے لیے دی جائے تو متعلقہ فریق کو ہدایت کرنی چاہیے کہ رقم خزانے یا بینک میں جمع کرا دے۔ اسی طرح ادائیگیاں بھی جہاں تک ممکن ہو بینک یا خزانے کے توسط سے ہونی چاہئیں۔

۲۔ ہر محکمے یا دفتر میں جہاں نقدی کی برداشت و گزاشت ہوتی ہو وہاں فارم ٹی آر۔۳ میں نقدی رکھنی چاہیے۔ نقدی کھولنے سے قبل اس کے صفحات کی

کتنی کر لینی چاہیے اور پہلے صفحے پر اس امر کا تصدیق نامہ درج کرنا چاہیے۔ تمام مالی لین دین کا وقوع پذیر ہوتے ہی نقد ہی میں اندراج کرنا چاہیے اور سربراہ محکمہ یا اس کی طرف سے مجاز کردہ کسی جریدی افسر کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔ یہ اس بات کا نشان ہو گا کہ اس نے پڑتال کر لی ہے۔ نقد ہی کو باقاعدگی سے بند کرنا چاہیے۔ میزانون کی پڑتال سربراہ دفتر کو خود کرنی چاہیے یا اپنے کسی ماتحت افسر سے کردانی چاہیے جو کہ نقد ہی نوٹس نہ ہو۔ سربراہ دفتر کو میزانون کی درستگی کے بارے میں اپنے مختصر دستخط کرنے چاہئیں۔ مناسب وقتوں سے نقد بقایا جات کی پڑتال کرنی چاہیے۔ وقفہ ایک ہفتہ سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ ماہ کے آخر میں نقد ہی کو حتمی طور پر بند کرنے کے وقت سربراہ دفتر کو نقد بقایا جات کی توثیق کرنی چاہیے اور اپنے دستخطوں کے ساتھ نقد ہی پر اس امر کا تصدیق نامہ درج کرنا چاہیے۔ نقد بدست کو الفاظ اور اعداد میں درج کرنا چاہیے۔

۳۔ نقد ہی میں اندراجات صاف ستھرے ہونے چاہئیں۔ چھوکات اور لکھائی کے اوپر لکھائی سے گریز کرنا چاہیے۔ اگر کوئی غلطی ہو تو اس پر قلم سے کبیر لگا دینی چاہیے اور سطروں کے درمیان سرخ روشنائی سے صحیح اندراج کر دینا چاہیے۔ تمام درستیوں کی تصدیق سربراہ دفتر کے با تاریخ مختصر دستخطوں کے ساتھ ہونی چاہیے۔

۴۔ جب بھی سرکاری افسر کی تحویل میں موجود کوئی رقم خزانے یا بینک میں جمع کرائی جائے تو سربراہ دفتر کو نقد ہی کے اندراج کا موازنہ خزانے کی رسید چالان یا بینک کی پاس بک کے ساتھ کرنا چاہیے اور پھر تصدیق کرنی چاہیے۔ جب خزانے بینک میں جمع کرائی جانے والی رقوم زیادہ ہوں تو افسر خزانہ سے کہنا چاہیے کہ وہ ماہ کے دوران ہونے والی تمام ترسیلات کی مجموعی رسید جاری کرے جس کا موازنہ نقد ہی کے اندراجات سے کرنا چاہیے۔

۵۔ اگر کسی افسر کو اپنی سرکاری حیثیت میں غیر سرکاری رقوم کی برداشت و

گزاہت کرنی پڑے تو اس نقدی کو الگ صندوق میں رکھنا چاہیے اور الگ کتب میں اس کا حساب ہونا چاہیے تاکہ یہ سرکاری حساب سے بالکل الگ رہے۔

۶۔ حکمت عملی کے طور پر بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱ اور ۲ کے سرکاری ملازمین کو نقدی لانے اور لے جانے کے لیے مقرر نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر یہ ناقابل گریز ہو تو قابل اعتماد چال چلن کے پرانے آدمی کو یہ کام دینا چاہیے، جب کبھی رقم بڑی ہو تو اس کے لیے پولیس گارڈ حاصل کرنا چاہیے اور اسے خزانچی ریخام قاصد کے ساتھ بھیجنا چاہیے۔

۷۔ سرکاری رقوم کی وصولی (قاعدہ ۷۸ تا ۸۱)

عام طور پر سرکاری واجبات صرف قانونی سکوں یا نوٹوں کی صورت میں وصول کرنے چاہئیں جب خزانے کا کاروبار نقدی بنگ کے ذریعے ہوتا ہو تو خط کشیدہ چیک اور مطالبہ ڈرافٹ بھی سرکاری واجبات کی ادائیگی کے سلسلے میں قبول کر لینے چاہئیں، تاہم چیک کی تخلص ہونے تک یہی تصور کیا جائے گا کہ ادائیگی نہیں ہوئی۔ لہذا چیک پیش کرنے پر حتیٰ رسید نہیں دی جاسکتی۔ زیادہ سے زیادہ سب سے پہلے چیک کی رسید دینی چاہیے اور تخلص کے بعد حتیٰ رسید دینی چاہیے۔ بنگ کے مصارف متعلقہ فریق کو برداشت کرنے ہوں گے۔ بنگ کی طرف سے چیک مسترد ہونے کی صورت میں چیک پیش کرنے والے کے نام اس بات کی اطلاع فوراً ارسال کرنی چاہیے اور نقد ادائیگی کے لیے مطالبہ بھی ارسال کرنا چاہیے۔ چیک مسترد ہونے کے بارے میں اطلاع میں ممکنہ تاخیر کی وجہ سے ہونے والے کسی نقصان کے لیے حکومت کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرے گی۔ یہ بات چیک کے ذریعے سرکاری واجبات ادا کرنے والے فریقین کے مفاد میں ہے، کہ وہ مناسب احتیاطی تدابیر پر اختیار کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے چیک زیادہ سے زیادہ آخری تاریخ سے ایک دن قبل خزانے یا افسر وصول کنندہ کو مل جائیں۔ افسر وصول کنندہ اپنی صوابدید پر آخری تاریخ کو

چیک کے ذریعے سرکاری واجبات کی ادائیگی قبول کرنے سے انکار کر سکتا ہے۔

۸۔ ادا کنندہ کو رسید دینا (قاعدہ ۸۰ تا ۸۶)

۱۔ حکومت کی طرف سے رقوم وصول کرنے والے ہر افسر کو ادا کنندہ کے لیے رسید جاری کرنی لازمی ہے۔ رسید پر مجاز افسر کے دستخط ہونے چاہئیں، جسے رسید پر دستخط کرنے سے قبل اطمینان کرنا چاہیے کہ رقم حقیقتاً وصول ہو چکی ہے اور نقدی میں حساب میں لی جا چکی ہے۔ رسید میں درج رقم الفاظ اور ہندسے دونوں میں ہونی چاہیے۔

۲۔ سوائے اس کے کہ کسی خاص محکمے کے لیے خاص فارم ہو حکومت کی طرف سے رقوم وصول کرنے والے تمام افسران کو فارم ٹی آر۔ ۵ کی کتاب رسید استعمال کرنی چاہیے، جس پر مشین سے نمبر لگائے گئے ہوں جو کہ افسر مختار سلمان تحریر و فارم سے حاصل کی جاسکتی ہیں۔ کتاب رسید تالے اور چابی میں مجاز افسر کی ذاتی تحویل میں رہنی چاہیے۔ ان کتب رسید کی وصولی اور اجراء کے لیے مناسب شاخ رجسٹر رکھنا چاہیے۔ جب بھی نئی کتاب رسید استعمال میں لائی جائے تو کتاب میں فارموں کی تعداد گن کر اس امر کا تصدیق نامہ کتاب میں نمایاں جگہ مجاز افسر کے دستخطوں سے درج کرنا چاہیے۔

۳۔ اگر اصل رسید کی گم شدگی کی اطلاع دی جائے تو شئی رسید کسی صورت میں جاری نہیں کرنی چاہیے۔ صرف ایک تصدیق نامہ جاری کرنا چاہیے کہ فلاں تاریخ کو کوئی رقم کسی خاص سلسلے میں کسی شخص سے وصول کی گئی تھی۔ تاہم اگر محکمہ ضوابط کے تحت شئی رسید جاری کی جاسکتی ہو تو ایسا کیا جاسکتا ہے۔

۹۔ سرکاری حساب میں رقم کی ادائیگی (قاعدہ ۸۸ تا ۹۶)

۱۔ عام طور پر بنگ کو پیش کردہ تمام رقوم نقد ہونی چاہئیں۔ اگرچہ مندرجہ بالا شرائط کے تحت چیک اور ڈرافٹ بھی قبول کیے جاسکتے ہیں۔ ان محکمہ جات کی

صورت میں جو محاصل کو اخراجات کے تصرف میں لانے کے مجاز ہوں وصولیات اور ادائیگیوں کو مناسب ریکارڈ میں وصولیات اور ادائیگیوں کے طور پر درج کرنا چاہیے۔ اگر وصولیات ادائیگیوں سے زائد ہوں تو زائد رقم خزانے ربنک میں جمع کرا دینی چاہیے۔ ترسیل کرنے والے افسر کو چالان پر وصول کردہ کل رقم اور اس کے مقابل ہونے والے اخراجات درج کرنے چاہئیں نہ کہ صرف اصل وصولیات۔

۲۔ خزانے یا بنک میں رقم ادا کرنے والے ہر شخص کو اس کے ساتھ ایک چالان پیش کرنا چاہیے جس میں ادائیگی کی نوعیت، سرکاری افسر جس کی طرف سے ادائیگی ہو رہی ہے، مد حساب اور تمام دیگر متعلقہ معلومات درج کرنی چاہئیں۔ فارم ٹی آر۔۶ میں چالان دو پرتوں میں تیار کرنا چاہیے۔

۱۰۔ دعاوی پیش کرنا (قاعدہ ۱۳۰ تا ۱۳۴)

۱۔ صرف بل پیش کر کے ہی سرکاری حساب سے رقوم نکلوائی جاسکتی ہیں۔ امر واقعہ کے طور پر بل حکومت کے خلاف دعاوی کا ایک کیفیت نامہ ہوتا ہے جس میں دعویٰ کی نوعیت، طلب کردہ رقم مجموعی بلوں میں تصریح کی جاتی ہے۔ بل سادی رسید کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے ہی بل کی رسید دے دی جاتی ہے اور اس پر ”ادا شدہ“ کی مرگ جاتی ہے تو یہ واچر ہو جاتا ہے۔ حکومت کے خلاف دعاوی کے ادائیگی کے عام بل خزانے یا کسی مجاز دفتر ادائیگی میں پیش کرنا چاہیے۔ اگر بل کی رقم ۲۰ روپے سے زیادہ ہو تو اس کی رسید پر ٹکٹ بھی لگانا چاہیے۔ جب کوئی ایسا شخص جو سرکاری ملازمت میں نہ ہو اور کسی خدمت یا اشیاء کی فراہمی کا دعویٰ پیش کرے تو یہ متعلقہ محکمے کے ذریعے پیش کرنا چاہیے۔ مقامی اداروں، مذہبی اداروں، خیراتی اداروں یا تعلیمی اداروں اور دیگر غیر سرکاری اداروں اور اشخاص کے لیے زہائے امداد اور چندوں وغیرہ کے بل کسی ذمہ دار سرکاری ملازم کے توسط سے یا اس کے تصدیقی دستخطوں کے بعد

پیش کیے جائیں۔

۲۔ عام طور سے حکومت کے خلاف ایسے دعاوی جو واجب الادا ہونے کے ۶ ماہ کے اندر پیش نہ کیے گئے ہوں، حساب دار اعلیٰ کی اجازت کے بغیر پیش نہیں کیے جاسکتے، سوائے ۵ روپے یا اس سے کم مالیت کے معمولی دعاوی کے۔

۱۱۔ بلوں کی تیاری اور فارم کے بارے میں ہدایات (قاعدہ ۱۳۸)

۱۔ انگریزی میں طبع شدہ فارم استعمال کیے جائیں۔ اگر بل کسی اور زبان میں ہو تو اسے انگریزی میں حرف بہ حرف ترجمہ کر دینا چاہیے یا کم از کم بل کا خلاصہ انگریزی میں تیار کرنا چاہیے جس میں رقم، وصول کنندہ کا نام اور ادائیگی کی نوعیت درج ہو۔ خلاصہ پیش کرنے والے افسر کے دستخطوں سے تیار ہونا چاہیے۔ تمام بلوں کو روشنائی سے پر کرنا چاہیے اور روشنائی سے ہی دسخط کرنے چاہئیں۔ دستخطوں کے لیے بال پوائنٹ قلم استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ طلب شدہ رقم کو الفاظ اور ہندسوں دونوں میں درج کرنا چاہیے۔ اگر رقم روپے میں ہو تو الفاظ میں درج رقم کے آخر میں لفظ ”صرف“ کا اضافہ کر دینا چاہیے۔ اگر روپے کی کوئی کسر ہو تو روپوں کے بعد پیسوں کو ہندسوں میں لکھ دینا چاہیے۔

۲۔ محکومات اور لکھائی کے اوپر لکھائی سے سختی سے گریز کرنا چاہیے۔ غلطی کی صورت میں غلط اندراج بر لکیر لگا دینی چاہیے اور سرخ روشنائی سے درست اندراج صاف صاف کر دینا چاہیے۔ اس کی باضابطہ تصدیق افسر وصولیاتی کے با تاریخ مختصر دستخطوں کے ساتھ ہوگی۔ اسی طرح بل میں تمام رد و بدل اور تبدیلیوں کی تصدیق جہاں جہاں رد و بدل اور تبدیلی کی گئی ہو دستخطوں کے ساتھ کرنی چاہیے۔

۳۔ افسر وصولیاتی کو ہر بل پر حسابات کی درجہ بندی کا اندراج کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں میزانیہ میں درجہ بندی سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ درجہ بندی سے یہ بھی ظاہر ہونا چاہیے کہ اخراجات تصویبی ہیں یا واجب۔ دو یا زیادہ

مقاصد کلاں سے اخراجات کو ایک بل میں شامل نہیں کرنا چاہیے۔ مختلف معروض کلاں سے واجب الادا اخراجات کے لیے الگ الگ بل پیش کرنے چاہئیں۔

۳۔ اگر اخراجات کسی خصوصی منظوری کی تعمیل میں کیے گئے ہوں تو بل کے ساتھ اس مراسلہ منظوری کی نقل ہونی چاہیے جو افسر زریرار کی طرف سے تصدیق شدہ ہونی چاہیے۔

۵۔ ادائیگی کی تاریخ کا اندراج رسید، ذیلی واؤچر اور قبض الوصول پر کرنا چاہیے۔ جہاں وصول کنندہ کی ناخواندگی یا کسی اور وجہ سے ادائیگی کی تاریخ دی جا سکے وہاں افسر ادائیگی کو وہ اپنے مختصر دستخطوں کے ساتھ تاریخ ادائیگی کا اندراج کر دینا چاہیے۔ اگر ادائیگی کسی اور شخص یا ادارے کو چیک کے ذریعے کرنی مطلوب ہو تو بل پر مناسب تنہیر کرنی چاہیے۔

۱۲۔ بلوں پر دستخط یا تصدیقی دستخط کرنا (قاعدہ ۱۴۱)

۱۔ سربراہ دفتر کی بجائے کسی کلرک کے دستخطوں سے جاری کردہ بل یا حکم نامے پر کوئی ادائیگی نہیں ہو سکتی۔ ایسے بل پر بھی ادائیگی نہیں ہو سکتی جس پر افسر زریرار کے دستخط ریز کی مہر کے ساتھ نہ ہوں۔ ان تمام معاملات میں جن میں بل پر دستخط کسی نشان، مہر یا نشان انگوٹھا کے ذریعے کیے گئے ہوں کسی جانے پہچانے شخص کو اس کی تصدیق کرنی چاہیے۔

۲۔ سوائے اردو کے کسی مقامی زبان میں دستخطوں کو حرف بہ حرف انگریزی میں درج کر دینا چاہیے۔

۳۔ سربراہ دفتر کسی اپنے ماتحت جریدی افسر کو اجازت دے سکتا ہے کہ وہ افسر وصولیاتی و ادائیگی کی حیثیت سے کام کرے اور اس کی بجائے بلوں اور حکم ناموں پر دستخط کرے۔ اس کا نام اور نمونے کے دستخط افسر محاسبہ خزانہ ریک کے ارسال کرنے چاہئیں۔ جب بھی افسر زریرار کی اسامی میں کوئی تبدیلی ہو تو تمام

متعلقین کو اس کی اطلاع دینی چاہیے اور اس کے دستخطوں کے نمونے بھی ارسال کرنے چاہئیں۔ تاہم افسر زریرار و ادائیگی کی تقرری سربراہ دفتر کو اس کی ذمہ داریوں سے بری نہیں کرتی جو بل کی درستی اور ادائیگی کے لیے وصول شدہ رقم کے تصفیے کے بارے میں ہوں۔

۴۔ جن بلوں پر تصدیقی دستخطوں کی ضرورت ہو انہیں تصدیقی دستخط حاصل کیے بغیر پیش نہیں کرنا چاہیے۔

۱۳۔ بلوں کی قلمی نقول (قاعدہ ۱۴۵)

۱۔ اگر ادائیگی کے لیے پیش کیے گئے کسی بل کو افسر خزانہ رناظم اعلیٰ حسابات اور حقیقی ادائیگی سے قبل کھو جائے تو افسر زریرار و ادائیگی قلمی بل پیش کر سکتا ہے جس پر سب سے اوپر لفظ "قلمی" واضح طور پر درج کیا جائے گا اور خزانہ سے تحقیق کی جائے گی کہ اس پر پہلے ادائیگی نہیں کی گئی۔ بل پر حسب ذیل تصدیق نامہ کا اندراج بھی کیا جائے گا:

"تصدیق کی جاتی ہے کہ اصل بل پر کوئی ادائیگی وصول نہیں کی گئی۔ اگر اصل بل پر مستقبل میں ادائیگی ہو جائے تو میں یہ رقم فوراً واپس کر دینے کا وعدہ کرتا ہوں۔"

افسر محاسبہ خزانہ ریک اس بات کی تصدیق کرنے کے بعد کہ اصل بل پر کوئی ادائیگی نہیں ہوئی قلمی بل کو ادائیگی کے لیے منظور کر لے گا۔

۲۔ تاہم اگر بل کی قلمی یا تیسری نقل تیار کی جائے تو صرف ایک نقل پر پورے دستخط کرنے چاہئیں اور باقی نقول پر صرف مختصر دستخط کرنے چاہئیں اور مکمل دستخطوں والی نقل ادائیگی کے لیے پیش کرنی چاہیے۔

۱۴۔ ادائیگی بذریعہ چیک (قاعدہ ۱۴۷ تا ۱۶۷)

بلوں پر ادائیگی کے دو طریقے ہیں۔ جہاں ادائیگی خزانے کی طرف سے خود یا

بذریعہ تک ہوتی ہے بل پر حکم نامہ ادائیگی کا اندراج کیا جاتا ہے اور ادائیگی نقد کی جاتی ہے۔ دوسرا طریقہ پیش محاسبہ چیک کا طریقہ کہلاتا ہے اور جہاں خزانے کا کام دفاتر محاسبہ کو تفویض کیا گیا ہو ادائیگی چیکوں کے ذریعے ہوتی ہے۔ بل ان دفاتر کے کاؤنٹر پر پیش کیے جاتے ہیں۔ ان کے بدلے میں نوکن جاری کیے جاتے ہیں۔ بل کے منظور ہونے کے بعد اس کا چیک تیار کیا جاتا ہے۔ یہ چیک وصول کنندہ یا اس کے نمائندے کو دے کر نوکن واپس لے لیا جاتا ہے۔ قانونی یا مقامی اداروں، فرموں، نجی اشخاص کے لیے جاری کردہ ۲۰۰ روپے سے زیادہ کی رقم کے چیک یا سرکاری ملازمین کو ان کے ذاتی مطالبات کے سلسلے میں دیئے گئے چیک ہمیشہ خط کشیدہ ہوں گے۔ تاہم اس قاعدہ کا اطلاق ۷۰۰ روپے ماہوار تک تنخواہ پانے والے وفاقی سرکاری ملازمین پر نہیں ہو گا۔

۱۵۔ مطالبات پر پڑتال کا اطلاق (قاعدہ ۷۷ تا ۱۸۸)

۱۔ جب بھی کوئی بل خزانے دفتر محاسبہ میں ادائیگی کے لیے پیش کیا جائے تو عام محاسبہ پڑتال کا مقصد یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آج مطالبہ قابل منظوری ہے، بیت ٹھیک ہے، حساب کتاب درست ہے، دستخط تصدیقی دستخط اصلی ہیں اور قانونی بے باقی درست ہے۔ اگر ادائیگی کسی مجاز مختار یا بینکار کو کرنی ہو تو نظیر ہر لحاظ سے مکمل ہونی چاہیے۔

۲۔ افسر خزانہ، افسر محاسبہ سرکاری البکاروں اور غیر سرکاری افراد وغیرہ کو معاوضے، فیس، کمیشن، بونس، خدمات، فراہمی وغیرہ کے سلسلے میں ہونے والی ادائیگی کی اطلاع افسران محصول آمدنی کو بھی دے گا اور وصول کنندگان کے نام اور پتے سے بھی مطلع کرے گا۔

۱۶۔ نکلوائی گئی رقم کی ذمہ داری (قاعدہ ۲۰۵ تا ۲۲۱)

۱۔ ہر سرکاری افسر جسے رقم کی ادائیگی تفویض کی جائے تو اسے ہر ادائیگی کے

لے واؤچر حاصل کرنا چاہیے، جس میں مطالبات کے پورے کوائف اور اس کی مناسب شناخت کے لیے اور حسابات میں درجہ بندی کے لیے ضروری معلومات ہونی چاہئیں۔ ہر واؤچر پر یا اس کے ساتھ منسلک رسید ہونی چاہیے جس پر اس شخص کے دستخط ہونے چاہئیں جس کی طرف سے مطالبہ پیش کیا گیا ہو۔ اگر رسید حاصل کرنا ممکن نہ ہو تو اس پر ادائیگی کا قلمی تصدیق نامہ ہونا چاہیے، جس پر افسر ادائیگی کے دستخط اور اس کے اعلیٰ افسر کے تصدیقی دستخط ہونے چاہئیں۔ رسید نہ حاصل کرنے کے سلسلے میں ایک یاداشت بھی تیار کر کے ریکارڈ میں رکھنی چاہیے۔

۲۔ ہر واؤچر پر افسر زر براری کے دستخطوں سے حکم نامہ ادائیگی کا اندراج ہونا چاہیے، جس میں الفاظ اور ہندسوں میں رقم درج ہونی چاہیے۔ حکم نامہ ادائیگی پر دستخط دستی اور روشنائی میں ہونا چاہیے (بال پوائنٹ قلم سے نہیں)۔ واؤچروں اور ذیلی واؤچروں پر "اداشدہ" کی مہر لگانی چاہیے تاکہ وہ دوسری بار استعمال نہ ہو سکیں۔ ۱۰۰ روپے مالیت سے کم کے واؤچر جو محاسبہ کو پیش کرنے مطلوب نہ ہوں ان کو اہم دستاویزات کے طور پر ریکارڈ میں رکھنا چاہیے۔

۳۔ کسی افسر محاسبہ کی طرف سے ارسال کردہ تمام اعتراضات اور احکام کی طرف فوری توجہ دینی چاہیے۔ جب وہ کسی ادائیگی کو غیر مجاز ہونے کی وجہ سے نامنظور کر دے تو افسر ادائیگی کو تمام احتجاجات اور التماسات کے باوجود اس کی بازیابی کرنی چاہیے اور مستقبل میں اس کی ادائیگی اس وقت تک کرنی چاہیے جب تک افسر محاسبہ دوبارہ ادائیگی جاری کر دینے کی ہدایت نہ کرے۔ کوتیوں کے بارے میں افسر ادائیگی کو افسر محاسبہ یا متعلقہ سرکاری ملازم سے کوئی خط و کتابت نہیں کرنی چاہیے۔ اس کا فرض صرف موصول ہونے والے احکام کی تعمیل کرنا ہے۔ متاثرہ شخص اگر چاہے تو اپنا معاملہ متعلقہ حلقوں کے سامنے پیش کر سکتا ہے۔ اگر سرکاری ملازم جس سے بازیابی کا حکم حساب دار اعلیٰ کی طرف سے دیا جائے کسی دوسرے افسر ادائیگی کے حلقے میں تبدیل ہو جائے تو بازیابی کے

احکام بلا تاخیر اس افسر ادائیگی کو ارسال کر دیئے جائیں۔

۳۔ سوائے ان معاملات کے جہاں سرکاری ملازم نے احکام کے برخلاف یا بلا جواز عمل کیا ہو، زائد ادائیگیوں کی بازیابی متعلقہ سرکاری ملازم کی تنخواہ کے ایک تہائی سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔

۵۔ کٹوتیوں اور بازیابیوں کا مناسب ریکارڈ رکھنے کے لیے ہر افسر ادائیگی کو ایک رجسٹر رکھنا چاہیے جس میں حساب دار اعلیٰ کے حکم سے ہونے والی کٹوتیوں کا اندراج ہونا چاہیے۔ متعلقہ اشخاص کے ناموں اور عہدوں کے لیے الگ الگ کالم ہونے چاہئیں جن سے بازیابی مطلوب ہو۔ زائد ادائیگی کی نوعیت اور رقم اور زائد ادائیگی کے تسویہ کے طریقے کا اندراج بھی ہونا چاہیے۔

۷۔ ماہوار تنخواہ بل پیش کرنے کی واجب تاریخ (قاعدہ ۲۱۷ تا ۲۱۹)

۱۔ سرکاری ملازمین کو ماہوار تنخواہ اور مقررہ الاؤنسوں کے بلوں پر مہینہ کے آخری دن دستخط کرنے چاہئیں جس مہینہ کے لیے تنخواہ اور الاؤنس کسب کیے گئے ہوں۔ اسی طرح طلب کردہ رقم اگلے یوم کار کو قابل ادائیگی ہوگی۔ مرکزی حکومت کے اسلام آباد اور راولپنڈی میں واقع سیکرٹریٹ اور دیگر دفاتر کی تنخواہ اور عملے کے بل اس مہینے کے آخری یوم کار سے سات یوم قبل دستخط اور پیش کیے جائیں جس مہینے سے ان کا تعلق ہو۔ صوبائی صدر مقاموں پر اور کراچی اور پشاور میں تنخواہ اور عملہ بل جو مقامی حساب دار اعلیٰ یا ضلعی دفتر حسابات کو پیش کرنے مطلوب ہوں انھیں متعلقہ مہینہ کے آخری یوم کار سے بالترتیب سات دن اور ۵ دن قبل دستخط اور پیش کیا جائے۔ اگر حساب دار اعلیٰ اگلے ماہ کی پہلی تاریخ سے قبل چیک جاری بھی کر دے تو ان پر ان الفاظ کی تطبیق کر دی جائے۔ ”پہلی تاریخ سے قبل قابل ادائیگی نہیں“ تاکہ کسی صورت میں بھی تنخواہ اور الاؤنسوں کی ادائیگی اگلے ماہ کی پہلی تاریخ سے قبل نہ ہو سکے۔

۲۔ بیرون ملک پاکستانی سفارت خانوں میں ملازم افسروں اور عملے کی تنخواہ اور

الائس ان ملکوں میں مہینے کے آخری دن ادا کیے جائیں جن ملکوں میں ایسا کرنے کا رواج ہو۔ اگر عید الفطر، عید الاضحیٰ، دسہرہ، درگا پوجا یا کرسمس کے تہوار کے آخری دس دنوں میں آ رہے ہوں تو اس ماہ کی تنخواہ اور الاؤنس پیشگی نکلوائے جائیں اور اس تہوار سے متعلق فریقے کے وفاقی سرکاری ملازمین کو ادا کر دیے جائیں۔ پیشگی تنخواہ تہوار کی تاریخ سے زیادہ سے زیادہ ۵ دن قبل ادا کی جائے۔

۳۔ مندرجہ ذیل حالات میں سرکاری ملازم کو مہینے کے کسی حصے کے لیے تنخواہ وصول کرنے کی اجازت ہوگی اور ایسے بل مہینہ ختم ہونے سے قبل ادائیگی کے لیے منظور کیے جاسکتے ہیں:-

(الف) جب کوئی سرکاری ملازم بیرون ملک عارضی ڈیوٹی پر رخصت پر یا تعطیلات پر روانہ ہو۔ تاہم اگر اس کا مشاہرہ رخصت پاکستان میں قابل وصولی ہو تو اس کی وصولی اگلے ماہ کے آغاز پر ڈیوٹی تنخواہ کے ساتھ ہوگی۔

(ب) جب سرکاری ملازم کا دوسرے حلقہ محاسمی میں تبادلہ ہو یا ایک ہی حلقہ محاسمی میں محکمہ تعمیرات عامہ پاکستان سے یا محکمہ جنگلات سے یا محکمہ تعمیرات عامہ پاکستان میں ایک ڈویژن سے دوسرے ڈویژن میں تبادلہ ہو۔

(ج) جب سرکاری ملازم حتمی طور پر ملازمت چھوڑ دے یا بیرونی ملازمت پر چلا جائے۔

(د) اگر کسی مہینے کے پہلے دو دن تعطیلات عامہ ہوں اور خزانے سے تنخواہ اور الاؤنس ادا نہ کیے جاسکتے ہوں تو مقامی انتظامیہ کے سربراہ اپنی صوابدید پر ہدایات جاری کر سکتے ہیں کہ تمام وفاقی سرکاری ملازمین کے ماہوار تنخواہ بل تعطیلات سے قبل کام کے آخری دن ادا کیے جائیں۔

۱۸۔ بلوں سے کٹوتیاں (قاعدہ ۲۲۱ تا ۲۲۹)

۱۔ غیر جمیدی سرکاری ملازمین کے سلسلے میں افسر زر برآر اور جمیدی افسران خود اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ بلوں سے کفالتی فنڈ کے چندے، ڈاک، بیمہ زندگی،

ہیوونڈ، گروہی بیہ، محصول آمدنی، محصول اعلیٰ وغیرہ کی کٹوتیاں بالترتیب ان کی کٹوتی قواعد و ضوابط اور محصول آمدنی ایکٹ ۱۹۲۳ء کے مطابق ہوں۔ کفالتی فنڈ اور ڈاک خانہ بیہ زندگی کی کٹوتیوں کے لیے مناسب جدول تیار کرنی چاہئیں۔ کرایہ مکان کے سلسلے میں بھی پہلی صورت حال جس کے مطالبے تعمیرات عامہ پاکستان افسر املاک کی طرف سے دو پرتوں میں ارسال کیے جاتے ہیں۔ اس کے مطابق کٹوتی کرنی چاہیے اور ایک نقل متعلقہ کالموں میں اندراج کر کے اسے محکمہ تعمیرات عامہ پاکستان دفتر املاک کو واپس کر دینا چاہیے۔ اگر قابل بازیابی کرایہ سرکاری ملازم کے مواجب کی فیصد ہو تو یافت کی شرح کے بارے میں وقتاً فوقتاً متعلقہ حاکمان مجاز کو اطلاع دینی چاہیے۔ جریدی افسران کی صورت میں تنخواہ کی ایک نقل افسر محاسبہ کی طرف سے دفتر املاک کو ارسال کی جاتی ہے تاکہ وہ اپنا ریکارڈ تیار تاریخ رکھے۔

۱۹۔ جب کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ کسی قانونی عدالت کے حکم سے قرق کی جائے تو عدالت کا حکم قرق وصول کرنے والے افسر کا فرض ہے کہ وہ دیکھے کہ سرکاری ملازم کی تنخواہ سے اس حکم کی تعمیل میں مناسب ترقی کی جائے۔ صرف سرکاری ملازم کی تنخواہ قرق کی جاسکتی ہے اور کوئی الاؤنس قرق نہیں کیا جاسکتا۔ کسی ایک ماہ میں قرق کی زیادہ سے زیادہ رقم سرکاری ملازم کو تنخواہ کا پہلا سو روپیہ ادا کرنے کے بعد باقی رقم کا ۵۰ فیصد ہوگی۔ مثلاً اگر کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ ۵۰۰ روپے ہو تو پہلے سو روپے اور باقی ۵۰ فی صد یعنی ۲۰۰ روپے اپنے پاس رکھ سکے گا۔ کفالتی فنڈ کے چندہ، محصول آمدنی اور پیسگیوں کی بازیابیوں کی کٹوتی سرکاری ملازم کی تنخواہ کے ناقابل قرق حصے سے ہوگی۔ کسی حکم قرق کی تعمیل میں زیادہ سے زیادہ ۲۳ ماہ کے لیے بازیابی کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی دوسرا حکم قرق ہو تو گزشتہ حکم قرق کی آخری کٹوتی کے ۱۳ ماہ کے بعد بازیابی شروع ہونی چاہیے۔

۲۰۔ قرق کے سلسلے میں کٹوتی کا طریق کار یہ ہو گا کہ تنخواہ آفیسر الاؤنس کی پوری

رقم بل کے ذریعے نکالی جائے گی۔ حکم قرق کے تحت قابل بازیابی رقم کی کٹوتی کے بعد خالص رقم متعلقہ سرکاری ملازم کو ادا کر دی جائے گی۔ کٹوتی کرنے والا حاکم مجاز قرق شدہ تنخواہ متعلقہ عدالت کو ارسال کر دے۔ ایسے معاملات میں افسر محاسبہ عام طور پر دو حکم ادائیگی درج کرے گا۔ ایک سرکاری ملازم کو قابل ادائیگی رقم کے بارے میں اور دوسرا قرق دینے کا حکم دینے والی عدالت کے حق میں اور اس کے مطابق دو چیک جاری کیے جاتے ہیں۔ اگر قرض دار ڈگری پر جریدی سرکاری ملازم ہونے کی صورت میں اپنے قبض الوصول پر دستخط نہ کرتا ہو یا جریدی افسر ہونے کی صورت میں تنخواہ قابل پیش نہ کرے تاکہ قرق شدہ رقم کی ادائیگی سے پہلو تھی کر سکے تو سربراہ دفتر یا افسر انتظامیہ حکم قرق کی تعمیل کے لیے تنخواہ نکلا سکتے ہیں اور متعلقہ عدالت کو رقم ارسال کر سکتے ہیں۔ رقم کی ترسیل کے سلسلے میں ہونے والے مصارف کٹوتی کردہ رقم سے وصول کیے جاتے ہیں اور صرف خالص رقم ارسال کی جاتی ہے۔

۱۹۔ تنخواہ اور الاؤنسوں کی پہلی ادائیگی (قاعدہ ۲۳۰ تا ۲۳۱)

جب کوئی سرکاری ملازم تنخواہ اور الاؤنسوں کی پہلی ادائیگی کے لیے اپنا بل پیش کرے تو اس کے ساتھ باضابطہ طور پر طبی سوزونیت کا تصدیق نامہ ہونا چاہیے۔ اگرچہ نئی تقرری یا استعفا کے بعد دوبارہ ملازمت یا گزشتہ ملازمت کی منطقی ہو۔ دوسرے معاملات میں تنخواہ بل کے ساتھ دوسرے خزانہ دفتر محاسبہ کا جاری کردہ تصدیق نامہ آخری تنخواہ ہونا چاہیے جہاں سے اس نے آخری تنخواہ وصول کی ہو۔ اگر کسی ہمسفر کو دوبارہ ملازمت میں لیا گیا ہو تو اس حقیقت کا اندراج بل میں کرنا چاہیے۔ تبادلے میں آخری افسر ادائیگی سے تصدیق نامہ آخری تنخواہ حاصل کرنا خود سرکاری ملازم کی ذمہ داری ہوگی۔

۲۰۔ ملازمت چھوڑنے پر ادائیگی (قاعدہ ۲۳۲)

جب جریدی سرکاری ملازم فارغ خدمتی، استعفیٰ، برطرفی، وفات یا کسی اور وجہ

سے ملازمت چھوڑ دے یا اسے معطل کر دیا جائے تو اس کی آخری تنخواہ اور الاؤنسوں کی ادائیگی اس وقت تک نہیں کرنی چاہیے جب تک کہ متعلقہ محکمے، دفتر محاسبہ اور دفتر املاک سے تصدیق عدم مطالبہ جاری نہ کر دیا جائے تاہم فارغ خدمتی کی وجہ سے ملازمت چھوڑنے والے سرکاری ملازمین کی آخری تنخواہ اور الاؤنسوں کی ادائیگی صرف اس بات کی توثیق کے لیے نہیں رد کی جائے گی کہ اس کے خلاف کوئی مطالبہ واجب الادا نہیں ہے۔ ادائیگی کر دی جائے گی اگر سرکاری ملازم یا اس کی وفات کی صورت میں ادائیگی وصول کرنے کا مستحق شخص تحریری طور پر رضامند ہو جائے کہ اس ادائیگی کے ایک سال کے اندر علم میں آنے والے مطالبے کو واپس کرنے کا ذمہ دار ہو گا اور وہ اس کی پیشینہ سے وصول کی جاسکتی ہے۔ جو اہل کار متعلقہ افسر کی فارغ خدمتی کی تاریخ سے ایک سال کے اندر مطالبہ کی اطلاع نہیں دے گا وہ اس رقم کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار ہو گا۔

۲۱۔ وصول کنندہ کی وفات (قاعدہ ۲۳۳ تا ۲۳۴)

- ۱۔ سرکاری ملازم بلا لحاظ وفات کے وقت کے اپنی وفات کے دن تک کے لیے تنخواہ اور الاؤنسوں کا مستحق ہو گا۔ اس مقصد کے لیے ”دن“ سے مراد تقویمی دن ہے جو کہ آدھی رات کو شروع اور ختم ہوتا ہے۔
- ۲۔ مرحوم سرکاری ملازم کی تنخواہ اور الاؤنس اس کے ورثاء کو ادا کیے جاسکتے ہیں۔ اگر ادائیگی ۵۰۰ روپے سے کم ہو تو دعویداروں کے استحقاق کے بارے میں تحقیق کرنے کے بعد حاکم مجاز کی طرف سے ادائیگی ہو سکتی ہے۔ اگر رقم ۵۰۰ روپے سے زیادہ ہو تو مطلوبہ فارموں کے ساتھ تادان نامہ پر دستخط کرانے کے بعد اور دعویداروں کے استحقاق کے بارے میں مکمل اطمینان کرنے کے بعد سربراہ محکمہ کی طرف سے ادائیگی کی جاسکتی ہے۔ مگر الذکر راستہ اس وقت

اختیار کیا جائے گا جب سربراہ محکمہ کو اس بات کا یقین ہو کہ تصدیق نامہ وراثت پر اصرار کرنے سے تاخیر ہوگی جو مشکلات کا باعث ہوگی۔ ایسے تمام معاملات میں اور خاص طور پر مشکوک نوعیت کے معاملات میں ادائیگی صرف دعویداروں کو قانونی اختیار نامہ پیش کرنے پر ہونی چاہیے۔

۲۲۔ ادائیگی کی جگہ (قاعدہ ۲۳۵ تا ۲۳۶)

۱۔ تنخواہ اور الاؤنسوں کے بل اسی ضلع میں قابل ادائیگی ہیں جہاں مطالبہ وقوع پذیر ہو۔ پاکستان میں مشاہرہ رخصت وصول کرنے والے جریدی افسر کو پاکستان کے کسی خزانے سے مشاہرہ رخصت کی ادائیگی کی جاسکتی ہے لیکن کسی غیر جریدی سرکاری ملازم کو مشاہرہ رخصت کی ادائیگی اسی مقام پر ہوگی جہاں سے وہ اپنی ڈیوٹی کی تنخواہ وصول کر سکتا ہو۔ تاہم وہ اپنے مشاہرہ رخصت کی ترسیل کے لیے اپنا انتظام کر سکتا ہے۔

۲۔ جس سرکاری ملازم کو اپنے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں معائنہ وغیرہ کے لیے وسیع دورے کرنے پڑتے ہوں اسے اپنے ساتھ تصدیق نامہ آخری تنخواہ لے جانا چاہیے۔ اسی طرح وہ قریبی خزانے دفتر محاسبہ سے اپنی تنخواہ کا اتنا حصہ جتنا وہ چاہے حاصل کر سکے گا اور بتایا اپنے صدر دفتر میں حاصل کر سکتا ہے۔ اگر وہ اپنے دورے کے دوران دوسرے ناظم اعلیٰ حسابات کے حلقے سے گزرے تو اس کے تصدیق نامہ آخری تنخواہ پر دونوں کے تصدیقی دستخطوں کی ضرورت ہوگی۔ ایسی صورت میں کوئی اور پیشگی نہیں دی جاتی اور نہ ہی کوئی باضابطہ یا تسویہ ضروری ہوتا ہے۔ اسی طرح افسر مختار کے تصدیقی دستخطوں کے بعد وہ اپنا سفری الاؤنس مل وصول کر سکتا ہے لیکن اسے کوئی پیشگی سفری الاؤنس ادا نہیں کیا جاسکتا۔ اس کے ساتھ جانے والے محلے کے لیے بھی یہی طریق کار اختیار کیا جائے گا۔

۲۳۔ مختاروں کے ذریعے تنخواہ، مشاہرہ رخصت وغیرہ کی ادائیگی

(قاعدہ ۲۳۳ تا ۲۳۶)

- ۱۔ سرکاری ملازم کو اپنی تنخواہ اور الاؤنسوں یا مشاہرہ رخصت کی ادائیگی قاصد کے ذریعے وصول کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے جسے اس سلسلے میں رقوم وصول کرنے کا باقاعدہ مجاز کیا گیا ہو۔ لیکن ایسے شخص کو ادائیگی کے لیے بل پر کوئی نظیر نہیں ہونی چاہیے۔ قاصد کے حوالہ کردہ رقم یا چیک کے بارے میں حکومت کوئی ذمہ داری قبول نہیں کرتی۔ جریدی سرکاری افسر ملازمین کی صورت میں بل کسی معروف بینکار یا مختار کو ادا کیے جاسکتے ہیں بشرطیکہ اس سلسلے میں تحریری درخواست ہو۔ بینکار یا مختار کی طرف سے دی گئی رسید کو حتمی بے باقی تصور نہیں کیا جائے گا جب تک کہ بل کی باضابطہ طور پر بینکار یا مختار کے نام نظیر نہ کی گئی ہو۔ مختار کو ادائیگی صرف اسی وقت کی جائے گی جب اس کے پاس متعلقہ سرکاری ملازم کا جائز مختار نامہ موجود ہو۔ پاکستان سے باہر تربیت کے لیے جانے والے سرکاری ملازمین (جریدی یا غیر جریدی) جس کی کفالت حکومت کر رہی ہو، اپنی تنخواہ کا ایک حصہ حکومت کی مقررہ حد تک اس ملک کی کرنسی میں وصول کر سکتے ہیں جہاں انھیں تربیت کے لیے بھیجا جائے اور بقایا وہ پاکستان میں روپوں کی صورت میں وصول کریں گے۔ تاہم سرکاری ملازم (جریدی یا غیر جریدی) کی تنخواہ سربراہ دفتر وصول کر سکتا ہے اور متعلقہ سرکاری ملازم کے نامزد کو ادا کر سکتا ہے سوائے اس کے کہ سرکاری ملازم مقررہ طریق کار کے مطابق ادائیگی وصول کرنے کے لیے اپنے انتظامات کو ترجیح دے۔
- ۲۔ پاکستان کے اندر مشاہرہ رخصت طلب کرنے والے جریدی افسر کو ادائیگی کے مقام پر خود حاضر ہونا چاہیے یا کسی ذمہ دار افسر یا کسی مشہور و معترف قابل اعتماد شخص کا دستخط کردہ تصدیق نامہ زندگی پیش کرنا چاہیے۔ اگر وہ مختار کے ذریعے وصول کرے تو مندرجہ ذکور کو ایسا تصدیق نامہ پیش کرنا چاہیے۔

۲۴۔ جریدی سرکاری ملازمین (قاعدہ ۲۳۸ تا ۲۴۱)

- ۱۔ جریدی سرکاری ملازمین کے بل اگر خزانے سے وصول کیے جائیں تو فارم ٹی آر ۲۲ پر بنائے جاتے ہیں اور حساب دار اعلیٰ سے وصول کیے جائیں تو فارم ٹی آر ۱۷ پر بنائے جاتے ہیں۔ مشاہرہ رخصت، اعزازیہ اور فیس وغیرہ کے مطالبات بھی انہی فارموں پر پیش کیے جاتے ہیں۔ سفری الاؤنس کے بل فارم ٹی۔ آر۔ ۲۰ پر بنائے جاتے ہیں۔
- ۲۔ جریدی افسران کو اس وقت تک اضافہ شدہ تنخواہ، مشاہرہ رخصت مقررہ الاؤنس، انعام یا اعزازیہ وغیرہ وصول کرنے کی اجازت نہیں ہوتی جب تک ناظم حساب دار اعلیٰ اس کے لیے اختیار نامہ جاری نہ کرے۔ جب کوئی جریدی افسر خزانے سے تنخواہ وصول کرتا ہو تو وہ پیشگی تنخواہ اور سفری الاؤنس کسی اختیار نامہ کے بغیر وصول کر سکتا ہے لیکن تمام دیگر ذاتی الاؤنسوں کے لیے اختیار نامہ ضروری ہے۔

۲۵۔ غیر جریدی سرکاری ملازمین (قاعدہ ۲۴۲ تا ۲۴۳)

- ۱۔ غیر جریدی سرکاری ملازمین کے تنخواہ، مشاہرہ رخصت اور مقررہ الاؤنسوں کے بل فارم ٹی آر ۲۲ پر بنائے جاتے ہیں۔ مستقل اور عارضی عملے کے لیے الگ الگ بل ہونے چاہئیں۔ ہر آسامی کے مقابل ہر آسامی، قائم مقام یا عارضی آسامی دار کا نام درج کرنا چاہیے۔ طلب کردہ تنخواہ بھی درج ہونی چاہیے اور جب تنخواہ مہینے کے کسی حصے کے لیے وصول کی جائے تو متعلقہ سرکاری ملازم کے آگے دنوں کی تعداد درج کی جاتی ہے۔ محلے کے مختلف صیغہ جات کو الگ الگ دکھانا چاہیے۔ ہر صیغہ میں منظور شدہ آسامیوں کی تعداد سرخ روشنائی سے سب سے اوپر درج کی جائے۔ جب مشاہرہ رخصت کا بل بنایا جائے تو بل کے ساتھ ایک کیفیت نامہ ہونا چاہیے جو افسر و صولیات کا تصدیق کردہ ہو اور اس میں مشاہرہ رخصت کا حساب دیا گیا ہو۔ اگر بعض وجوہات کی بناء پر کسی آسامی دار

کے مشاہرہ رخصت کا حساب نہ لگایا جاسکے تو تنخواہ کی وہ رقم جس کا وہ مستحق ہوتا اگر وہ ڈیوٹی پر رہتا فارم کے رقم کے کالم میں درج کرنی چاہیے جو کہ مشاہرہ رخصت کے لیے ہوتا ہے اور مشاہرہ رخصت کا تعین ہونے تک وہ رقم روک لی جانی چاہیے۔

۲۔ ہر صیغہ کے تحت بل میں رقم کے کالموں کا میزان کرنا چاہیے اور میزانوں کو سرخ روشنائی سے لکھنا چاہیے۔ میزانوں کی پڑتال افسران برآری کو خود یا کسی ذمہ دار شخص کے ذریعے کرانی چاہیے جو کہ بل تیار کرنے والے کے علاوہ کوئی دوسرا شخص ہو۔

۳۔ اگر کوئی سرکاری ملازم کسی ماہ کے دوران خصوصی ڈیوٹی، معطلی، رخصت پر یا رخصت کے بغیر ماسوائے رخصت اتفاقیہ کے غیر حاضر ہو تو بل کے ساتھ فارم ٹی پی آر۔ ۳۳ میں کیفیت نامہ غیر حاضر میں ہونا چاہیے۔

۴۔ جب کسی غیر جریدی سرکاری ملازم کا اضافہ نکلویا جائے تو پہلا بل جس میں اضافہ نکلویا جائے، اس کے ساتھ فارم ٹی آر ۲۴ میں میعاد کی تصدیق نامہ منسلک ہونا چاہیے۔ ڈیوٹی کی مدت اور رخصت کے ساتھ یا بلا رخصت غیر حاضری کو تصدیق نامہ کے مناسب کالموں میں درج کرنا چاہیے۔

۵۔ زائد وقتی الاؤنس کے سلسلے میں ہر بل کے ساتھ حسب ذیل تصدیقی نامے ہونے چاہئیں۔

تصدیق کی جاتی ہے کہ:-

(الف) جن لوگوں کا زائد وقتی الاؤنس طلب کیا گیا ہے انھوں نے حقیقتاً زائد وقت کام کر کے اس کا کسب کیا ہے۔

(ب) جس مدت کے لیے زائد وقتی الاؤنس طلب کیا گیا ہے اس کی پڑتال ابتدائی ریکارڈ سے کی گئی ہے اور اسے درست پایا گیا ہے۔

(ج) زائد وقتی الاؤنس کی شرح حاکم مجاز نے منظور کی ہے اور

(د) سرکاری ملازم سے محصول آمدنی (انکم ٹیکس) کی وصولی کے سلسلے میں زائد

وقتی الاؤنس کو شمار کیا گیا ہے۔

۶۔ اگر زائد وقتی الاؤنس کی ادائیگی ٹی فریقوں سے وصول کر کے سرکاری حساب میں جمع ہونے والی فیس سے کی جائے تو افسر کو تصدیق کرنی چاہیے کہ فیس وصول ہو چکی ہے اور سرکاری حساب میں جمع ہو چکی ہے۔

۷۔ تنخواہ، الاؤنسوں اور مشاہرہ رخصت کے بقایا جات عام ماہوار تنخواہ بل میں وصول نہیں کرنے چاہئیں بلکہ علیحدہ بل میں وصول کرنے چاہئیں۔ ہر ماہ کے لیے طلب کردہ رقم کو الگ الگ درج کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہر بل کا نمبر بھی درج کرنا چاہیے جس سے مصارف رہ گئے تھے یا روک لیے گئے تھے یا کٹوتی کے ذریعے واپس کیے گئے تھے۔ بقایا جات کے بل کی دفتری نقل پر اندراج کر لینا چاہیے کہ کس مدت کے مطالبے کا تعلق ہے۔ اس پر افسر کے مختصر دستخط اور تاریخ ہونی چاہیے تاکہ دوبارہ بقایا جات کا مطالبہ کرنے کا خطرہ نہ رہے۔

۸۔ سفری الاؤنس بل بابت عملہ فارم ٹی آر۔ ۲۵ پر بنانے چاہئیں اور ان پر طبع شدہ ہدایات پر سختی سے عمل کرنا چاہیے اور اس کے مطابق تیار کرنا چاہیے۔

۹۔ سربراہ دفتر اس رقم کے لیے ذاتی طور پر ذمہ دار ہوتا ہے جو اس کے دستخطوں سے جاری کردہ بل کے ذریعے یا اس کی طرف سے نکلوائی جائے جب تک یہ مستحق اشخاص کو ادا نہ کر دی جائے اور ان سے بل کی دفتری نقل پر

قانونی بے باقی کی رسید نہ لے لی جائے۔ بڑے اداروں میں فارم ٹی آر۔ ۲۸ پر

علیحدہ فرد بے باقی پر رسید حاصل کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ فرد ہائے بے باقی اور بلوں کی دفتری نقول ناظم اعلیٰ حسابات کی خدمت میں پیش کرنے کی ضرورت

نہیں ہے لیکن اہم دستاویزات ہونے کی وجہ سے ان پر "ادا شدہ" کی سرگاہی دینی چاہیے اور انھیں قواعد میں مقررہ مدت کے لیے محفوظ رکھنا چاہیے۔

۱۰۔ اگر بعض وجوہات کی بناء پر ادائیگی مہینے کے اندر نہ ہو سکے تو وصول کنندہ کے لیے نکلوائی گئی رقم کو آئندہ بل میں کم برآمدی کر کے واپس کر دینا چاہیے۔ جب

ادائیگی کرنی مقصود ہو تو واپس کردہ رقم کو دوبارہ نکلویا جاسکتا ہے۔ تاہم اگر کسی

صورت میں افسر زر بر آری و ادائیگی یہ سمجھے کہ رقم کی واپسی زحمت طلب ہوگی تو وہ غیر ادا شدہ رقم کو زیادہ سے زیادہ تین ماہ تک رکھ سکتا ہے۔ ایسا صرف اسی صورت میں کرنا چاہیے جب رکھی گئی نقدی کی محفوظ تحویل کے لیے مناسب انتظامات موجود ہوں۔

۱۱۔ غیر ادا شدہ تنخواہ اور الاؤنسوں کو کسی صورت میں بھی خزانے بنک میں جمع نہیں کرانا چاہیے۔

۳۶۔ کمپیوٹرائزڈ فرد ہائے تنخواہ

۱۔ سرکاری ملازمین کو تنخواہ اور الاؤنسوں کی ادائیگی کفالتی فنڈ کے کھاتے ترتیب دینے اور ان سے متعلق اخراجات اور وصولیات کی دیگر شقوں کا حساب رکھنے کے لیے کمپیوٹرائزڈ فرد ہائے تنخواہ کا نظام یکم جولائی ۱۹۶۹ء سے نافذ کیا گیا۔ اس اسکیم کے مطابق بتدریج تمام وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں کی فرد ہائے تنخواہ کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا جائے گا۔

۲۔ باقاعدہ ماہانہ بلوں کی دستی تیاری اور پیش کرنے کی ضرورت کو کمپیوٹرائزڈ فرد ہائے تنخواہ کے نظام کے تحت ختم کر دیا گیا ہے۔ اس نظام میں بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۹ اور اوپر کے افسران اور بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۵ اور نیچے کا عملہ ایک جیسے سمجھے جاتے ہیں لہذا افسران اور عملے کے بارے میں ابتدائی معلومات کی اور پیداواری رپورٹوں کی عمل کاری بلا امتیاز ہوتی ہے۔

۳۔ بنیادی پیمانہ ۱۹ اور اس سے اوپر کے افسران کی ادائیگیوں اور کٹوتیوں کا تفصیلی محاسبہ دفتر کرتا ہے اور افسر زر بر آری و ادائیگی بنیادی پیمانہ ۱۵ اور اس سے نیچے کے عملے کے سلسلے میں تمام ادائیگیوں اور کٹوتیوں کا حکومت کے موجودہ قواعد اور احکام کے مطابق ذمہ دار ہوتا ہے۔

۴۔ انتظامی وزارتوں، ڈویژنوں، محکموں کے افسران زر بر آری و ادائیگی دفتری

محاسبہ کو تمام افسروں اور عملے کے بارے میں ابتدائی معلومات فراہم کرنے کے ذمہ دار ہوتے ہیں تاکہ کمپیوٹرز کی ماسٹر فائل بن سکے اور بعد میں ہر ماہ کے لیے ماسٹر فائل کو مکمل رکھا جاسکے۔ ابتدائی معلومات کی فراہمی اور نیچے کی رپورٹوں پر کارروائی کے سلسلے میں ہدایات ”سرکاری ملازمین کی کمپیوٹرائزڈ فرد ہائے تنخواہ کے محاسبہ اور حساب کاری کا نظام“ میں درج کی گئی ہیں۔ اس طریق کار کی نقل متعلقہ وزارتوں، ڈویژنوں، محکموں کو فراہم کر دی گئی ہے۔

۵۔ کمپیوٹرائزڈ فرد ہائے تنخواہ کے نظام کو چلانے والے کمپیوٹر ادارے طریق کار کے متعلق کتابچہ فراہم کرتے ہیں جن میں تفصیلی مکئیکی معلومات ابتدائی مواد پیداواری رپورٹ فہرست میں ابتدائی مواد پر کرنے۔ پیداواری رپورٹ پر عمل کاری کے بارے میں درج ہوتی ہیں۔ جس نئے محکمے کے فرد ہائے تنخواہ کو کمپیوٹرائزڈ کیا جاتا ہے اس کے عملے اور افسران کو ابتدائی تربیت دی جاتی ہے تاکہ بذریعہ کمپیوٹر تیار شدہ فرد تنخواہ کے نظام کے بارے میں علم حاصل کر سکیں۔

۶۔ افسر زر بر آری و ادائیگی کی سب سے اہم ذمہ داری اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ تمام ابتدائی معلومات صحیح طور پر فراہم کی جائیں اور تمام تبدیلیاں ”مٹا“، ”ترقیات“، ”تجزیایاں“، ”رضعت“، ”تبادلے“، ”فارغ خدمتی“ اور استحقاق اور کٹوتیوں کی شرح میں تبدیلیاں وغیرہ باقاعدگی سے کیفیت نامہ تبدیلی کے ذریعہ فراہم کی جائیں۔ اس میں کسی قسم کی تاخیر یا کوتاہی زائد ادائیگی کا باعث ہو سکتی ہے۔

۲۷۔ اتفاقی ضروریات (قاعدہ ۲۸۳ تا ۳۱۷)

اصطلاح ”اتفاقی مصارف“ یا اتفاقی ضروریات سے مراد ہے ”اتفاقی اور دیگر اخراجات جو دفتر کے طور پر کسی دفتر کے انتظام یا کسی محکمے کی مکئیکی عمل کاری کے لیے ضروری ہوتے ہیں تاہم تعمیرات، ذخائر اور اوزار و تصحیبات پر ہونے والے اخراجات اتفاقی ضروریات میں شامل نہیں ہوتے۔“

۲۸۔ مصارف کی قسم بندی (قاعدہ ۲۸۷)

۱۔ مختلف قسم کے اتفاقی مصارف عام طور پر حسب ذیل صورتوں میں تقسیم کیے جاتے ہیں:-

(i) معینہ اتفاقی ضروریات: جن کے لیے ہر سال ایک مشت رقم افرادائگی کو اخراجات کے لیے دے دی جاتی ہے اور مزید منظوری کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ان میں وہ مصارف شامل ہوتے ہیں جن کے سالانہ وقوعہ کی اوسط کا اندازہ معقول درستی کی حد تک لگایا جاسکتا ہے۔

(ii) منضبط بیانہ اتفاقی مصارف: ان میں ایسے اتفاقی مصارف شامل ہوتے ہیں جن کی ضابطہ بندی حاکم مجاز کے مقرر کردہ بیانہ کے مطابق ہوتی ہے مثلاً "جنگلی جانوروں کو تلف کرنے کے لیے انعام اور نچلے درجے کے ملازمین کو وردیوں کی فراہمی وغیرہ۔

(iii) خصوصی اتفاقی مصارف: ان میں ایسے اتفاقی مصارف شامل ہوتے ہیں جو متوالی یا غیر متوالی جو بھی ہوں حاکم مجاز کی منظوری کے بغیر نہ کیے جاسکیں۔

(iv) تصدیقی دستخط شدہ اتفاقی مصارف: ایسے اخراجات جن کے لیے افسر مختار کی منظوری ضروری ہو اس کے بعد ہی انھیں قانونی اخراجات تسلیم کیا جاسکے۔ یہ منظوری عموماً "ادائگی کے بعد تصدیقی دستخطوں کی صورت حساب اعلیٰ و تفصیلی بل پیش کر کے ہوتی ہے۔

(v) مکمل تصدیق شدہ اتفاقی مصارف: ایسے اتفاقی مصارف جن کے لیے نہ تو خصوصی منظوری کی ضرورت ہوتی ہے اور نہ تصدیقی دستخطوں کی۔ بلکہ سربراہ دفتر خود اپنے اختیار سے ان کو خرچ کر سکتا ہے۔ یہ مکمل تصدیق بلوں پر بغیر تصدیقی دستخطوں کے منظور کیے جاتے ہیں۔

۲۔ اتفاقی ضروریات کی مندرجہ بالا اقسام ضروری نہیں کہ مکمل ہوں۔ ایسے معاملات بھی ہوتے ہیں جن میں خصوصی اتفاقی ضروریات کی ضابطہ بندی ضروریات کے ذریعے

ہوتی ہے یا منضبط بیانہ اتفاقی ضروریات کے لیے تصدیقی دستخطوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس نوعیت کے معاملے میں دونوں قسم کے قواعد کا اطلاق ہو گا۔

۲۹۔ عمومی حدود (قاعدہ ۲۸۸ تا ۲۹۳)

۱۔ جن افسران کو رقوم حاصل ہونے سے قبل اتفاقی مصارف کے سلسلے میں ادائگیوں کرنی پڑتی ہوں وہ ایسی ادائگیوں مستقل پیشگی سے کر سکتے ہیں اور ان کو حسب معمول بعد میں پورا کر سکتے ہیں۔ ہونے والے اخراجات کو فوری طور پر نکلوانا اور ادا کرنا چاہیے۔ کسی مطالبے کو آئندہ سال کی رقوم سے ادا کرنے کے لیے ملتوی رکھنا بڑی بے قاعدگی ہے۔ رقوم صرف اسی وقت نکلوانی چاہئیں جب انھیں فوری طور پر ادا کرنے کی ضرورت ہو۔ مطالبات کی توقع میں رقوم نکلوانا اور میزانیہ گرانٹ کو ختم ہونے سے بچانے کے لیے رقم نکلوانا سختی سے منع ہے۔ دو یا زیادہ بڑی مدت سے متعلق مصارف کو ایک بل میں طلب نہیں کرنا چاہیے۔

۲۔ کسی قسم کی تنخواہ مصارف کے بل پر وصول نہیں کرنی چاہیے لیکن بنیادی بیانہ کے درج ذیل قسموں کے سرکاری ملازمین جو حاکم مجاز کی طرف سے پنشن کے مستحق تصور نہ کیے گئے ہوں ان کی تنخواہ اتفاقی مصارف تصور کی جاسکتی ہے۔

(i) موسم گرما کا عملہ

(ii) روزانہ اجرت پر لگائے گئے قلی جن کو روزانہ یا ماہوار ادائگی ہوتی ہو

(iii) خاکروب

(iv) بنیادی بیانہ ایک کے دیگر سرکاری ملازمین مثلاً "دھوبی، درزی، فراش

وغیرہ۔

۳۔ قلیوں کی مزدوری کے بلوں کے ساتھ اس امر کا تصدیق نامہ ہونا چاہیے کہ ان کو حقیقتاً لگایا گیا اور ادائگی کی گئی تھی۔ بنیادی بیانہ ایک کے دیگر سرکاری

ملازمین کے بارے میں افسر ادائیگی کو تصدیق کرنی چاہیے کہ بنیادی بیانہ ایک کے تمام ملازمین جن کی تنخواہ اس بل میں طلب کی گئی ہے حقیقتاً اس مدت کے دوران سرکاری ملازمت میں تھے۔

۳۰۔ افسر وصولیات کی ذمہ داری (قاعدہ ۲۹۵)

ہر سرکاری افسر سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ اتفاقی مصارف کے سلسلے میں اتنی ہی نگرانی اور ہوشیاری سے کام لے گا جتنا کہ ایک عام سمجھ دار آدمی اپنی رقوم کے بارے میں کرتا ہے۔ افسر ادائیگی کو دیکھنا چاہیے کہ اتفاقی مصارف کے بلوں کی تیاری کے قواعد پر عمل کیا جاتا ہے اور صرف وہی رقوم نکلائی جاتی ہے جو فوری طور پر ادائیگی کے لیے درکار ہوتی ہے یا پہلے ہی مستقل پیشگی سے ادا کی جا چکی ہوتی ہے۔ اسے یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اخراجات منظور شدہ میزانیہ گرانٹ کی حدود کے اندر ہیں اور اگر اخراجات زائد ہو جائیں یا زائد ہونے والے ہوں تو اسے اضافی حد بندی کے لیے فوری کارروائی کرنی چاہیے۔ معینہ اتفاقی مصارف کے بارے میں اسے دیکھنا چاہیے کہ اخراجات معینہ گرانٹ سے زائد نہ ہوں۔

۳۱۔ افسر مختار کی ذمہ داری (قاعدہ ۲۹۶)

افسر مختار کو دیکھنا چاہیے کہ اخراجات کی صریح ضرورت تھی، نرخ معقول تھے۔ مطلوبہ منظوری لے لی گئی تھی۔ حساب کتاب صحیح تھا اور اخراجات مد بندی کی حدود کے اندر تھے۔ اگر وہ محسوس کرے کہ اخراجات زیادہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں تو اسے چاہیے کہ افسر زرر آری کو اس حقیقت سے آگاہ کر دے اور ان سے روکنے پر رو کر دے۔

۳۲۔ واؤچروں کی تفتیش اور تظنی (قاعدہ ۲۹۷)

ذیلی واؤچروں کو تین سال سے قبل تفتیش نہیں کرنا چاہیے۔ اگر مقامی محاسب نہ

کیا گیا ہو تو ان کو تین سال سے زیادہ بھی رکھا جا سکتا ہے تاکہ محاسبہ ان کی پڑتال کر سکے۔ جو واؤچر ناظم اعلیٰ حسابات یا افسر مختار کو پیش کرنے مطلوب نہ ہوں انھیں ریڈ کی مر کے ذریعے یا سرخ روشنائی سے واؤچر بر آری نظیر کے ذریعے منسوخ کر دنا چاہیے۔ تفتیش پر افسر زرر آری کے مختصر دستخط ہونے چاہئیں۔ تفتیش اتفاقی مصارف کے بل پر دستخط کرتے وقت ہونی چاہیے جس میں یہ واؤچر یا ذیلی واؤچر شامل ہوں جو واؤچر افسر مختار کو پیش کیے جائیں اور اس کی طرف سے پیش کرنا مطلوب نہ ہوں۔ انھیں افسر وصولیاتی مناسب مختصر دستخط سے منسوخ کر دے۔ حسابدار اعلیٰ پیش ہوں ان میں افسر زرر آری یا افسر مختار کو تصدیق کرنا چاہیے کہ جو واؤچر انھوں نے رکھ لیے تھے وہ وہ منسوخ کر دیے گئے ہیں۔ جو واؤچر ذیلی واؤچر حسابدار اعلیٰ کو پیش کرنے مطلوب ہوں انھیں منسوخ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کو منسوخ کرنے کا فرض ان کے فریب کارانہ استعمال سے بچانے کا فرض اس پر عائد ہوتا ہے۔

۳۳۔ اتفاقی اخراجات کا اندراج (قاعدہ ۲۹۸ تا ۳۰۱)

فارم ٹی آر ۲۹۸ کی صورت میں اتفاقی اخراجات کا رجسٹر رکھنا چاہیے۔ تفصیلی مدات اور ذیلی مدات کے بارے میں مختلف کالموں میں مخصوص ٹکٹوں کی ضرورت کے مطابق ضروری تبدیلی کرنی چاہیے۔ مدندی کا اندراج ہر کالم کے اوپر کرنا چاہیے۔ ہر ادائیگی کے ہوتے ہی اتفاقی مصارف کے رجسٹر میں تاریخ ادائیگی، وصول کنندہ کا نام، ذیلی واؤچر اور ادا شدہ رقم کا اندراج کرنا چاہیے۔ ہر اندراج پر اخراجات کرنے والے افسر کے مختصر دستخط ہونے چاہئیں۔ اخراجات کی رفتار کی نگرانی کرنے کے لیے افسر ادائیگی کے لیے ضروری ہے کہ ہر تفصیلی مد کے تحت ماہوار میزان کے ساتھ متزائد میزان بھی کرے جو کہ سال کے آغاز سے گزرے ماہ کے آخر تک ہونا چاہیے۔

۳۲۔ اتفاقی اخراجات کے بل (قاعدہ ۳۰۸ تا ۳۱۳)

۱۔ جب بھی مستقل پیشگی کو پورا کرنے یا چارج کی منتقلی کے وقت یا بہر صورت مینے کے آخر میں اتفاقی مصارف کے لیے رقم نکلوانے کی ضرورت ہو تو رجسٹر کے صفحے پر سرخ روشنائی سے آزی لکیر لگا دینی چاہیے، مختلف کالموں کا اضافہ کرنا چاہیے اور ہر قسم کے اتفاقی مصارف کے علیحدہ بل تیار کرنے چاہئیں۔ بلوں، واؤچروں اور ذیلی واؤچروں کے اندراجات کا موازنہ احتیاط سے اتفاقی مصارف کے رجسٹر کے اندراجات سے کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہی بل پر دستخط کر کے ادائیگی کے لیے پیش کرنا چاہیے۔ فراہم کنندگان کے بل کے معاملے میں جو خطوط کی رقم بہت بڑی ہو اور مستقل پیشگی سے ادا نہ ہو سکتے ہوں ان پر متعلقہ فریقوں کو براہ راست ادائیگی کے لیے تسلیم کرنی چاہیے۔ جب کسی ممبر کو انعام دینا مقصود ہو یا دوسرے معاملات میں کسی وجہ سے وصول کنندگان کے نام ظاہر نہ کیے جاسکتے ہوں تو افسر زر آری و ادائیگی کو اس امر کا تصدیق نامہ اپنے قلم سے تحریر کرنا چاہیے کہ ادائیگی باقاعدہ کی جا چکی ہے اور یہ تصدیق نامہ وصول کنندہ کی رسید کے بدلے حساب دار اعلیٰ کو پیش کیا جائے گا۔

۲۔ معینہ اتفاقی مصارف کے بل فارم ٹی آر ۳۰ پر بنائے جائیں۔ مکمل تصدیق شدہ اتفاقی مصارف کے بل بھی ان ہی فارموں پر بنائے جائیں اور ان میں مصارف کی مکمل تفصیل درج کرنی چاہیے۔ منضبط بیانہ اتفاقی اخراجات اور خصوصی اتفاقی اخراجات کے بل فارم ٹی آر ۳۱ پر بنائے جائیں۔ خصوصی اتفاقی اخراجات کے سلسلے میں مراسلہ منظوری کا نمبر وار تاریخ ہمیشہ درج کرنی چاہیے جہاں منظوری یک مہنت رقم کے لیے دی گئی ہو اور خصوصی منظوری کو ایک ماہ سے زیادہ جاری رہنا ہو تو دوسرے مہینے اور بعد کے مہینوں کے بلوں پر اس امر کی یادداشت ہونی چاہیے کہ خصوصی منظوری کے تحت کتنی رقم آج کی تاریخ تک خرچ ہو چکی ہے۔

۳۔ سوائے ان معاملات کے جہاں پیشگی تصدیقی دستخطوں کی ضرورت ہو، تصدیقی

اتفاقی مصارف کے تحت مختص فارم ٹی آر ۳۱ پر بنائے جائیں۔ یہ اس شرط کے تحت ہو گا کہ تفصیلی بل افسر مختار اور حساب دار اعلیٰ کو مناسب وقت پر پیش کیا جائے گا۔ اس امر کا تصدیق نامہ بھی بل پر ہونا چاہیے کہ گذشتہ مختص بل سے متعلق تفصیلی بل افسر مختار کو پیش کیا جا چکا ہے۔ دس تاریخ کے بعد کوئی مختص بل اس تصدیق نامہ کے بغیر منظور نہیں کرنا چاہیے۔ تفصیلی بل فارم ٹی آر ۳۲ پر تیار کرنا چاہیے۔ جس پر ”خزانے سے ناقابل ادائیگی“ لکھا ہونا چاہیے اور ہر کام کا میزان اور خرچ کی تفصیل کے ساتھ دکھانی چاہیے۔ ذیلی واؤچروں کے نمبر اور تاریخ اور خلاصہ بلوں کے نمبر اور تاریخ درج کرنے چاہئیں۔ ماہ کے دوران وصول ہونے والے تمام خلاصہ بلوں کی رقم کو تبدیلی بل کی رقم کے ساتھ ملانا چاہیے۔ اگر کوئی فرق ہو تو اس کی مناسب وضاحت کرنی چاہیے۔ بل پر سربراہ دفتر کو دستخط کرنے چاہئیں اور اس کے بعد افسر مختار کو ارسال کرنا چاہیے جو کہ ذیلی واؤچروں کا جائزہ لے گا۔

۴۔ پوری طرح اطمینان کرنے کے بعد وہ بل حساب دار اعلیٰ کو محاسبہ کے لیے ارسال کرے گا۔ کسی نامظوری کے احکام سربراہ دفتر کو ارسال کیے جائیں گے اور اگلے بل سے کم وصول کر کے ان کی واپسی ہوگی۔

۳۵۔ سرکاری ڈاک نکلیں (قاعدہ ۳۱۷)

۱۔ سرکاری ڈاک ٹکٹ حاصل کرنے اور ان کی قیمت کے تسویہ کے لیے فارم ٹی آر ۳۴ بنانا چاہیے۔ اس میں طلب کردہ ٹکٹوں کے لیے افسر وصولیاتی کی رسید بھی ہونی چاہیے۔ بل کو نقدی کی وصولی کی طرح تصور کیا جائے گا۔ بل کو بذریعہ انتقال ادائیگی کے لیے حساب دار اعلیٰ کی طرف سے منظور کیا جائے گا۔ تب اسے خزانے میں پیش کرنا چاہیے جہاں نکلیں جاری کر دی جائیں گی اور رقم کو فہرست ادائیگی میں درج کر لیا جائے گا اور ٹکٹوں کی قیمت کو نقدی تصور کیا جائے گا۔

۲۔ جو دفاتر چیک کے ذریعے رقم نکلاتے ہیں۔ ٹکٹ خریدنے کے لیے ٹکٹ فراہم کرنے والے افسر کے نام چیک لکھے جائیں گے۔ چیک کو چالان کے ساتھ بک دولت پاکستان میں جمع کرنا چاہیے اور چالان کی اصل نقل متعلقہ افسر کے حوالے کرنی چاہیے جو مطلوبہ گلیں جاری کرے گا۔

عمومی مالیاتی قواعد

۱۔ تمہید

عمومی مالیاتی قواعد کی تالیف کی جلد اول و دوم میں جو قواعد درج ہیں وہ دراصل انتظامی احکام ہیں جو صدر پاکستان نے جاری کیے ہیں اور جس میں وہ طریق کار اپنایا گیا ہے جو سرکاری رقوم کو حاصل کرنے اور خرچ کرنے کے بارے میں اختیار کرنا چاہیے۔ مختلف افسران مجاز کو جو فرائض سونپے گئے ہیں یہ ان کو پورا کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اس میں ان مالی اختیارات کا بھی ذکر کیا گیا ہے جو مرکزی حکومت کے ماتحت افسران کو تفویض کیے گئے ہیں۔ ان قواعد پر محکموں کے تمام افسران مجاز کو عمل کرنا چاہیے۔ ان قواعد میں ترمیم بھی کی جاسکتی ہے لیکن ان مخصوص حالات کے تحت جو چند محکموں میں موجود ہوں۔

۲۔ رقوم کی وصولی سے متعلق عمومی اصول

۱۔ مالیات کے سلسلے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ تمام مالی لین دین جس سے ایک سرکاری ملازم اپنی ذاتی حیثیت سے متعلق ہو اسے بغیر کسی تاخیر کے حساب کتاب

میں لے آنا چاہیے۔ حکومت کا وہ تمام روپیہ جو وصول ہو یا جو سرکاری نگرانی میں ہوتا ہو، اسے سرکاری حساب میں بینک یا خزانہ میں جمع کروا دینا چاہیے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی سرکاری حیثیت میں کوئی رقم وصول کرے جو سرکاری رقوم نہ ہوں یا اسے سرکار نے اختیار نہ دیا ہو تو ایسی رقوم کو سرکاری حساب سے الگ رکھنا چاہیے اور یہ رقم بینک دولت پاکستان کی کسی شاخ یا نیشنل بینک پاکستان یا سیونگ بینک ڈاکھانہ جات میں یا کسی اور بینک میں سرکاری منظوری لے کر الگ حساب کھول کر جمع کروا دینا چاہیے۔ متعلقہ افسر ذاتی طور پر اس بات کا ذمہ دار ہو گا کہ وہ یہ دیکھے کہ وہ رقم ان ضوابط کے عین مطابق ہے جو ایسے فنڈ کے سلسلے میں بنائے گئے ہیں۔ تمام لین دین کا مناسب حساب کتاب رکھا جائے اور یہ حساب مناسب محاسبہ کی جانچ پڑتال سے مشروط ہو گا اور یہ رقم متعلقہ ضوابط کے تحت خرچ کی جائے گی۔

۲۔ جہاں تک محاصل اور دیگر سرکاری وصولیوں کا تعلق ہے تو یہ متعلقہ افسروں کا اولین فرض ہے کہ سرکاری واجبات کی فوری اور درست طریقے سے تشخیص کی جائے اور فوری طور پر انھیں وصول کیا جائے اور انھیں فوراً ہی سرکاری خزانے میں جمع کروا دیا جائے۔

۳۔ سرکاری حساب سے رقوم نکلوانا

کوئی بھی افسر مجاز اس وقت تک کسی طرح کا خرچ نہیں کر سکتا نہ ہی کوئی ذمہ داری قبول کر سکتا ہے جو سرکاری حساب کے خرچ کرنے سے متعلق ہو۔ جب تک کہ یہ خرچ صدر کے عمومی یا خصوصی حکم سے یا کسی اور حاکم مجاز سے جس کو یہ اختیارات تفویض کیے گئے ہوں، منظور نہ ہوا ہو۔ مزید برآں مجوزہ اخراجات کی اس منظور شدہ امداد میں جو اس سال کے لیے مختص کی گئی ہو گنجائش رکھی گئی

۴۔ مالیاتی موزونیت کا معیار

ہر افسر جسے سرکاری فنڈ سے اخراجات کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، اسے مالی موزونیت کا اعلیٰ معیار اختیار کرنا ہو گا۔ ان میں چند یہ ہیں:

(۱) ہر سرکاری ملازم کو سرکاری رقم سے اخراجات کرتے وقت اسی طرح خیال رکھنا ہو گا جیسے کہ ایک عام سمجھدار آدمی اپنے ذاتی روپے کو خرچ کرتے وقت خیال رکھتا ہے۔

(۲) ہادی النظر میں خرچ موقع کے تقاضا سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔

(۳) کسی افسر مجاز کو ایسا حکم جاری نہیں کرنا چاہیے جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کے ذاتی مفاد میں ہو۔

(۴) سرکاری رقم کو کسی خاص شخص یا معاشرے کے کسی خاص طبقے کے فائدے کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے جب تک کہ:

(الف) لازمی خرچ بہت ہی قلیل ہو۔

(ب) رقم کے لیے دعویٰ عدالت سے نافذ کیا جاسکتا ہو۔

(ج) وہ خرچ کسی تسلیم شدہ پالیسی یا رسم کی بجا آوری کے لیے ہے اور

(د) الاؤنسوں کی رقم کو اسی طرح سے منضبط کیا جائے کہ وصول کرنے والے کے لیے منفعہ کا ذریعہ نہ بن جائے۔

۵۔ اخراجات پر نگرانی

۱۔ محکموں کے تمام سربراہ اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ مالی حکم کو نافذ کریں اور ہر قدم پر کفایت سے کام لیں۔ انھیں اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ تمام مالی قواعد پر سختی سے عمل درآمد ہو۔

۲۔ افسر مختار کا یہی فرض نہیں کہ وہ یہ دیکھے کہ مجموعی اخراجات مختص رقم کی حد کے اندر اندر کیسے گئے ہیں بلکہ وہ یہ بھی دیکھے کہ رقوم سرکاری مفاد کے لیے اور صرف ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے استعمال کی گئی ہیں جن کے لیے وہ فراہم

کی گئی تھیں۔ مناسب نگرانی کو رو بہ عمل لانے کے لیے اس بات سے باخبر رہنا چاہیے کہ مختص رقم میں سے اصل میں کیا خرچ کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں کیا وعدے اور ذمہ داریاں پوری ہو چکی ہیں یا آئندہ پیش آئیں گی۔ ان فرائض سے بیکدوش ہونے کے لیے اسے اور مجلس حسابات عامہ کے سامنے تمام ذمہ داریاں قبول کرنی ہوں گی۔ اسے زائد اخراجات کو حق بجانب ثابت کرنا ہو گا اور جو بھی مالی بے ضابطگیوں ہوئی ہیں اور جن کی محاسبہ یا کسی اور نے نشاندہی کی ہے ان کی وضاحت کرنا ہو گی۔

۳۔ خود کو مناسب مالی نگرانی کرنے کے قابل بنانے کے لیے نگرانی پر مامور افسر مختار کو چاہیے کہ وہ اندرونی پڑتال کا طریقہ کار وضع کرے تاکہ تمام بے ضابطگیوں اور غلطیوں سے بچا جاسکے اور انھیں پکڑا جاسکے۔ سرکاری رقوم اور سامان (سٹور) کو نقصان اور ضائع ہونے سے بچانے کے لیے مناسب تحفظ ہو سکے۔

۶۔ بے ضابطگیوں، ضیاع اور دھوکہ دہی کے خلاف اندرونی پڑتال

۱۔ مختص رقم یا مختص رقوم کے کسی حصے کے سلسلے میں جو اس کے اختیار میں دی گئی ہو، کے انتظام کے سلسلے میں حتیٰ ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے ہر افسر مختار کو نہ صرف یہ اطمینان کرنا ہو گا کہ محکمہ تنظیم میں باقاعدہ اندرونی پڑتال کے لیے نہ صرف ایسی گنجائشیں موجود ہیں جن سے مالی امور میں غلطیوں اور بے ضابطگیوں کو جو ماتحت افسروں سے سرزد ہوں، پکڑا جاسکے بلکہ سرکاری رقوم اور سامان کو ضائع ہونے اور نقصان پہنچانے سے بچایا جاسکے اور یہ کہ مجوزہ پڑتال کے طریقوں پر مؤثر عمل درآمد بھی کیا جاسکے۔

اس مقصد کے لیے ہر محکمے کا سربراہ اپنے دفتر کے حسابات اور اپنے ماتحت افسران ادائیگی کے حسابات کو اور ہر مالی سال میں کم از کم ایک بار کسی افسر اعلیٰ سے جو حسابات کے معاملوں سے متعلق نہ ہو، پڑتال کرائے گا۔ یہ دیکھنے کے لیے

کہ آیا:

(۱) نقد رقوم کے استعمال اور طویل سے متعلق جو قواعد موجود ہیں انھیں پوری طرح سمجھا جانا اور ان پر عمل کیا جانا چاہیے۔

(۲) اندرونی پڑتال کے لیے مؤثر طریقہ موجود ہے تاکہ مختلف مالی لین دین بشمول سامان کی وصولی اور اجراء وغیرہ میں ضابطگی اور موزونیت حاصل کی جاسکے اور حساب کتاب کی صحت کا خیال رکھا جاسکے۔

(۳) حساب کتاب کے کھاتوں اور ابتدائی حسابات سے متعلق دیگر ضمنی یا ذیلی دستاویزات کو باقاعدگی اور معقول طریقے سے رکھنے کے لیے تسلی بخش انتظامات موجود ہیں۔

۲۔ ان پڑتالوں کے نتیجوں کو پڑتال رپورٹ فارم میں اندراج کرنا چاہیے اور اس کی ایک نقل محاسبہ کو بھیجینی چاہیے۔ محکمہ کے سربراہ کو رپورٹ کی چھان بین کے بعد اس سلسلے میں اپنی رائے اور اگر کوئی احکام جاری کرنے ہوں تو ان کی نقول (محکمہ) محاسبہ کو بھیجینی چاہئیں۔

۱۱۔ "افسر اعلیٰ" سے مراد وہ افسر ہے جو حسابات کی جانچ پڑتال کرے اور اسے اس افسر سے عہدے میں بلا ہونا چاہیے جو حسابات رکھتا ہے یا تیار کرتا ہے۔ یہ پوری طرح افسر مجاز کی صوابدید پر ہے کہ وہ حسابات کی جانچ پڑتال کے لیے ایسا افسر مقرر کرے جو اسے حسابات اور دستاویزات وغیرہ کے بارے میں جو صورت حال ہے، اس کی آزادانہ رپورٹ دے۔ بایں شرط کہ اس پر بعد میں تبصرہ کیا جاسکے اس معاملے میں افسر مجاز کو اپنی صوابدید کو استعمال کرتے وقت بلاشبہ اس بات کا یقین کر لینا چاہیے کہ مجوزہ جانچ پڑتال بنیادی بنیادہ تھوڑا۔ ۷ یا اس سے اوپر کے اعلیٰ افسر کو سونپی جائے۔ جسے مالی قواعد اور احکام کے بارے میں وسیع معلومات ہوں اور وہ یہ جانچ پڑتال تسلی بخش طریقے پر سرانجام دے سکے۔

۳۔ ایسی غیر متنازعہ رقم جو حکومت پر واجب ہو اس کی ادائیگی میں کوئی تاخیر نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ تمام قواعد اور بجٹ کے اصولوں کے خلاف ہے۔

۴۔ ہر افسر مختار سرکاری رقوم کے سلسلے میں اس کی درستی اور تکمیل کا ذمہ دار ہے۔ ہر وہ افسر جو تصدیق نامے پر دستخط یا تصدیق و دستخط کرتا ہے وہ ذاتی طور پر ان حقائق کا ذمہ دار ہوتا ہے جن کی اس نے تصدیق کی ہے۔

۵۔ تمام محکموں کو چاہیے کہ وہ ناظم اعلیٰ حسابات کو تمام مناسب سولتیں اس کے فرائض کی ادائیگی کے سلسلے میں فراہم کریں۔ اسے یعنی ناظم اعلیٰ حسابات کو جہاں تک بھی ممکن ہو وہ حسابات یا رپورٹ کی تیاری جو اس کے فرض میں شامل ہے، طلب کرے، بھیجے جائیں۔ محاسب اعلیٰ کو جس اطلاع یا کتاب کے دیکھنے کے ضرورت ہو اور جو اس کا قانونی حق ہے وہ اسے مہیا کرنے سے انکار نہ کیا جائے۔

۶۔ معاہدے کے لیے عمومی اصول

صرف وہی افسران معاہدہ کر سکتے ہیں جنہیں یہ اختیار صدر نے دیا ہو یا صدر کے احکام کے تحت دیا گیا ہو۔ تمام افسران مجاز کو مندرجہ ذیل اصولوں پر ایسے معاہدے کرتے وقت جو سرکاری حسابات سے اخراجات کے سلسلے میں ہو، عمل درآمد کرنا چاہیے۔

(۱) معاہدے کی تمام شرائط مختصر اور واضح ہونی چاہیں تاکہ کسی طرح کا ابہام نہ رہے یا اس کی غلط تعبیر نہ ہو سکے۔

(۲) اس سے پیشتر کہ معاہدہ کو آخری شکل دی جائے جہاں بھی ضروری ہو، قانونی اور مالیاتی مشورہ کر لیا جائے۔

(۳) معاہدے کے لیے معیاری فارم جہاں بھی ممکن ہو اختیار کیے جائیں اور اس کی تمام شرائط پیشگی چھان بین سے مشروط ہوں گی۔

(۴) معاہدہ جب ایک بار ہو جائے تو اس کی شرائط بھی افسران مجاز کی پیشگی منظوری کے بغیر کسی طرح تبدیلی نہیں کرنی چاہیے۔

(۵) کوئی بھی غیر یقینی یا غیر معین ذمہ داری یا معمول کے خلاف کوئی شرط یا

وزارت خزانہ کی پیشگی اجازت کے بغیر معاہدہ میں نہیں شامل کرنی چاہیے۔
(vi) جہاں تک بھی قابل عمل اور سود مند ہو، معاہدے ہمیشہ صرف ٹینڈر حاصل کر کے کیے جائیں۔ اگر کم رقم کا ٹینڈر منظور نہ ہو تو اس کی وجوہات کو تحریر میں لایا جائے۔

(vii) ٹینڈر کا منظوری کے لیے چناؤ کرتے وقت بولی دینے والوں کی حیثیت کو زیر غور لانا ضروری ہے۔

(viii) ایسے معاملوں میں جہاں سرکاری جائیداد ٹھیکیدار کے سپرد کی جائے تو معاہدے میں اس کی حفاظت کے لیے گنجائش ضرور رکھی جائے۔

(ix) جب کسی معاہدے کی مدت ۵ سال سے زائد ہو تو اس میں یہ گنجائش رکھنی چاہیے کہ حکومت بغیر کسی شرط کے اسے مسترد اور منسوخ کر سکتی ہے البتہ اس سلسلے میں چھ مہینے کے نوٹس کی مہل ختم ہونے کے بعد ایسا ہونا چاہیے۔

۸۔ غبن اور نقصانات

۱۔ سرکاری رقوم، ٹھکانہ حاصل، ٹکٹ اور سامان وغیرہ کے نقصانات خواہ وہ غبن یا خیانت وغیرہ سے کسی اور وجہ سے ہوئے ہوں، متعلقہ افسر کو ان کے بارے میں فوری طور پر اپنے اعلیٰ افسروں اور حساب دار اعلیٰ کو رپورٹ کرنی چاہیے خواہ اس فریق نے جو نقصان کا ذمہ دار تھا، حساب دار اعلیٰ اسے پورا ہی کر دیا اس رپورٹ کو روکنا نہیں چاہیے جبکہ مفصل چھان بین ہو رہی ہو۔

۲۔ مکمل تفتیش کے بعد ایک اور رپورٹ بھیجی جائے جس میں نقصان کی نوعیت اور وسعت، غلطیاں اور قواعد سے غفلت جس کی وجہ سے نقصان ہوا اور اس نقصان کی بازیابی کے امکان وغیرہ پر پوری طرح سے روشنی ڈالی جائے۔ محکمے کا افسر جو مندرجہ بالا رپورٹ وصول کرے، اسے چاہیے کہ وہ حکومت کو ایک مفصل رپورٹ پیش کرے جس میں ان وجوہات اور حالات کا جس کی وجہ سے نقصان ہوا، ان اقدام کا جو اس کے نقصانات کو روکنے کے لیے کیے گئے ہوں

وضع کرنا چاہیے اور وزارت خزانہ کو محاصل کے جمع کرنے کی رفتار سے پوری طرح آگاہ کرتے رہنا چاہیے۔ بجٹ کے تخمینے کے مقابلے میں اگر کوئی کمی بیشی ہو تو اسے بھی ان کے علم میں لانا چاہیے۔

۱۰۔ منظوری کے اختیارات

۱۔ تمام سرکاری مالی کارروائیوں کی ذمہ داری اور تمام انتظامی اختیارات کا انحصار صدر پر ہے۔ جن کی منظوری براہ راست یا ان افراد کے ذریعے جنہیں ضروری اختیارات تفویض کیے گئے ہوں، ان تمام اخراجات کے سلسلے میں دینا ضروری ہیں جو عمومی محاصل سے کیے جائیں۔ ماتحتوں، محکموں کے سربراہوں اور سفرا وغیرہ کو مالی اختیارات تفویض کرنے سے متعلق عمومی احکام عمومی مالی قواعد کی تالیف کی جلد II ضمیمہ ۷ - ۳ (الف) - ۳ اور ۵ میں درج ہیں۔ مزید اختیارات کی تفویض وقتاً فوقتاً ہوتی رہتی ہے۔ آخری اختیارات کی تفویض وزارت خزانہ کی دفتری یادداشت نمبر ایف ۱ (۵) آر۔ ۸۰ مورخہ ۱۱-۳-۱۹۸۱ء کے تحت (وقتاً فوقتاً) ترمیم کے ساتھ) کی گئی تھی۔

۲۔ افسر مجاز ایسے سامان کی مائیت جو ناقابل وصول ہو یا سرکاری رقوم جو فریب یا دھوکا دہی سے انفرادی غفلت سے یا دوسری وجوہات سے ضائع ہو چکی ہیں، انہیں قلم زد کرنے کی منظوری دے سکتا ہے۔ البتہ یہ اس شرط کے ساتھ ہے کہ نقصان نظام میں کوئی خرابی ظاہر نہ کرے جس کی ترمیم کے لیے اعلیٰ افسر مجاز کے احکام کی ضرورت ہو۔ جس کے لیے اعلیٰ افسر مجاز کی منظوری سے، انضباطی کارروائی کرنے کی ضرورت پڑے۔ اسی طرح افسر مجاز اس رقم کی بازیابی کو جسے افسر محاسبہ نے نامنظور کیا ہو یا وہ رقم جو کسی سرکاری ملازم کو زیادہ ادا کر دی گئی ہو، معاف کر سکتا ہے بشرطیکہ:

(۱) وہ رقم جو نامنظور کی گئی ہو، سرکاری ملازم نے نیک نیتی سے وصول کی تھی (یعنی اس کا وہ حقدار تھا)

اور تصور واروں کے خلاف انضباطی کارروائی کی گئی ہوں، اس کا ذکر ہو۔

۲۔ ہر سرکاری افسر کو یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ وہ سرکاری نقصان کا جو دھوکا دہی سے یا اس کی غفلت کی وجہ سے یا کسی دوسرے افسر کی وجہ سے، اس حد تک کہ جتنا ثابت ہو جائے کہ اس کی غفلت یا اس کے عمل سے ہوا، ذاتی طور پر ذمہ دار ہو گا۔

۳۔ سرکاری غیر منقولہ جائیداد کو جو شدید نقصان، سیلاب، آگ یا زلزلے وغیرہ سے پہنچے، اس کے بارے میں اعلیٰ افسروں کو فوراً ہی مطلع کر دینا چاہیے کہ کتنا نقصان ہوا اور اس کی کیا وجوہات تھیں۔ یہ سب اس رپورٹ میں پوری طرح سے واضح کیا جائے اور ان کی نقل حساب دار اعلیٰ کو بھی روانہ کی جائے۔

۹۔ محاصل اور وصولیاں

۱۔ محکموں کے افسران مختار کو چاہیے کہ وہ یہ دیکھیں کہ وہ تمام رقوم جو حکومت کو ادا کرنی ہیں یا واجبات ہیں وہ باقاعدگی اور فوری طور پر تشخیص کی جائیں، یا وصول کی جائیں اور باقاعدہ انہیں سرکاری حساب میں جمع کروایا جائے۔ انہیں چاہیے کہ اپنے ماتحتوں سے ماہانہ حسابات کے گوشوارے اور رسیدیں حاصل کریں اور انہیں ان کے ساتھ ملائیں جو خزانے حساب دار اعلیٰ کی معرفت موصول ہوئی ہیں۔

۲۔ اس سلسلے میں اگر کوئی غلطی یا فرق وغیرہ ان کے علم آئے تو وہ اس کے بارے میں فوراً مطلع کریں اور اسے درست کریں۔ کوئی بھی رقم جو سرکار کو واجب الادا ہو، اسے مستحق وجوہات کے بغیر غیر ادا شدہ نہیں رہنے دینا چاہیے اور جہاں واجبات ایسے ہوں کہ ان کی وصولی کا کوئی چارہ نہ رہے تو پھر انہیں قلم زد کرنے کے لیے مناسب کارروائی تجویز کرنی چاہیے۔ کوئی بھی رقم محاصل "معلقہ" میں خرچ کے ساتھ جمع نہ کی جائے۔

۳۔ محاصل کی تشخیص، تفصیل اور ترسیل وغیرہ کے لیے مفصل قواعد و طریق کار

(i) بازیابی کا نفاذ عملی طور پر ناممکن ہو یا اس سے متعلقہ سرکاری ملازم کو نامناسب سختی کا سامنا کرنے کا امکان ہو۔

(ii) سرکاری ملازم کی سالانہ تنخواہ ۱۲ ہزار روپے سے زائد نہ ہوتی ہو اور

(iv) زائد ادائیگی اس کی ترقی یا تنزیل کی اطلاع کرنے میں تاخیر کی وجہ سے نہ ہوگی ہو۔

۳۔ تمام منظوریوں جو بازیابی کو معاف کرنے کے سلسلے میں دی گئی ہوں، ان سے حساب داری کو آگاہ کرنا چاہیے۔ حساب دار اعلیٰ آزاد ہے کہ وہ اس بات پر اصرار کرے کہ جو کارروائی کی گئی ہے اسے وزارت خزانہ کے احکام کے لیے بھیجا جائے۔

۱۱۔ مالیاتی منظوری کی اطلاع براسلٹ

۱۔ تمام مالی منظوریوں اور احکام جو مختلف افسران مجاز کی طرف سے ان کے مالی اختیارات کے تحت جاری ہوں، براہ راست حساب دار اعلیٰ کو بھیجنا چاہیے۔ وہ تمام منظوریوں جو وزارتوں اور ڈویژنوں کے اختیارات سے باہر ہوں، انھیں وزارت خزانہ کی معرفت بھیجنا چاہیے۔

حساب دار اعلیٰ اس منظوری کی تعمیل سے جو اسے براہ راست بھیجی گئی ہو، انکار نہیں کرے گا مگر وہ وزارت خزانہ کو رپورٹ کرے گا کہ اس قسم کا حکم جاری ہوا ہے اور مناسب مدت میں اسے بھیج دیا جائے گا۔ جہاں وزارت خزانہ مالی مشیر یا محاسب اعلیٰ سے پیشگی اجازت حاصل کر لی گئی ہو تو اس امر کی منظوری میں ضرور واضح کر دینا چاہیے۔

۲۔ جن احکام کے ذریعے تنخواہ میں اضافے کی منظوری کے بارے میں مطلع کیا جاتا ہے جیسے ”خاص تنخواہ یا تلافی الاؤنس“ ان میں اختصار کے ساتھ وہ وجوہات جن کی وجہ سے تنخواہ میں اضافہ کیا گیا، ضرور درج ہونی چاہئیں۔ اس سے حساب دار اعلیٰ تنخواہ میں اضافے کی مناسب درجہ بندی کر سکے گا۔ ان معاملوں میں

جہاں ان وجوہات کے بارے میں کھلے خط میں مطلع کرنا غیر مناسب ہو تو وجوہات خفیہ خط کے ذریعے ناظم اعلیٰ حسابات کو مطلع کر دی جائیں۔

۳۔ اخراجات کے بارے میں تمام منظوریوں میں مد کے ذرائع کے بارے میں بالضرور وضاحت ہونی چاہیے۔ اگر اخراجات کو تبدیلی مد سے، ضمنی امداد سے یا بجٹ کی رقم کی منظوری سے پہلے پورا کرنا ہے تو اس کی وضاحت کر دینی چاہیے۔

۴۔ اخراجات کی تمام منظوریوں، اس تاریخ سے مؤثر ہوں گی جس تاریخ کو منظوری کے حکم کی اطلاع دی گئی ہو، عام طور سے مالی منظوریوں کو حتمی اثر میں دینا چاہیے لیکن اگر کوئی خاص حالات اس کے متقاضی ہوں تو وزارت خزانہ کی اجازت نہایت ضروری ہے۔ وہ منظوری جس پر مالی سال کے دوران عمل نہ ہو سکے وہ سال کے خاتمے میں پر غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔

۱۲۔ عملہ اور اس کے اخراجات

۱۔ مختلف افسران مجاز کے مستقل اور عارضی اسامیوں کے وضع کرنے کے اختیارات ”مالی اختیارات“ کی کتاب میں اور ان خاص احکامات میں درج ہیں۔ وقتاً فوقتاً جاری ہوتے رہے ہیں۔ عملے میں اضافے کے بارے میں تجاویز خواہ وہ مستقل ہوں یا عارضی عملے کے لیے ہوں۔ موجودہ عملے کے واجبات میں اضافہ کے لیے ہوں۔ محکموں کے سربراہوں کو ان کی بڑی احتیاط سے چھان بین کرنی چاہیے۔ عملے میں اضافہ کے لیے تجاویز دیتے وقت منگولہ اور چیزوں کے مندرجہ ذیل اطلاعات ضرور بہم پہنچائی جانی چاہئیں۔

(i) عملے پر موجودہ اخراجات

(a) اسامی یا اسامیوں کی تنخواہوں کی تفصیل اور مجوزہ اسامیوں کی تعداد جو بڑھانی چاہتے ہوں یا ترمیم کرنا مقصود ہو۔

(b) جہاں تک بھی ممکن ہو زائد اخراجات کا صحیح تخمینہ (تنخواہ اور الاؤنس وغیرہ) اور ممکن ہو تو پیش کے دعوے وغیرہ)

(۱۷) رقوم کی فراہمی آیا بجٹ کی امداد سے یا تبدیلی مد سے یا ضمنی امداد سے
۲۔ دفتر کے کسی سربراہ کو اس بات کی آزادی حاصل نہیں کہ وہ سرکاری ملازموں
کی تنخواہوں کا دوبارہ تسویہ کرے اور کسی ملازم کو اسامی کی تنخواہ سے زیادہ
تنخواہ دے یا کسی کو کم دے۔ نہ ہی وہ کسی غیر حاضر ملازم کی تنخواہ کی ادائیگی کر
سکتا ہے۔ سوائے اس کے کہ جسے قواعد میں گنجائش ہو، لیکن جریدی عملے کے
معاملے میں جو مختلف یونٹوں اور مختلف ڈھانچوں میں تقسیم ہیں اور جو مختلف پیمانہ
تنخواہ رکھتے ہیں۔ اس بات کی اجازت ہے کہ نچلے درجے کے پیمانہ تنخواہ اور
یونٹوں میں ان اسامیوں کے عوض جو اوپر کے درجوں میں خالی ہیں یا تو ان کی
تعداد کے برابر یا ان سے زیادہ اسامیوں پر بھرتی کی جاسکتی ہے۔

۱۳۔ انتقال دفتر

جریدی افسر کے چارج کی منتقلی کی اطلاع فارم ٹی۔ آر۔ ۱ پر ناظم اعلیٰ حسابات کو
دینی چاہیے اور اطلاع جائزہ نقول محکمے کے سربراہ اور دوسرے افسران مختار کو
بھیجی چاہیے۔ جہاں جہاں حصول جائزہ میں نقد رقوم، سلمان اور کلکٹوں وغیرہ کی
ذمہ داری بھی شامل ہو جائے تو مندرجہ ذیل ہدایات پر عمل کرنا چاہیے۔

(۱) نقدی کھاتہ یا مستقل پیسگی حساب، انتقال کی تاریخ کو بند کر دینا چاہیے اور
اس بارے میں ایک یادداشت دونوں افسروں یعنی سبکدوش اور سبکدوش کنندہ
افسروں کے دستخطوں سے لکھ دینی چاہیے۔ جو نقد رقم ہو اور جتنے غیر استعمال
شدہ چیک ہوں ان کی گنتی کر کے لکھ لینا چاہیے۔

(۲) سبکدوش کنندہ افسر حسابات کو چیک کرے۔ سٹور کا معائنہ کرے اور کچھ
منتخب چیزوں کو گنے، تولے اور ناپے اور اگر کوئی چیز غیر ضروری یا قابل اعتراض
ہو تو اسے افسران بالا کے علم میں لائے۔ وہ حسابات کی حالت کے بارے میں ذکر
کرے۔

(۳) اگر کسی ناگمانی حادثے یا ہنگامی ضرورت کی وجہ سے موجودہ افسر کو اپنا چارج

چھوڑنا پڑے تو محکمے کا اس کے بعد جو بھی اعلیٰ افسر ہے وہ فرائض سنبھال لے
جہاں پر اس سے بالائی افسر پیمانہ تنخواہ ۲۱ کا میسر نہ ہو تو اسے اپنے نزدیک ترین
محکمے کے افسر اعلیٰ کو اس صورت حال سے آگاہ کرنا چاہیے اور ضروری احکام
حاصل کرنا چاہیے۔

۱۴۔ تاریخ پیدائش

۱۔ ملازم ہوتے وقت ہر سرکاری ملازم کو سن عیسوی کے مطابق تاریخ پیدائش کی
وضاحت کرنی ہوتی ہے۔ وضاحت میٹرک کے سرٹیفکیٹ یا میونسپل کمیٹی کے
پیدائش کے سرٹیفکیٹ وغیرہ کے ذریعے ثابت کرنی ہوتی ہے۔ تاریخ پیدائش کا
اندراج باضابطہ ملازمت نامہ، فرد ملازمت اور تاریخ ملازمت میں کرنا چاہیے۔
جہاں اصلی تاریخ پیدائش کا علم نہ ہو تو مندرجہ ذیل طریق کار اختیار کیا جائے اور
تاریخ پیدائش کا اس کے مطابق تعین کیا جائے۔

(۱) جہاں پیدائش کا سال اور مہینہ معلوم ہو تو اس ماہ کی ۲۱ تاریخ پیدائش تصور
کیا جائے۔

(۲) جہاں صرف پیدائش کا سال معلوم تو یکم جولائی کو تاریخ پیدائش تصور کیا
جائے۔

(۳) جہاں پیدائش کا سال اور مہینہ دونوں معلوم نہ ہوں تو سرکاری ملازم سے
پوچھا جائے کہ وہ اپنی اندازاً "عمر بتائے۔ جس کی مزید تصدیق طبی افسر سے اس
کے طبی موزونیت کے سرٹیفکیٹ پر تصدیق کرائی جائے۔ اس کی عمر کے مجموعی
سالوں کو اس کی تاریخ ملازمت سے منہا کر دیا جائے اور اس کے مطابق جو بھی
تاریخ نکالے وہی اس کی تاریخ پیدائش تصور کی جائے گی۔

۱۵۔ رخصت کی درخواستیں

رخصت کی درخواستیں اعلیٰ مجاز حکام کو فارم کی۔ ایف۔ آر۔ ۳ پر پیش کی

جائیں۔

۲۱۔ تقرراتے

۱۔ ہر سال ایک مقررہ وقت پر دفتر کے سربراہ کو تقرریوں کا کام سنبھال لینا چاہیے اور اس بات کی تسلی کر لینے کے بعد کہ تمام متعلقہ اندراج صحیح طور پر کر دیے گئے ہیں۔ درج ذیل تصدیق نامہ تحریر کرنا چاہیے۔

”—————“ ملازمت کی تصدیق فلاں تاریخ تک فلاں ریکارڈ سے کی گئی۔

۲۔ جب کسی سرکاری ملازم کا کسی دوسرے دفتر میں تبادلہ ہو جائے تو اس کی ملازمت تبادلے کی تاریخ تک تصدیق کی جائے گی اور اس کا ملازمت نامہ اس دفتر میں بھیج دیا جائے گا جہاں اس کا تبادلہ ہوا ہے۔

۳۔ ان سرکاری ملازموں کے معاملوں میں جو بنیادی پیمانہ تنخواہ نمبر ۱۵ سے ۱۵ تک میں ہوں اور سکیل ۲۱ یا اس سے اوپر میں بطور قائم مقام کام کریں تو ان کے ملازمت نامے اس دفتر کے سربراہ کے پاس رکھے جائیں۔ جہاں سرکاری ملازم مستقل طور پر متعلق ہوں اور جب وہ سکیل ۲۱ یا اس سے اوپر کے پیمانہ تنخواہ میں مستقل ہو جائیں تو ان کے ملازمت نامے حساب دار اعلیٰ کو محفوظ کرنے کے لیے بجا دیے جائیں۔

۲۲۔ بقایا جات کے دعوے

افسر خزانہ کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ اور الاؤنس کے دعوے پر اگر وہ واجب ہونے کے چھ ماہ کے اندر اندر داخل نہ کیا جائے، حساب دار اعلیٰ کی سند کے بغیر غور نہیں کر سکتا۔ اسی طرح حساب دار اعلیٰ کسی دعویٰ کا حاسبہ نہیں کر سکتا۔ اگر وہ سال بھر سے زائد کا ہو، جب تک کہ کوئی بااختیار مجاز افسر اسے دعویٰ کی تفتیش کی اجازت نہ دے دے، جو تین سال سے زیادہ کے ہوں وہ زائد المیعاد ہو

جائے ہیں۔ ان کی ادائیگی اس وقت تک نہیں کی جا سکتی جب تک وزارت خزانہ منظوری نہ دے دے۔ عام طور پر تمام زائد المیعاد دعووں کا شروع ہی میں انکار کر دینا چاہیے۔ سوائے اس کے کہ اس کے لیے بہت ہی خاص وجوہات ہوں جیسے کہ اس کا اثر حدیث پر پڑتا ہو وغیرہ وغیرہ۔

۱۸۔ اتفاقی اخراجات، ذخائر اور اتفاقی اخراجات کی منظوری کے بارے میں ماتحت افسران مجاز کے اختیارات

۱۔ اتفاقی اخراجات کو منظور کرنے کے مختلف ماتحت حکام مجاز کے اختیارات عمومی مالی قواعد جلد دوم، ضمیمہ ۸ اور وزارت خزانہ کی دفتری یادداشت نمبر ایف۔ ۱ (۵) آر۔ ۸۰/۳۳ مورخہ ۱۱۔۳۔۱۹۸۱ء کے منسلک ۱۱ میں درج ہیں۔ ان اختیارات کی حدود میں، اتفاقی کاموں پر اخراجات کیے جا سکتے ہیں۔ بشرطیکہ اس مقصد کے لیے مختص رقم موجود ہو۔ جہاں کہیں اتفاقی اخراجات کے لیے کوئی خاص قواعد، پابندیاں، حدود یا پیمانہ وغیرہ مقرر کیے گئے ہوں تو ان کی پابندی کی جائے۔

۲۔ ایسے اتفاقی اخراجات جو غیر معمولی نوعیت کے ہوں، یا وہ مجوزہ طریقوں سے انحراف کرتے ہوں تو وہ نہ کیے جائیں اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی ذمہ داری سرکار کی سابقہ منظوری کے بغیر قبول کی جائے۔

۲۹۔ مستقل پیشگی (ایمپریسٹ)

۱۔ جن افسروں کو خزانے سے رقم نکلوانے سے پہلے ادائیگیاں کرنی ہوتی ہیں، ان کو مستقل پیشگیاں دی جاتی ہیں۔ پیشگی کی رقم کا تعین حکومت حساب دار اعلیٰ کے مشورے کے مطابق کرتی ہے۔ محکموں کے سربراہ اپنے ماتحت افسروں کے لیے ناظم اعلیٰ حسابات کے مشورے سے پیشگی رقم کی منظوری دے سکتے ہیں، لیکن خود محکمے کے سربراہ کے لیے یہ منظوری سربراہ محکمہ سے اوپر کا اعلیٰ انتظامی

حاکم مجاز کرے گا۔ پیشگی پر نظر ثانی یا پیشگی میں اضافہ کے لیے درخواستیں منظور دینے والے حاکم مجاز اور ناظم اعلیٰ حسابات کے توسط سے پیش کی جائیں گی، جو مناسب رقم کے متعلق مشورہ دے گا۔ اگر اول الذکر اور موخر الذکر میں رائے کا اختلاف ہو جائے تو پھر معاملہ حکومت کو احکام کے لیے پیش کیا جائے۔

۲۔ پیشگیوں کو بلا ضرورت بڑھانا نہیں چاہیے۔ اگر کسی افسر کے ماتحتوں کو معمولی رقم درکار ہوں تو اسے اپنی پیشگی رقم میں سے کچھ حصہ دے دینا چاہیے۔ بجائے اس کے کہ ان کے لیے الگ پیشگی کے لیے درخواست دی جائے، وہ انہیں پیشگی رقم ان سے حسب معمول رسید وصول کر کے دے سکتا ہے۔

۳۔ اس پیشگی رقم کا مقصد اولاً یہ ہے کہ ہنگامی ضرورت کے تحت تمام قسم کی چھوٹی چھوٹی پیشگیاں عطا کی جاسکیں۔ اگر کوئی بنیادی بیانیہ تنخواہ یا ۲ ملازم ریل سے سز کرے تو کرایہ اس پیشگی میں سے وصول کیا جائے۔ ملازمت ناموں کی قیمت کو جو دفتر کے عملے کے لیے درکار ہوں، ابتدائی طور پر اسی مستقل پیشگی سے پورا کیا جائے اور رقم بعد میں سرکاری ملازموں کے ہاتھ ان کو فروخت کر کے پوری کر لی جائے۔

۴۔ اس پیشگی کے وصول کرنے والا اس کی تحویل کا ذمہ دار ہے اور اسے ہر وقت اس مجموعی رقم کا حساب دینے کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ جب فریضے کا تبادلہ ہو اور ہر سال ۱۵ جولائی کو ہر افسر جس کے قبضے میں پیشگی رقم ہو، اسے حساب دار اعلیٰ کو اس بات کی رسید دینی ہوگی کہ اس کے پاس گزشتہ ۳۰ جون سے کتنی رقم واجب الادا ہے۔

۲۰۔ سٹور (سامان) کی خریداری اور حصول

۱۔ افسر مجاز جسے اتفاقی اخراجات کرنے کا اختیار ہے وہ اس سامان کی جو سرکاری کام کے لیے درکار ہو، خریداری کی منظوری بمطابق عمومی قواعد مالیات جلد دوم

ضمیمہ ۸ میں مندرج ہدایات لے سکتا ہے، یا ان عمومی اور خاص احکام کے تحت جو وقتاً فوقتاً جاری کیے گئے ہوں۔ یہ خریداری بہت ہی کفایت سے اور سرکاری کام کی اصل ضروریات کے مطابق کی جائے۔ مختلف اقسام کی خریداری سے جہاں تک ممکن ہو اجتناب کیا جائے۔ یہ مناسب ہے کہ میعاد سامان کی فرسٹ تیار کی جائے اور ایک بار خریداری کی جائے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ سامان کو اصل ضروریات سے بہت پہلے خرید لیا جائے۔

جہاں افسران مجاز سامان کے استعمال کا بیانیہ مقرر کر دیں تو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ بیانیے سے زیادہ سامان نہ خریدا جائے۔ خریداری کے احکامات کو اس لیے الگ الگ نہ کیا جائے کہ اعلیٰ افسران مجاز کی منظوری سے بچا جاسکے۔

۲۔ ملک کے اندر یا ملک سے باہر پاکستانی مشینوں کے ذریعے سامان حاصل کرنے کا مفصل طریق کار عمومی قواعد مالیات جلد اول کے پیرا ۱۳۳ کے منسلک "۳" میں درج ہے، ان پر سختی سے عمل ہونا چاہیے۔

۲۱۔ سامان کی وصولی

تمام سامان جو موصول کیا جائے اس کی وصولی کے وقت پڑتال، کتنی، ٹاپ یا وزن کیا جائے۔ وہ افسر جو سامان (سٹور) کا ذمہ دار ہو وہ یہ دیکھے کہ ان کی مقدار درست ہے اور ان کی کیفیت اچھی ہے اور ایک تصدیق نامہ اس نوعیت کا تحریر کر دے۔ افسر کو یہ بھی تصدیق کر دینا چاہیے کہ اس نے سامان واقعی وصول کیا ہے اور اسے موزوں رجسٹر سامان میں درج کیا جائے۔

۲۲۔ سامان کا اجراء

جب ذخیرہ سے سامان کا اجراء کیا جائے تو ایسا فرد طلب مقررہ فارم میں وصول ہونے پر کی جائے۔ سامان کو رسید کی وصولی کے بعد اور متعلقہ سامان کے رجسٹروں میں اندراج کے بعد جاری کیا جائے۔

۲۳۔ سامان کی تحویل اور حسابات

۱۔ وہ تمام افسران جنہیں سامان سونپا گیا ہے انہیں چاہیے کہ وہ ان کی حفاظت کے لیے خاص احتیاط کریں۔ انہیں اچھی اور موثر حالت میں رکھیں، گم ہونے اور خراب ہونے سے بچائیں۔ قیمتی اور آگ لگنے والے سامان کو رکھنے کے لیے مناسب جگہ کا انتظام کیا جائے۔ ہر قسم کے سامان، جلد ذخیرہ کے قابل صرف اشیاء، تلف شدنی اشیاء، کتب خانے کی کتابوں وغیرہ کے لیے مناسب حسابات اور فہرستیں تیار کرنی چاہئیں۔ ذخیرے کے حسابات، سامان کی نوعیت کے ساتھ ساتھ بدلتے رہتے ہیں، لہذا یہ قابل تریج ہے کہ تمام سامان کی فہرستیں شور کی جگہ پر موجود ہوں۔

۲۔ سرکاری تجارتی اداروں کی صورت میں باقیمت حسابات رکھنے چاہئیں۔ ان معاملوں میں قیمتوں کا تعین معقول درستی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ جو قیمتیں ایک بار مقرر کر دی جائیں ان پر ضروری ہو تو بازار میں سامان کی قیمتوں کے مطابق نظر ثانی کر کے بدلنا چاہیے۔ نقصان اور فرسودگی کو بھی مناسب طور سے رکھنا چاہیے۔

۲۴۔ عملی پڑتال

۱۔ سامان کی عملی پڑتال کسی بااختیار افسر مجاز کو سال میں کم از کم ایک بار کرنی چاہیے، یہ کام ایسے شخص کو نہیں سونپنا چاہیے:

(۱) جو اس سامان کا جس کی پڑتال کرنی ہے رکھوالا، ہی نوٹس یا سامان کا حسابدار ہو یا اس کا ذمہ دار ہو یا محافظ سامان، ہی نوٹس یا حسابدار کا ملازم ہو۔

(۲) جو پڑتال کے لیے جانے والے سامان کی درجہ بندی، طریق تسمیہ یا تکثیف سے واقف نہ ہو۔

(۳) جو کم تنخواہ پانے والا ملازم ہو۔

۲۔ جہاں تک ممکن ہو یہ کام کسی ذمہ دار افسر کو سونپا جائے جو انتظامیہ کے اعلیٰ افسر سے جو شور کا جائزہ دار ہے اس سے آزاد ہو، سامان کی عملی پڑتال کرتے وقت یہ ضروری ہے کہ یہ کام شور کے تحویلدار کی موجودگی میں یا اس کے مقرر کیے ہوئے شخص کی موجودگی میں کیا جائے۔

۳۔ سامان کی پڑتال کا تصدیق نامہ، سبج اس کے نتائج سامان کے رجسٹر میں تحریر کیا جائے، اس میں جو بھی ناقص ہوں وہ فوراً "حساب میں لائے جائیں" تاکہ شور کا حساب، شور کی صحیح صورت حال کو واضح کرے۔ اس سلسلے میں سامان میں کمی، نقصان اور ناکارہ سامان ہوں، حاکم مجاز کے علم میں لایا جائے، تاکہ وہ اس نقصان کو قلم زد کر دے۔

۲۵۔ سامان کی فروخت اور اس کو ٹھکانے لگانا

۱۔ ضرورت سے زیادہ سامان کو ایک معقول مدت کے بعد یا مجوزہ حد سے زیادہ نہ رکھا جائے۔ اس مقصد کے لیے ایک میعاد پڑتال کسی ذمہ دار افسر کو کرنی چاہیے، جو کہ فاضل اور ناکارہ سامان کے بارے میں اپنی رپورٹ پیش کرے، یہ پڑتال سالانہ ہونی چاہیے اور تلف پذیر چیزوں کے سلسلے میں ششماہی ہونی چاہیے۔

۲۔ متروک، زائد یا بے کار سامان کو فروخت یا کسی اور طریقے سے حاکم مجاز کے حکم کے تحت ٹھکانے لگا دینا چاہیے، لیکن ایسے تمام احکام جو سامان کو ناقابل استعمال ظاہر کریں، ان میں مکمل وجوہات دی جائیں، جن کی وجہ سے سامان ناکارہ ہو گیا اور اس غیر کار آمد سامان کو کیسے ٹھکانے لگایا جائے گا جسے فروخت کر کے یا نیلام عام کر کے یا کسی اور ذریعہ سے سربراہ دفتر کو تمام ناکارہ سامان کے بارے میں مکمل تفصیل مناسب فہرست میں درج کرنا چاہیے، جس سے سامان کو ٹھکانے لگانے پر نظر رکھی جاسکے۔ وہ سامان جو گم ہو گیا ہو یا جسے نقصان پہنچا ہو اس کی قیمت کو افسر مجاز کے حکم سے قلم زد کر دینا چاہیے۔

۲۱۔ قرضے اور پیسگیاں

حکومت کی طرف سے دیے گئے قرضے اور پیسگیاں دو مدوں میں یعنی ”قرضے اور پیسگیاں“ میں آتے ہیں۔ سووی اور بلا سووی، اول الذکر وہ قرضے ہیں جو صوبائی حکومتوں کو مقامی فنڈز میں اور پرائیویٹ افراد کو دیے جائیں اور وہ پیسگیاں بھی جو سرکاری ملازموں کو مکان کی تعمیر کے لیے، سواری کی خرید وغیرہ کے لیے دی جائیں۔ موخر الذکر میں وہ پیسگیاں ہیں جو سرکاری ملازموں کو دورے پر جانے یا چلنے کی صورت میں دی جاتی ہیں۔

۲۲۔ عام شرائط

- ۱۔ عام قاعدے کے طور پر پیسگیاں ان سرکاری ملازموں کو جو مستقل ملازم نہ ہوں، نہیں دی جاتیں، کیونکہ ان کی تنخواہ پیسگی کے لیے مناسب ضمانت فراہم نہیں کرتی۔ البتہ خاص معاملوں میں اور کچھ شرائط کے تحت جو ضروری سمجھی جائیں، عارضی سرکاری ملازموں کو بھی پیسگی کی منظوری دی جاسکتی ہے۔
- ۲۔ سرکاری ملازموں کو جو پیسگیاں تعمیر مکان اور سواریوں کی خرید کے لیے دی جاتی ہیں ان پر سود مفروضہ اس شرح سے لگایا جائے جو سرکار مقرر کرے۔ سائیکل کی خرید کے لیے پیسگی زر پر کوئی سود نہیں لگایا جائے گا۔ اسی طرح قوی سیکل اسے ۵۰ تک ملازم ہیں، سے تعمیر مکان کے لیے پیسگی پر کوئی سود نہیں لیا جائے گا۔ وہ سرکاری ملازم جو سرمایہ کفالت عمومی پر کوئی سود نہیں لیتے انھیں تعمیر مکان، موٹر کار اور موٹر سائیکل خریدنے کے لیے پیسگی بلا سود دی جائے بشرطیکہ ان کی پیسگی یکم جولائی ۱۹۸۳ء یا اس کے بعد منظور ہوئی ہو۔ جہاں پیسگی کی رقم ایک سے زائد قسطوں میں حاصل کی جائے وہاں قابل وصولی سود کی شرح کا تعین پہلی قسط کی تاریخ وصولی سے کیا جائے گا۔ سود کا حساب اس رقم پر لگایا جائے گا جو ہر ماہ کی آخری تاریخ کو بتایا ہو گا۔

۳۔ اگر سرکاری ملازم ریٹائرمنٹ سے پہلے فوت ہو جائے اور اس پر بازیابی تعمیر مکان، کار اور موٹر سائیکل کی پیسگی کی صورت میں واجب ہو، تو اس پر سود کی کوئی بازیابی نہیں کی جائے گی۔ اگر انتقال کے وقت سود کی بازیابی ہو رہی ہو تو بقایا سود کی بازیابی نہیں کی جائے گی۔

۴۔ پیسگی کی رقم کی بازیابی مقرر کردہ قسطوں کی صورت میں ماہانہ تنخواہ کے بلوں سے کی جاتی ہے۔ اگر قرض دار کسی قسم کی رخصت پر ہے اور رخصت کی تنخواہ وصول کر رہا ہے یا وہ معطل ہے اور گزارہ امداد وصول کر رہا ہے تو اس کا بازیابی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ غیر معمولی رخصت (بغیر تنخواہ) دوران قسطیں نقد وصول کی جائیں گی۔

اگر سرکاری ملازم نقد قسط ادا کرنے میں ناکام رہے تو قسطوں کے بقایا جات اس سے یکمشت وصول کیے جائیں۔ جب اسے تنخواہ اور الاؤنسوں کی پہلی ادائیگی رخصت کے ختم ہو جانے کے بعد ہو۔

۵۔ ان تمام پیسگیوں کے لیے جو سووی ہوں، افسر مجاز کو اس وقت تک منظوری نہیں دینی چاہیے جب تک حساب دار اعلیٰ رقم کی دستیابی کی تصدیق نہ کر دے۔ اس سال کے اندر جس میں مجوزہ ادائیگی کی جانی ہو۔

۲۸۔ تعمیر مکان کے لیے پیسگیاں

- ۱۔ افسر مجاز، سرکاری ملازم کو تعمیر مکان، مکان خریدنے، مکان کو دوبارہ تعمیر کرنے یا مکان میں اضافہ کرنے یا مرمت کرنے کے لیے جو پہلے سے بنا ہو، پاکستان یا آزاد کشمیر میں کسی بھی جگہ پر خود رہنے کے لیے پیسگی کی ادائیگی کی منظوری دے سکتا ہے۔
- ۲۔ یہ پیسگی سرکاری ملازم کو نیا مکان بنانے کے لیے اور رہائش کی حتمی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تمام ملازمت کے دوران صرف دو بار دی جا سکتی ہے، البتہ اسلام آباد میں مکان تعمیر کرنے کے لیے سرکاری ملازم کو دوسری

بار بھی پیشگی کی ادائیگی کی جا سکتی ہے۔ بشرطیکہ پہلی پیشگی منہ سود پوری ادا کی جا چکی ہو۔ پیشگی اس مکان کے خریدنے کے لیے بھی جو وفاقی حکومت، صوبائی حکومت یا مقامی سند مجاز نے تعمیر کیا ہو، مل سکتی ہے۔

۳۔ سبھی منزلہ عمارتوں میں فلیٹ کی خریداری کے لیے پیشگی سرکاری ملازموں کو ان عمومی شرائط کے تحت جو تعمیر مکان کے لیے مقرر کی گئی ہیں، ادا کی جا سکتی ہے۔ بشرطیکہ مندرجہ ذیل گنجائشوں کا مزید خیال رکھا جائے۔

(الف) پیشگی رقم وصول کرنے سے یا تعمیراتی ادارے کو براہ راست ادائیگی سے قبل (بحوالہ پیرا ۲ جو نیچے دیا گیا ہے)۔ متعلقہ سرکاری ملازم کو مجوزہ فارم میں ایک معاہدہ کرنا ہو گا اور جب فلیٹ کی خریداری مکمل ہو جائے تو مجوزہ فارم پر رہن نامہ تیار کر کے رجسٹر کروانا ہو گا، جو پیشگی رقم کی باقیانیل مع سود کے لیے ضمانت کے طور پر ہو گی۔

(ب) پیشگی وصول کرنے کے تین ماہ کے اندر اندر تسلی بخش ثبوت پیش کرنا ہو گا، کہ رقم فلیٹ کی خریداری پر خرچ کی گئی ہے۔ تعمیراتی ایجنسی کی طرف سے جو فروخت نامے کے سلسلے میں ہے، اسے پیش کر کے ایسا کیا جا سکتا ہے۔

۴۔ اگر سرکاری ملازم یہ چاہے کہ مندرجہ بالا احکام کے تحت منظور شدہ پیشگی رقم تعمیراتی کمپنی کو بلاواسطہ ادا کر دی جائے تو اسے یہ بات پیشگی کی منظوری کے لیے اپنی درخواست میں واضح کر دینا چاہیے، ایسی صورت میں افسر زرر آری و ادائیگی براہ راست متعلقہ ایجنسی کو ادائیگی کا انتظام کرے گا اور سرکاری ملازم کے نام ایجنسی سے جائز رسید حاصل کر کے اسے ملازم کو دے گا۔

۵۔ پیشگی کی رقم سرکاری ملازم کی ۳۶ ماہ کی تنخواہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ پیشگی قسطوں سے ادا کی جائے گی۔ ہر قسط کی رقم اتنی ہونی چاہیے کہ جس کا آئندہ تین ماہ کے دوران خرچ کرنے کا امکان ہو۔ قرض لینے والے کو چاہیے کہ وہ منظوری دینے والے افسر کو تسلی بخش ثبوت پیش کرے کہ پہلی قسط جو وصول کی گئی تھی وہ مکان کی تعمیر پر واقعی صرف کی گئی ہے۔ صرف اس صورت میں

دوسری قسط دی جائے گی۔

تمام بل جو پیشگی کی وصولی کے لیے جب افسر محاسبہ کو پیش کیے جائیں تو ان کے ہمراہ افسر مختار مندرجہ ذیل تصدیق نامہ بنیادی تنخواہ سکیل ۲ یا ان سے اوپر کے افسروں کے سلسلے میں اور دوسرے افسروں کے سلسلے میں افسر زرر آری کی طرف سے پیش کیا جائے:

”تصدیق کی جاتی ہے کہ مبلغ ----- روپے جو

جناب ----- کو منظور شدہ پیشگی برائے تعمیر مکان

کی ----- قسط ہے، آئندہ تین ماہ میں خرچ کے لیے

درکار ہوں گے اور یہ کہ میں مطمئن ہوں کہ اس سے پہلے جو

پیشگی رقم (اگر کوئی ہے) دی گئی تھی، وہ واقعی اس مقصد کے لیے

استعمال کی گئی جس کے لیے وہ ادا کی گئی تھی۔“

۶۔ سرمایہ کفالت عمومی سے مکان کی تعمیر کے لیے حاصل کی جانے والی پیشگی رقم مکان کی تعمیر کی پیشگی کی مجموعی رقم کا حساب کرنے کے مقصد کے لیے جس کا سرکاری ملازم حقدار ہے، شمار نہیں کی جائے گی۔ نئے مکان کی تعمیر کے لیے پیشگی کی رقم دو برابر قسطوں میں وصول کی جا سکتی ہے۔

پہلی قسط اس وقت ادا کی جائے گی جب زمین کی ملکیت کے حقوق سے متعلق دستاویزات پیش کی جائیں اور دوسری قسط اس وقت دی جائے گی جب مکان کی تعمیر کرسی تک پہنچ جائے۔ ایسی پیشگی رقم جو مکان کے خریدنے، دوبارہ تعمیر کرنے یا دکان کی درستی کے لیے منظور کی گئی ہو، وہ ایک قسط میں ادا کی جا سکتی ہے، بشرطیکہ رہن کی دستاویز پوری طرح مکمل اور رجسٹر کروائی جائے اور حکومت کے حقوق کی پوری طرح حفاظت کی جائے۔ مجموعی رقم جو ایک قسط میں حاصل کی جائے، وہ وصولی سے ۸ مہینوں کے اندر اندر استعمال کر لینے چاہیے۔ وصول کنندہ کو چاہیے کہ وہ مالی سال کے اختتام پر ایک تصدیق نامہ دے جس کے ساتھ اس کے اعلیٰ افسر کا بھی تصدیق نامہ ہو کہ جس مقصد کے لیے رقم حاصل کی گئی تھی اس میں سے کتنی رقم استعمال کی جا چکی

ہے اور اگر پوری رقم استعمال نہیں کی گئی (یعنی کم استعمال کی ہے) تو اس کی وجوہات دی جائیں۔

۷۔ پیشگی رقم کی بازیابی پہلی قسط وصول کرنے کے بعد جو بھی تنخواہ ملے اس سے شروع کی جاتی ہے اور یہ ۳۰ مساوی قسطوں میں پوری کی جاتی ہے۔ بنیادی تنخواہ سکیل اے ۳ کے ملازموں کے لیے بازیابی ۲۳۰ قسطوں میں پوری ہوگی۔

سود کی بازیابی ایک یا ایک سے زیادہ قسطوں میں ہوگی اور یہ اصل رقم کی مکمل وصولی کے بعد شروع ہوگی اور اس کی قسط کی رقم اصل زر کی قسط کی رقم سے زیادہ نہ ہوگی، جو وصول کیا جا چکا ہے۔ بازیابی کی ماہوار شرح کا پورے روپے میں تعین ہو گا۔ سوائے آخری قسط کے جس میں بقایا رقم جس میں روپے کی کسر بھی ہوگی، وصول کی جائے گی۔

۸۔ وہ سرکاری ملازم جو سرکاری ملازمت سے ۱۰ سال کے اندر فارغ خدمت ہونے والے ہوں اور انھیں پیشگی برائے تعمیر مکان ادا کی جا چکی ہو۔ ان کی بازیابی کی قسطوں کو اس طرح مقرر کیا جائے کہ فارغ خدمتی کی تاریخ سے پہلے تمام اصل زر مع سود وصول ہو جائے۔ البتہ قسط کی شرح سرکاری ملازم کی تنخواہ کے ایک چوتھائی سے بڑھنے نہ پائے اور اگر بازیابی کی شرح، سرکاری ملازم کے وقت سے پہلے فارغ خدمتی کی وجہ سے بڑھ جائے تو پھر پیشگی کی رقم کو اس طرح سے کم کر دیا جائے کہ اس کی فارغ خدمتی سے پہلے اصل زر مع سود وصول ہو جائے۔

۹۔ بنیادی پیمانہ تنخواہ سکیل اے ۳ کے ملازموں کو پیشگی کے سلسلے میں ادائیگی ان کی عمر کی حد سے منضبط کی جائے گی جو حسب ذیل ہے:

(۱) تعمیر مکان کی پیشگی کی کل رقم یعنی ۳۶ ماہ کی تنخواہ کے برابر ہو اور ۲۳۰ قسطوں میں بازیابی ہو، ۳۰ سال کی عمر تک۔

(۲) پوری پیشگی کی رقم ۳۰ سے ۳۸ سال تک کی عمر کے ملازموں کو بھی دی جا سکتی ہے۔ بشرطیکہ سرکاری ملازم یہ تحریری ذمہ لے کہ پیشگی کی بازیابی قسطوں میں

اس کی تنخواہ سے ایسی یکساں شرح سے ہو کہ قسط اس کی تنخواہ کی ایک چوتھائی سے بڑھنے نہ پائے اور پیشگی کی تمام رقم ۶۰ سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے پہلے ادا ہو جائے۔

(۳) ان سرکاری ملازموں کے معاملوں میں جن کی عمر ۳۸ سال سے زائد ہو، پیشگی رقم کو اتنا کم کر دیا جائے کہ بازیابی کی شرح اس کی تنخواہ کی ۳۴ سے نہ بڑھے اور یہ ممکن ہو جائے کہ تمام رقم ۶۰ سال کی عمر تک پہنچنے سے پہلے بازیاب ہو جائے۔

۱۰۔ سرکار کو اس نقصان سے محفوظ رکھنے کے لیے جو سرکاری ملازم کی موت واقع ہونے یا ملازمت کو، پیشگی کی رقم اور اس پر سود کی ادائیگی مکمل ہونے سے پہلے چھوڑنے کے نتیجے میں ہو تو اس مکان کو جو تعمیر ہوا ہے اور اس کی زمین کو جس پر مکان بنا ہے، صدر پاکستان کے نام رہن رکھنا ہو گا اور وہ اسی صورت میں واپس ہوں گے جب تمام اصل رقم مع سود ادا ہو جائے۔

رہن کی دستاویز مجموعی قواعد مالیات فارم ۲۳-۲۴-۲۵ یا ۲۹ پر، جو بھی صورت ہو، تیار کی جائے گی۔ منظور کنندہ افسر مجاز اس دستاویز کی جانچ پڑتال کرے گا اور اس امر کا تصدیق نامہ دے گا کہ یہ درست ہے۔ یہ دستاویز منظور کنندہ افسر مجاز کی تحویل میں اس وقت رہے گی جب تک کہ پیشگی کی پوری رقم مع سود ادا نہ کر دی جائے۔

۱۱۔ پیشگی رقم کے لیے درخواست دینے والے افسر کے لیے لازم ہے کہ وہ منظوری دینے والے افسر مجاز کو اس زمین کی ملکیت کے بارے میں جس پر مجوزہ مکان تعمیر کرنا ہو گا، مطمئن کرے۔ اگر اس میں شک ہو تو محاصل رجسٹریشن اور قانون کے حکام مجاز سے مشورہ کرنا چاہیے۔ یہ دیکھنا ہو گا کہ افسر کا اس زمین پر بغیر کسی تنازعہ کے قبضہ ہے اور حکومت کے نام رہن رکھنے کے لیے کوئی قانون رکاوٹ نہیں ہے اور ان شرائط کے تحت جو رہن کی دستاویز میں درج ہیں، ملک الارہن کا حق قائم رہے گا۔

ایسے سرکاری ملازم کو پیشگی رقم دینے کے بارے میں کوئی اعتراض نہ ہو گا جس

نے پٹہ پر زمین کا قطعہ حاصل کیا ہو اور میعاد ختم ہونے سے پہلے زمین کی حالت اور مالیت ایسی کہ اس پر پیٹنگی رقم کی منظوری حق بجانب ہو اور پٹہ کی میعاد ختم ہونے کا ڈر نہ ہو، یا یہ کہ سرکار اس رہن کو ٹھکانے نہ لگا سکے، اگر تک رہن ضروری ہو جائے۔

۱۲۔ تعمیر مکان کے لیے پیٹنگی رقم ان سرکاری ملازموں کو بھی مل سکتی ہے جنہوں نے ناظم آباد کراچی میں قطعات اراضی حکومت سے پٹہ پر حاصل کیے ہوں یا ایسی کو آپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں سے جو باضابطہ رجسٹر کی ہوں۔ متعلقہ سرکاری ملازموں سے کہا جائے کہ وہ اصل کاغذات پیش کریں جس سے یہ ثابت ہو کہ واقعی زمین انھیں الاٹ کی گئی ہے۔ سب سے پہلے انھیں ترقیاتی اخراجات کی وہ رقم جو سوسائٹیوں نے طلب کی ہو، ادا کی جائے۔

جب اصل تعمیر کے شروع کرنے کا ارادہ ہو تو انھیں مجموعی پیٹنگی رقم ۲۵ فی صد تک ادا کیا جاسکتا ہے تاکہ وہ مکان کی بنیادیں تک تعمیر کر سکیں۔ جب بھی قابل عمل ہو، لیکن ہر حالت میں اس تاریخ جب ۲۵ فی صد پیٹنگی رقم وصول کی ہو تین ماہ تک قرض دار کو چاہیے کہ وہ منتظم انجینئر سے (جس کو سرکار نے اس کام کے لیے نامزد کیا ہو) اس امر کا تصدیق نامہ حاصل کر کے کہ مکان بنیاد تک تعمیر ہو گیا ہے، پیش کرے۔ اس کے بعد سرکاری ملازم کو چاہیے کہ وہ زمین اور جو ڈھانچہ اس پر تعمیر ہوا ہے اسے فارم عمومی قواعد مالیات فارم ۲۵ پر صدر کے نام رہن کرے اور چار ماہ کے اندر اندر اسے رجسٹر کروائے۔ مزید قسطیں اس وقت ادا کی جائیں گی جب رہن کی دستاویز تیار ہو جائے۔

۱۳۔ جب زمین رہن رکھ دی جائے اور دستاویز رجسٹر ہو جائے تو کل پیٹنگی رقم کا ۷۰ فی صد بطور پیٹنگی برائے تعمیر مکان ادا کی جاسکتی ہے۔

۱۴۔ جہاں ضروری سمجھا جائے وہاں ایسے سرکاری ملازموں کو بھی پیٹنگی مل دی جاسکتی ہیں، جو کو آپریٹو ہاؤسنگ سوسائٹیوں کے ممبر ہوں۔ ایسے سرکاری ملازم جو اسلام آباد میں سی۔ ڈی۔ اے سے زمین خریدنا چاہتے ہوں زمین کی خریداری

کے لیے یا زمین کو پٹہ پر حاصل کرنے کے لیے جس پر مکان تعمیر کیا جائے گا، پیٹنگی رقم ادا کی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ باقی تمام شرائط جو مکان کی تعمیر کے لیے پیٹنگی حاصل کرنے کے سلسلے میں مقرر کی گئی ہیں، وہ تسلی بخش طریقے پر پوری ہو جائیں اور پیٹنگی کی مجموعی رقم سرکاری ملازم کی ۳۶ ماہ کی تنخواہ سے نہ بڑھے جو اسے زمین خریدنے یا پٹہ پر حاصل کرنے اور مکان تعمیر کرنے کے لیے درکار ہے۔

جیسا کہ قواعد میں مذکور ہے، پیٹنگی رقم قسطوں میں ادا کی جاتی ہے اور ہر قسط کی رقم اتنی ہو کہ جو تین ماہ میں خرچ کے لیے مطلوبہ رقم سے زیادہ نہ ہو۔ ہر قسط عام طور پر مجموعی پیٹنگی رقم کی ۲۵ فی صد تک محدود کر دی گئی ہے، تاہم اسلام آباد میں سی ڈی اے سے زمین خریدنے کے لیے سرکاری ملازم کو پہلی قسط مجموعی رقم کا جس کا وہ حقدار ہو ۲۵ فی صد سے ۴۵ فی صد تک بڑھایا جاسکتا ہے، بشرطیکہ دوسری شرائط جو قواعد میں درج ہیں وہ پوری کر دی جائیں۔ تعمیر مکان کے لیے بقایا پیٹنگی رقم، دو مساوی قسطوں میں ادا کی جاسکتی ہے۔ بشرطیکہ قواعد کے تحت دوسری شرائط پوری کر دی گئی ہوں۔

۱۵۔ مکان کی تعمیر کے سلسلے میں پیٹنگی رقم کی بازیابی جو ملازم نے سی۔ ڈی۔ اے کو زمین کی خریداری کے لیے ادا کی ہیں (اور وہ بقایا رقم بھی جو سی۔ ڈی۔ اے کو واجب الادا ہے) ۴۰ ماہ قسطوں میں کی جائے۔ بازیابی کی شرح کو اس وقت تک نہ بڑھایا جائے جب تک کہ سرکاری ملازم مکان کی تعمیر کے لیے مزید قسطیں وصول نہ کر لے۔ جب مکان کی تعمیر کے لیے قسطیں وصول کر لی جائیں تو رقم کی بازیابی کو اس طرح سے منضبط کیا جائے کہ پیٹنگی کی کل رقم اور اس پر سود ۴۰ ماہ سال کے اندر وصول ہو جائے اور وصولی کا حساب اس تاریخ سے لگایا جائے جب سے پیٹنگی کی بازیابی شروع کی گئی تھی، اس ۱۰ سال کی مدت کو مناسب طریقے سے موجودہ قواعد کے مطابق کم کر دیا جائے۔ ان سرکاری ملازموں کے معاملوں میں جن کی عمر پیٹنگی کی بازیابی کی تاریخ کو یا اس سے پہلے ہی ۴۵ سال ہو

گئی ہو تاکہ پیشگی کی تمام رقم مع سود ملازم سے فرغ خدمتی کی تاریخ سے پہلے ہی وصول کی جاسکے۔

۲۱- مندرجہ بالا رعایت ان سرکاری ملازموں کو نہیں دی جائے گی، جنہوں نے اسلام آباد کے علاوہ دوسرے مقامات پر تعمیر مکانات کے لیے پیشگی رقم حاصل کی ہو۔

۲۲- سرکاری ملازم مکان کی تعمیر کے لیے پیشگی رقم پاکستان میں کسی بھی جگہ کے لیے (جزوی یا کُل حصہ) اپنے عمومی کفالتی سرمایہ کی اس رقم سے جو اس میں موجود ہوں، مندرجہ ذیل شرائط پر حاصل کر سکتا ہے۔

(۱) پیشگی رقم چندہ دہندہ کی ۳۶ ماہ کی تنخواہ یا اس کے فنڈ کا ۸۰ فی صد، جو بھی کم ہو، سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔

(۲) زمین اور مکان صدر کے نام پیشگی رقم کی وصولی کے تین ماہ کے اندر رہن رکھا جائے اور رہن رکھنے کے چار ماہ کے اندر اسے رجسٹر کر دینا چاہیے۔

(۳) رقم کی بازیابی چندہ لینے والے کی تنخواہ کے ۷ فی صد کے حساب سے ہوگی اور یہ پہلی قسط کی وصولی کے بعد چوتھی تنخواہ سے کی جائے گی، جہاں پیشگی رقم کا کچھ حصہ حکومت سے اور کچھ حصہ عمومی کفالتی سرمایہ سے لیا گیا ہو تو عمومی کفالتی سرمایہ کے حصے کی بازیابی حکومت سے حاصل کیے ہوئے قرض مع سود کی مکمل بازیابی کے فوراً بعد شروع ہوگی۔

(۴) اگر چندہ دینے والا لازمی فارغ خدمتی کی عمر کو پیشگی رقم کی منظوری کے دس سال کے اندر پہنچنے والا ہو تو اسے اس کے عمومی کفالتی سرمایہ سے پاکستان میں کسی بھی جگہ پر مکان کی تعمیر کے لیے پیشگی رقم دی جائے۔ اس زمین پر جو اس کے نام یا اس کی بیوی اور بچوں کے نام ہو یا دونوں میں کسی ایک کے نام ہو اس پیشگی رقم پر پیشگی وصول کرنے والے سے کوئی بازیابی نہیں کی جائے گی اور اسے اس رقم کا جو اس کے کھاتے میں جمع ہے کی آخری ادائیگی کا حصہ سمجھا جائے گا، وہ زمین اور مکان جو اس پر تعمیر ہو وہ صدر کے نام رہن نہیں رکھا جائے گا۔ پہلی

قسط اس وقت ہی ادا کی جائے گی جب پیشگی حاصل کرنے والا مجوزہ فارم پر معطلہ کر لے گا۔ اگر زمین یا اس پر تعمیر شدہ مکان کو فروخت کیا جاتا ہے یا پھر اس مکان کا مالک، مکان کو کسی اور شخص کو منتقل کر دیتا ہے جبکہ وہ ابھی ملازمت میں ہے تو اسے فوراً ہی تمام پیشگی رقم مع سود یکمشت سرمائے میں واپس کرنی ہوگی۔

۱۸- تعمیر مکان کے لیے پیشگی رقم، عارضی سرکاری ملازم کو بھی مندرجہ ذیل پر منظور کی جاسکتی ہے۔

(۱) عارضی سرکاری ملازم نے کم از کم ۱۰ سال مسلسل ملازمت مکمل کر لی ہو۔
بنیادی پیمانہ تنخواہ ایک اور ۲ کے عارضی سرکاری ملازم، عارضی ملازمت کی مدت سے قطع نظر پیشگی حاصل کرنے کے اہل ہوں گے۔

(۲) محلے کے سربراہ کو یہ تصدیق کرنا ہوگی کہ متعلقہ سرکاری ملازم کی ملازمت کے ختم ہونے کا اس عرصے میں کوئی امکان نہیں جو پیشگی رقم کی بازیابی کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔

(۳) دو مستقل سرکاری ملازموں کی ضمانت (جن کے مکان کے تعمیر ہونے تک اور اس کے رہن رہنے تک) فارغ خدمتی امکان نہیں، پیش کی جائے گی اور وہ اس وقت واپس ہوگی جب مکان تعمیر ہو جائے اور سرکار کے نام رہن رکھ دیا جائے۔

(۴) جہاں کہ زمین پہلے سے حاصل شدہ ہو تو اسے پیشگی رقم کی منظوری سے پہلے رہن رکھ دیا جائے، مع اس مکان کے جو اس پر تعمیر ہونا ہے۔

(۵) اگر پیشگی رقم زمین کی خرید کے لیے ضروری ہو تو اس کی پہلی قسط مجموعی رقم کی ۲۵ فی صد یا زمین کی اصل قیمت تک دونوں میں جو بھی کم ہو، محدود رہنی چاہیے۔

(۶) متعلقہ سرکاری ملازم کو تصدیق نامہ، متعلقہ تعمیر مکان کی سوسائٹی امپرومنٹ ٹرسٹ یا سی۔ ڈی۔ اے وغیرہ سے حاصل کر کے پیش کرنا چاہیے کہ زمین اسے

ہی متعین کی گئی ہے۔ اس میں زمین کی قیمت اور تعین کے فوراً بعد قسط کی جو رقم ادا کرنا ہوگی وہ بھی واضح کرنی چاہیے۔

۱۹۔ اگر کوئی عارضی سرکاری ملازم اپنے عمومی کفالتی سرمایہ سے تمام پیشگی رقم تعمیر مکان کے لیے حاصل کرنا چاہے تو اسے مندرجہ ذیل شرائط کے ساتھ منظوری دی جاسکتی ہے:

(الف) متعلقہ عارضی سرکاری ملازم نے کم از کم ۵ سال کی مسلسل ملازمت مکمل کر لی ہے۔

(ب) محکمے کے سربراہ کی طرف سے ایک تصدیق نامہ پیش کیا جائے کہ رقم کی بازیابی کے لیے جو مدت مقرر کی گئی ہے اس میں ملازم کی ملازمت کے ختم ہونے کا کوئی امکان نہیں اور

(ج) دو مستقل سرکاری ملازموں کی طرف سے ضمانت۔

۲۰۔ مکان کی تعمیر کے لیے پیشگی رقم پر نظر ثانی کی اجازت ہے اگر درج ذیل شرائط پوری ہو جائیں۔

(۱) تنخواہ میں اضافہ ہو ماسوائے اوقاتی پیمانے میں اضافے کی وجہ سے جو ۲۰ فی صد سے کم نہ ہو۔

(۲) نظر ثانی شدہ منظوری کے تحت جو کل رقم ادا کی جانی ہو، وہ اصل رقم کے تسویہ کے بعد نکالی جائے۔ خواہ وہ رقم یا اس کا کچھ حصہ دوبارہ ادا کر دیا گیا ہو یا نہیں۔

(۳) بازیابی کی قسطوں کو دوبارہ مقرر کیا جائے گا۔ اس طرح کہ مجموعی رقم کی بازیابی اس رقم کو منہا کر کے جو بازیاب ہو چکی ہو اس سے زیادہ سے زیادہ مدت کے اندر جو اولاً مقرر کی گئی تھی کر لی جائے۔

(۴) نظر ثانی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ وہ واقعہ جس کی وجہ سے سرکاری ملازم نظر ثانی کا حقدار ہو مکان کی تعمیر کے لیے پیشگی کی پہلی قسط کی وصولی کی تاریخ سے مکان کے مکمل ہونے کی طے شدہ مدت ۳ ماہ کے اندر پیش

آجائے۔ اس قسط سے الگ جو ترقیاتی اخراجات کے لیے دی گئی ہو۔

(۷) اگر مکان مکمل ہو چکا ہو اور اس میں کوئی رہائش پذیر ہو تو نظر ثانی کی اجازت نہیں دی جاسکتی۔

(۸) اگر رہن کی دستاویز کی تعمیل اور رجسٹری، اس پیشگی کے سلسلے میں جو پہلے منظور ہوئی تھی، ہو گئی ہو تو رہن رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ عمومی قواعد مالیات کے فارم نمبر ۳۳ پر الگ سے رہن کی دستاویز تیار کرائے۔ یہ نئی رہن کی دستاویز کو رجسٹریشن ایکٹ کے تحت رجسٹر بھی کروانا ہو گا۔

۲۹۔ سواری کی خریداری کے لیے پیشگی

سرکاری ملازموں کو سواری خریدنے کے لیے بھی پیشگی رقم ادا کی جاسکتی ہے، بشرطیکہ حاکم مجاز کو یہ اطمینان ہو جائے کہ سرکاری ملازم کے لیے سواری کا رکھنا سرکاری خدمت کے مفاد میں ہو گا۔ پیشگی کی منظوری وزارتوں اور محکموں کے سربراہ دے سکتے ہیں۔

۳۰۔ موٹر کار خریدنے کے لیے پیشگی

۱۔ سرکاری ملازم جو ۵۰۸۵ روپے ماہوار یا اس سے زیادہ تنخواہ پا رہا ہو، اسے موٹر کار خریدنے کے لیے پیشگی رقم مل سکتی ہے۔ حکومت پاکستان کے وزیر کو بھی پیشگی رقم دی جاسکتی ہے، لیکن اسے عمدہ چھوڑنے کی صورت میں اگر بازیابی مکمل نہ ہوئی ہو تو بقایا تمام رقم مع سود یکمشت ادا کرنی ہوگی۔ کل رقم جو بطور پیشگی منظور کی جائے وہ ہر صورت میں سرکاری ملازم کی ۱۸ ماہ کی تنخواہ سے زیادہ نہ ہو جو زیادہ سے زیادہ پیشگی کی رقم ایک لاکھ ہوگی یا کار کی متوقع قیمت جو بھی کم ہو۔ اگر کار کی اصل قیمت پیشگی رقم سے کم ہو تو ملازم کو چاہیے کہ فوراً بقایا رقم حکومت کو واپس کر دے۔

ایسے سرکاری ملازم جو پیشگی رقم انگلستان میں حاصل کریں تو ان کے لیے کار کا

پاکستانی بندرگاہ تک کا جہاز کا کرایہ جو واقعی ادا کیا گیا کار کی دوران بحری سفر بیسے کی لاگت اور پاکستان میں اس پر کسٹم کی رقم کو بھی کار کی اصل قیمت میں شمار کیا جائے گا۔

۲۔ جب ایسے سرکاری ملازم کے لیے جس کی پیشگی رقم کی منظوری ہو، جو رخصت پر ہو یا وہ رخصت پر جانے والا ہو تو اسے پیشگی رقم کی ادائیگی رخصت ختم ہونے سے کم از کم ایک ہفتہ قبل تک نہ کی جائے، لیکن اگر وہ پاکستان سے باہر براہ ہندوستان، سری لنکا یا نیپال چھٹی پر ہو یا ایسی چھٹی پر جانے والا ہو تو اسے پیشگی رقم پاکستان کے لیے روانگی سے چھ ہفتے قبل برطانیہ میں پاکستانی سفارت خانہ سے وصول کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے، لیکن ایسا سرکاری ملازم جو پاکستان سے باہر مستعار الخدمتی پر ہو اور اس کے دوران کار استعمال کے لیے خریدنا چاہتا ہو تو اسے کار خریدنے کے لیے پیشگی رقم قبول نہیں کی جاسکتی۔

۳۔ پیشگی رقم کی بازیابی کی ابتدا اس پہلی تنخواہ سے ہوگی جو پیشگی حاصل کرنے کے بعد ملے گی۔ یہ بازیابی پورے روپے میں ہوگی اور ۶۰ مساوی قسطوں میں مکمل ہوگی۔ اگر سرکاری ملازم چاہے تو یہ بازیابی کم قسطوں میں بھی ہو سکتی ہے۔ اس پر سو ایک یا ایک سے زیادہ قسطوں میں وصول کیا جائے گا اور اس قسط کی رقم اصل زر کی قسط سے زیادہ نہ ہوگی۔ سو کی بازیابی اس ماہ کے فوراً بعد کے مہینے سے شروع کی جائے گی، جس ماہ اصل زر کی قسط مکمل ہو جاتی ہے۔

۴۔ اگر کار کی پیشگی رقم کی بازیابی مکمل نہ ہوئی ہو اور سرکاری ملازم اس کار کو جو پیشگی رقم کی مدد سے خریدی گئی ہے، فروخت کرنا چاہے تو اسے فروخت کرنے کے لیے حاکم مجاز سے اجازت لینی ہوگی۔ کار جو اس طریقے سے خریدی گئی ہو وہ کسی دوسرے سرکاری ملازم کو حاکم مجاز کی پیشگی اجازت سے منتقل کی جاسکتی ہے، اگر اول الذکر ملازم کے لیے کار رکھنا سرکاری خدمت کے مفاد میں ہے اور وہ ملازم یہ تحریری بیان میں دے کہ یہ اس کے علم میں ہے کہ کار جو اسے منتقل کی

گئی ہے وہ بشرط رہن ہے اور وہ ان تمام شرائط و ضوابط کا پابند رہے گا، جو رہن کے معاہدے میں موجود ہیں۔

ان تمام معاملوں میں جہاں کار کو فروخت کرنے کی تجویز ہو اور اس کی اصل پیشگی رقم اور سود کی بازیابی مکمل نہ ہوئی ہو تو وہ رقم جو کار بیچ کر حاصل ہوگی اسے کار کی باز دہی پر صرف کیا جائے۔ اگر کار کو اس خیال سے فروخت کرنا ہو کہ اس قیمت سے دوسری کار خریدنی ہے تو حاکم مجاز اس بات کی اجازت دے سکتا ہے کہ کار کی فروخت سے جو رقم وصول ہو اسے دوسری کار خریدنے پر ان شرائط کے تحت استعمال کیا جائے۔

(۱) غیر ادا شدہ رقم کو نئی کار کی قیمت سے بڑھنے نہیں دینا چاہیے۔
(۲) غیر ادا شدہ رقم کی اسی شرح سے باز دہی کی جائے جو شرح پہلے طے پا چکی ہو۔

(۳) نئی کار بھی حسب دستور رہن رکھی جائے گی اور اس کا حسب معمول بیمہ بھی کروایا جائے گا۔

۵۔ جب سرکاری ملازم پیشگی رقم وصول کر لے تو توقع کی جاتی ہے کہ وہ کار کی خرید کے سلسلے میں تمام بات چیت اور ادائیگی پیشگی رقم کی وصولی کی تاریخ سے ایک ماہ کے اندر پوری کر دے گا۔ اگر ایسا نہ کیا گیا تو تمام رقم مع سود حکومت کو فوراً واپس کرنی ہوگی۔ سوائے ایسی صورت کے کہ حاکم مجاز نے اس کو مدت میں توسیع منظوری کر دی ہو۔

۶۔ پیشگی رقم کی وصولی کے وقت سرکاری ملازم کو ایک معاہدہ فارم عمومی قواعد مالیات نمبر ۱۹ پر کرنا ہو گا۔ افسر مختار کو چاہیے کہ وہ اس معاہدے کی چھان بین کرے اور مل پر یہ تصدیق کرے کہ معاہدہ ہر طرح سے درست ہے۔ جب کار کی خریداری مکمل ہو جائے تو سرکاری ملازم کو رہن کی دستاویز فارم عمومی قواعد مالیات ۱۹ پر تیار کر کے کار صدر پاکستان کے نام بطور ضمانت رہن رکھی جائے۔

کار کی قیمت خرید کا اندراج رہن کی دستاویز کے ساتھ منسلک تصریح کے جدول میں کیا جائے۔ جو محفوظ جگہ پر افسر منظوری کی تحویل میں اس وقت تک رکھا جائے جب تک پیشگی کی بازیابی مکمل نہ ہو جائے، پھر اس دستاویز کو منسوخ کر کے متعلقہ سرکاری ملازم کو اس وقت واپس کیا جائے جب ”ناظم اعلیٰ حسابات“ پوری ادائیگی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے۔

۷۔ پیشگی کی وصولی کے وقت سرکاری ملازم کو ایک معاہدہ فارم عمومی قواعد مالیت نمبر ۱۲ پر کرنا ہو گا۔ افسر مختار کو چاہیے کہ وہ اس معاہدے کی چھان بین کرے اور بل پر یہ تصدیق کرے کہ معاہدہ ہر طرح سے درست ہے، جب کار کی خریداری مکمل ہو جائے تو سرکاری ملازم کو رہن کی دستاویز فارم عمومی قواعد مالیات۔ ۱۷ پر تیار کر کے کار صدر پاکستان کے نام بطور ضمانت رہن رکھی جائے۔ کار کی قیمت خرید کا اندراج رہن کی دستاویز کے ساتھ منسلک تصریح کے جدول میں کیا جائے، جو محفوظ جگہ پر افسر منظوری کی تحویل میں اس وقت تک رکھا جائے جب تک پیشگی کی بازیابی مکمل نہ ہو جائے۔ پھر اس دستاویز کو منسوخ کر کے متعلقہ سرکاری ملازم کو اس وقت واپس کیا جائے جب ”ناظم اعلیٰ حسابات“ پوری ادائیگی کا سرٹیفکیٹ جاری کر دے۔

۸۔ کار کا آگ سے مکمل نقصان، پوری اور حادثات سے محفوظ رکھنے کے لیے بیمہ کروایا جائے۔ یہ جاج بیمہ پالیسی ہونی چاہیے نہ کہ بیمہ فریق ثالث وغیرہ۔ کار کی خرید کے ایک ماہ کے اندر بیمہ موثر ہونا چاہیے۔

۹۔ البتہ اگر پرانی کار خریدی جائے تو اس صورت میں بیمہ فریق ثالث کرانے کی اجازت ہوگی، بشرطیکہ سرکاری ملازم درج ذیل کی ضمانت دے۔

(۱) اگر گاڑی کو کوئی نقصان پہنچے یا وہ گم ہو جائے تو وہ پیشگی رقم کی غیر ادا شدہ رقم کے سلسلے میں کسی قسم کی تخفیف، امداد یا رعایت طلب نہیں کرے گا۔

(۲) سرکاری ملازم کے انتقال کی صورت میں ”بقایا جات“ اس کے انعامیہ ویشن یا اس کے ورثا کو دیگر واجب الادا رقوم سے وصول کیے جائیں گے۔

۱۰۔ گاڑی کی خرید کے ایک ماہ کے اندر اندر بیمہ موثر یا نافذ العمل ہو جانی چاہیے۔

۱۱۔ جیسے ہی خریداری مکمل ہو جائے، رہن کی دستاویز تیار ہو جائے اور بیمہ نافذ العمل ہو جائے تو مندرجہ ذیل دستاویزات، ناظم اعلیٰ حسابات کو پیش کی جائیں۔

(۱) فروخت کنندہ کی رسید

(۲) رہن کا معاہدہ

(۳) بیمہ نامہ

(۴) ایک خط فارم عمومی مالیاتی قواعد۔ ۱۸ پر

حساب دار اعلیٰ مندرجہ بالا دستاویزات علاوہ آخری دستاویز کی جانچ پڑتال کرے گا اور ان کو منظوری دینے والے افسر کو مزید کارروائی کے لیے واپس کر دے گا۔ فارم عمومی مالیاتی قواعد۔ ۱۸ پر جو خط ہو گا۔ وہ حساب دار اعلیٰ بیمہ کمپنی کو بھیج دے گا، تاکہ اسے اس کا علم ہو جائے کہ صدر پاکستان کی خواہش ہے کہ بیمہ پالیسی محفوظ رہے۔

۱۲۔ وہ سرکاری ملازم جو ملازمت خارجہ میں ہوں انہیں بھی کار خریدنے کے لیے خارجی آجر سے اس کی اپنی رقم سے پیشگی رقم مل سکتی ہے، لیکن اس کی منظوری حکومت دے گی، لیکن اگر خارجی آجر کی مالی حالت اس کی اجازت نہ دے تو پیشگی رقم حکومت دے سکتی ہے۔

۱۳۔ موٹر کار خریدنے کے لیے دوسری بار پیشگی ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ خواہ پہلے پیشگی کی کل رقم اور اس پر سود دونوں پورے ادا کیے جا چکے ہوں۔

(وزارت خزانہ دفتری یادداشت نمبر ۸ (۳)۔ آر۔ ۷۷۹-۸۳۹ مورخہ ۱۹-۷-۱۹۸۳)

۳۱۔ موٹر سائیکل خریدنے کے لیے پیشگی

موٹر سائیکل خریدنے کے لیے پیشگی کی منظوری ان سرکاری ملازموں کو دی جا

سکتی ہے جو ۱۹۵۱ روپے اور ۵۰۸۳ روپے ماہوار کے درمیان تنخواہ پاتے ہوں۔
پیشگی کی رقم سرکاری ملازم کی ۱۸ ماہ کی تنخواہ ۳۵ ہزار روپے یا موٹر سائیکل کی متوقع
قیمت جو بھی کم ہو سے زیادہ نہ ہو۔ دیگر شرائط وہی رہیں گی جو موٹر کار کے سلسلے میں
ہیں۔

۲۲۔ بائیکل خریدنے کے لیے پیشگی

بائیکل خریدنے کے لیے پیشگی رقم ان مستقل، عارضی سرکاری ملازموں کو جو
۱۹۵۰ روپے ماہوار سے زیادہ تنخواہ نہ پا رہے ہوں، مندرجہ ذیل شرائط کے تحت مل
سکتی ہے۔

(i) پیشگی رقم ان وفاقی ملازمین کو مل سکے گی جو اپنی ملازمت کی جگہ سے ایک
میل سے زیادہ فاصلے پر رہتے ہوں۔

(ii) پیشگی رقم ۲۰۰۰ روپے سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔

(iii) پیشگی کی بازیابی مستقل سرکاری ملازموں سے ۳۸ قسطوں میں اور عارضی
ملازموں سے ۳۰ قسطوں میں ہوگی۔

(iv) عارضی سرکاری ملازموں کو چاہیے کہ وہ کسی مستقل سرکاری ملازم کی
ذمات پیش کریں۔ بنیادی بیانہ تنخواہ ۲۱ کے صرف ان عارضی سرکاری ملازمین
کو پیشگی رقم مل سکے گی جن کی مدت ملازمت کم از کم ۳ سال ہو۔

(v) منظوری دینے والے افسر کو اس بات کا اطمینان کر لینا چاہیے کہ سرکاری
ملازم اس وقت تک ملازمت میں رہے گا جب تک کہ پیشگی کی کھل بازیابی نہ ہو
جائے۔ اگر سرکاری ملازم، ملازمت چھوڑ دیتا ہے، تو پیشگی کی بازیابی یکمشت ہو
گی۔

(vi) منظوری دینے والے افسر کو اس بارے میں بھی تسلی کر لینی چاہیے کہ
پیشگی رقم سائیکل کی خرید پر ہی صرف کی گئی ہے اور

(vii) دوسری پیشگی رقم اس وقت تک وصول نہیں کی جاسکتی جب تک پہلی

پیشگی کو ادا کیے تین سال پورے نہ ہو جائیں۔

۲۳۔ تبادلہ کی صورت میں پیشگی

۱۔ سرکاری ملازم جو زیر تبادلہ ہو اسے پیشگی تنخواہ کی اجازت ہے جو اس کی ایک
ماہ کی تنخواہ سے زائد نہ ہو۔ اسے مروجہ قواعد کے تحت سفری الاؤنس کے لیے
بھی پیشگی رقم ادا کی جاسکتی ہے۔ ایسی پیشگیوں کے ٹھکے کا سربراہ یا کوئی اور افسر
جسے اس سلسلے میں اختیار دیا گیا ہو، منظوری دے سکتا ہے۔ ایسا حاکم مجاز اپنے
لیے بھی پیشگی رقم منظور کر سکتا ہے۔ سرکاری ملازم جو رخصت پر ہو، اگر اس کا
تبادلہ کر دیا جائے تو اسے بھی پیشگی مل سکتی ہے۔ تنخواہ کی پیشگی نئے ملازم کو
دوسری بار سفری الاؤنس ادا کرنے میں کوئی اعتراض نہیں۔ اگر اس کے خاندان
کے کسی فرد نے تبادلہ کے وقت اس کے ہمراہ سفر نہ کیا ہو لیکن اسے بعد میں ۶
ماہ کے اندر اندر اس کے پاس پہنچنا ہو۔

۲۔ ان پیشگیوں کا اندراج ملازم کے تصدیق نامہ آخری تنخواہ میں کیا جائے۔
تنخواہ کی پیشگی کی بازیابی تین مساوی اقساط میں کی جائے گی اور یہ بازیابی اس ماہ
سے شروع کی جائے گی جب ملازم اپنی نئی ملازمت پر پورے ماہ کی تنخواہ یا
رخصت کی تنخواہ وصول کرے گا۔ سفری الاؤنس کی پیشگی کا تسویہ اگر خاندان کا
کوئی فرد بعد میں آنے والا ہو تو جزوی طور پر کیا جائے گا اور دوسرا سفری الاؤنس
مل پیش کیا جاسکتا ہے۔

۲۴۔ دورے کے دوران سفر کے لیے پیشگی

۱۔ دورے کے سلسلے میں بنیادی بیانہ تنخواہ اسے ۱۵ تک کے سرکاری ملازموں کو
سفری الاؤنس کی صورت میں حاکم مجاز کی منظوری سے پیشگی مل سکتی ہے۔ پیشگی
کی رقم اتنی ہونی چاہیے کہ ملازموں کے ایک ماہ کے دوران ذاتی سفری اخراجات
کو پورا کر سکے۔ بنیادی بیانہ تنخواہ ۱۶ اور اس سے اوپر کے ملازموں کو بھی پیشگی

رقم دی جا سکتی ہے۔ اگر وہ لمبی مدت اور زیادہ اخراجات والے دوروں پر روانہ ہوں اور دوران سفر اخراجات اتنے زیادہ ہوں جو ذاتی حیثیت میں ان کے لیے قابل برداشت نہ ہوں، لہذا پیشگی رقم اتنی ہونی چاہیے کہ ان کے ایک ماہ کے اخراجات کو پورا کر سکے۔

۲۔ حاکم مجاز جو پیشگی کی منظوری دے سکے وہ اپنے لیے بھی پیشگی کی منظوری کر سکتا ہے۔

۳۔ پیشگی رقم کا تسویہ، سفری الاؤنس مل کے ذریعے صدر مقام پہنچنے ہی کرنا چاہیے یا پھر ۳۰ جون کو جو بھی پہلے آتا ہو۔ دوسری پیشگی کی اجازت اس وقت تک نہیں دی جائے گی جب تک پہلی پیشگی کی رقم کا تسویہ نہیں ہو جاتا۔ اگر کسی سرکاری ملازم کو پیشگی کسی خاص سفر کے لیے دی گئی ہو تو اس سفر کے سفری الاؤنس مل تو اس وقت تک محاسبہ کے لیے وصول نہیں کیا جائے گا جب تک اس مقصد کے لیے لی گئی پیشگی کا تسویہ مناسب انداز میں نہ ہو جائے۔

باب ۱۳

بنیادی قواعد

۱۔ پہلے تقرر پر تصدیق نامہ صحت پیش کرنا (بنیادی قاعدہ۔ ۱۰)

۱۔ کسی شخص کا پاکستان میں سرکاری ملازمت میں کسی بھی اسامی پر تصدیق نامہ صحت کے بغیر تقرر نہیں ہو سکتا۔ یہ تصدیق نامہ پہلی تنخواہ کے مل پر چسپاں کرنا لازمی ہے۔ جو افسر محاسبہ یا افسر خزانہ کو جیسی بھی صورت ہو، پیش کیا جائے گا۔ مقامی حکومتیں اپنے طور پر قواعد بنا سکتی ہیں۔ ایسے فارم کی وضاحت کے لیے جس پر تصدیق نامہ صحت تیار کیا جائے اور یہ کہ کون سا خاص طبی افسر اس پر دستخط کرے۔ ایک مقامی حکومت انفرادی معاملوں میں اس تصدیق نامے کے پیش کرنے کو صرف نظر کر سکتی ہے اور عام احکام کے ذریعے سرکاری ملازموں کی مخصوص جماعت کو ان قواعد سے مستثنیٰ کر سکتی ہے۔

۲۔ جب کسی شخص سے ایک بار یہ کہہ دیا جائے کہ وہ تصدیق نامہ صحت پیش کرے اور اس کا واقعی طبی معائنہ ہو جائے اور اسے طبی طور پر ناموزوں قرار دیا جائے تو مقامی حکومت کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی صوابدید استعمال کرے اور اس تصدیق نامے کو جو پیش کیا گیا ہے، نظر انداز کر دے۔

۲۔ ملازمت کے دوران طبی معائنہ۔ (بنیادی قاعدہ ۱۰۔ ایف)

۱۔ کوئی حاکم مجاز جو کسی اسامی کو جس پر ایک سرکاری ملازم کام کر رہا ہے، پر کرنے کا مجاز ہو، اور اس کی رائے یہ ہو کہ سرکاری ملازم کسی ایسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنے فرائض مناسب اور احسن طریقے سے ادا کرنے کے لیے نااہل ہے یا اس کی بیماری کی وجہ سے دوسرے سرکاری ملازموں کی صحت کو بھی خطرہ پیدا ہونے کا امکان ہو تو ایسی صورت میں متعلقہ سرکاری ملازم کو مجاز طبی افسر کے سامنے اپنے طبی معائنہ کے لیے پیش ہونے کا حکم دے سکتا ہے۔

۲۔ اگر متعلقہ طبی حاکم مجاز سرکاری ملازم کا معائنہ کرنے کے بعد یہ تصدیق کر دے کہ اسے آرام اور علاج کے لیے کچھ مدت کے لیے خدمت سے غیر حاضر رہنا ہو گا اور اس ملازم کی صحت یابی کا کافی امکان ہے۔ تو افسر مجاز اس رخصت بشمول غیر معمولی رخصت اس مدت کے لیے جس کی طبی حاکم مجاز نے سفارش کی ہو منظور کر سکتا ہے۔ یہ رخصت اسے عطا کر دی جائے گی اور اگر وہ منظوری کے قابل ہو اور سرکاری ملازم کو اس طریقے پر رخصت مل سکتی ہے جس کے لیے سرکاری ملازم نے رخصت درخواست دی ہو۔

۳۔ اگر مجاز طبی افسر سرکاری ملازم کا طبی معائنہ کرنے کے بعد یہ تصدیق کر دے کہ وہ مستقل طور پر ملازمت کرنے سے معذور ہے تو سرکاری ملازم کو فوراً اس کے فیصلے سے آگاہ کر دینا چاہیے۔ سرکاری ملازم چاہے تو مجاز طبی افسر کے فیصلے سے متعلق اطلاع ملنے کے ساتھ دن کے اندر اندر ناظم اعلیٰ (صحت) کو طبی فیصلے پر نظر ثانی کے لیے دوسرا طبی بورڈ قائم کرنے کی درخواست دے سکتا ہے۔ ایسی درخواست کے ساتھ فیس بھی ادا کرنی ہوگی جس کی رقم کا تعین ناظم اعلیٰ (صحت) کرے گا۔

اس کے بعد ناظم اعلیٰ (صحت) کو چاہیے کہ وہ نظر ثانی کے لیے طبی بورڈ کا

اجلاس کرے جس کے ممبر وہ ہوں جو پہلے طبی بورڈ میں شامل نہ ہوں، اگر نظر ثانی کرنے والا بورڈ بھی یہ تصدیق کر دے کہ سرکاری ملازم مزید خدمت کرنے سے معذور ہے تو متعلقہ افسر مجاز کو چاہیے کہ وہ طبی بورڈ کے فیصلے کی روشنی میں سرکاری ملازم کو خدمت سے فوراً فارغ کر دے اور اسے معذوری کی پنشن یا انعامیہ ادا کرے یا دونوں جیسا کہ قواعد کے مطابق اسے واجب ہوں، یہ اس طرح دی جائے کہ سرکاری ملازم نے از خود معذوری کی پنشن کے لیے درخواست دی ہو۔

۴۔ اگر نظر ثانی کرنے والے طبی بورڈ کی رائے یہ ہو کہ سرکاری ملازم ملازمت کے اہل ہے تو اسے فوراً ہی ملازمت پر بحال کیا جائے اور اس کی غیر حاضری کو ملازمت پر مامور تصور کیا جائے۔

تاہم اگر بورڈ اس امر کی تصدیق کر دے کہ سرکاری ملازم ملازمت کے قابل نہیں ہے لیکن اس کے صحت یاب ہونے کا معقول امکان ہے تو اسے وہ رخصت دے دی جائے جس کی بورڈ نے سفارش کی ہو اور وہ اس رخصت کا استحقاق رکھتا ہو۔

۵۔ اگر سرکاری ملازم پہلے طبی بورڈ کے فیصلے کی سرکاری اطلاع ملنے کے سات دن کے اندر اندر فیصلے پر نظر ثانی کے لیے درخواست نہ دے تو افسر مجاز اسے کسی بھی وقت فارغ خدمت کر سکتا ہے اور اس معذوری کی پنشن یا انعامیہ یا دونوں جو قواعد کی رو سے اسے مل سکتے ہوں، دے سکتا ہے۔

۳۔ کل وقتی ملازمت: (بنیادی قاعدہ: ۱۱)

سرکاری ملازم ہمہ وقت سرکار کے تصرف میں ہے جو اسے تنخواہ دیتی ہے سوائے اس کے کہ اس کے خلاف مقرر ہو۔ اس سے کسی نوعیت کا کام جو افسر مجاز چاہے، لے سکتا ہے اور اس کے عوض اسے اس کا کوئی اضافی معاوضہ نہیں ملے گا۔ اس بات سے قطع نظر کہ اس کی خدمت کا معاوضہ اسے عام محاصل سے یا

مقامی فنڈ سے ادا کیا جاتا ہے۔

۴۔ حق عود (بنیادی قواعد: ۱۳ تا ۱۵)

۱۔ حق عود (ملازمت) سے مراد یہ ہے کہ سرکاری ملازم کا کسی مستقل اسامی پر اسامی (مستقل) حیثیت سے فائز ہونا۔

۲۔ قواعد کے مطابق دو یا دو سے زیادہ سرکاری ملازمین کا اسامی طور پر ایک ہی مستقل اسامی پر ایک وقت میں تقرر نہیں کیا جاسکتا۔ اسی طرح ایک سرکاری ملازم سوائے اس کے کہ یہ عارضی اقدام ہو ورنہ ایک وقت میں دو یا دو سے زائد مستقل اسامیوں پر اس کا تقرر نہیں کیا جاسکتا۔ کسی اور ملازم کو اس اسامی پر مستقل حیثیت میں نہیں رکھا جاسکتا جس پر کوئی سرکاری ملازم پہلے سے حق عود رکھتا ہو۔

۳۔ عام طور سے کسی مستقل اسامی پر ایک ہی شخص مستقل حیثیت میں مامور ہوتا ہے۔ جب کسی سرکاری ملازم کا کسی مستقل اسامی پر اسامی (مستقل) حیثیت میں تقرر ہوتا ہے تو اس اسامی پر وہ حق عود حاصل کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا پہلے سے موجود حق عود جو کسی اور اسامی پر اسے حاصل تھا، خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ انتظامی نقطہ نظر سے جب سرکاری ملازم کو کسی اسامی پر مستقل کرنے کی تجویز زیر غور ہوتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ وہ یہ تحریری درخواست دے کہ وہ کسی اور مستقل اسامی پر اپنا حق عود ختم کرنے کے لیے رضامند ہے جس پر وہ اسامی (یا مستقل) حیثیت سے کام کر رہا تھا۔

۴۔ جب تک اس کے حق عود کو معطل یا اس کا تبادلہ نہیں کیا جاتا۔ سرکاری ملازم جو مستقل اسامی پر اسامی طور پر فائز ہے وہ اپنا حق عود اس اسامی پر درج ذیل حالات میں برقرار رکھے گا۔

(الف) جب کہ وہ اس اسامی کے فرائض سرانجام دے رہا ہو۔

(ب) جبکہ وہ ملازمت خارجہ میں ہو یا عارضی اسامی پر ہو یا کسی اور اسامی پر

قائم مقامی کر رہا ہو۔

(ج) کسی اور اسامی پر تبادلے کے وقت مہلت حاضری کے دوران سوائے اس کے کہ اس کا تبادلہ مستقل طور پر کسی کم تنخواہ کی اسامی پر ہو گیا ہو، اس صورت میں اس کا حق عود سبکدوشی کی تاریخ سے زیریں اسامی پر منتقل ہو جائے گا اور (د) جبکہ وہ زیر منتقل ہو۔

۵۔ اگر سرکاری ملازم کو کسی دوسرے دفتر میں مستعاراً مہدمت پر بھیجا جائے تو وہ اپنی مستقل ملازمت پر اپنے اصل محکمے میں حق عود رکھتا ہے اور اس طرح وہ تنخواہ، رخصت اور پنشن وغیرہ کے معاملے میں حکومت مستقر کے قواعد سے منضبط ہو گا۔ مسلسل حکومت معیر کے ساختہ قواعد کے انضباط پر رہے گا جسے اسے واپس بلانے کا حق ہو گا۔ اس لیے حکومت مستقر کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ مستقر حکومت کے مشورے سے زیر مواخذہ اس کی ملازمت کی شرائط طے کرنے اور ان شرائط میں مستقر حکومت بغیر پہلے سے حکومت مستقر سے مشورہ کر کے کوئی تبدیلی نہیں کرے گی۔ اس اصول کے مطابق موافقی اور صوبائی حکومتوں کے درمیان اور آپس میں صوبائی حکومتوں کے درمیان یہ ایک روایت قائم ہو گئی ہے کہ حکومت مستقر سے مشورہ کے بغیر کسی ملازم کی تنخواہ میں اضافہ یا اسے ملازمت میں یا دوسری توقعات میں بہتری کی پیش کش نہیں کی جائے گی۔

۶۔ فوج کے "پاکستان ریرو" میں افسر جو مرکزی حکومت میں ملازمت کر رہے ہیں جب بھی انھیں فوجی سروس کے لیے بلایا جائے تو سول اسامیوں پر ان کا حق عود اس عرصہ کے لیے جب وہ فوج کی ملازمت میں کام کریں، باقی رہتا ہے۔

۷۔ صدر پاکستان سرکاری ملازم کے حق عود کو جو مستقل اسامی پر اسامی حیثیت میں حاصل ہو، معطل کر سکتا ہے، جب کبھی اسے میعاد کی اسامی پر اسامی طور پر رکھا جائے یا کسی مستقل اسامی پر جو کاڈر سے باہر تقرر کیا گیا ہو۔ یا اسے عارضی مستقل حیثیت میں تقرر کیا گیا ہو۔ اس اسامی پر جس پر کسی اور سرکاری ملازم کا حق عود ہوتا۔ اگر اس کا حق عود معطل نہ کیا جاتا۔

صدر اپنی مرضی سے اس سرکاری ملازم کا بھی حق عود معطل کر سکتا ہے جو مستقل اسامی پر اسامی حیثیت سے ہو۔ اگر اسے بیرون ملک بھیج دیا جائے یا وہ بیرون ملک ملازمت پر چلا جائے یا مستقل یا قائم مقام حیثیت سے ایک دوسرے کا ڈر کی اسامی پر اس کا تبادلہ کر دیا جائے۔ بشرطیکہ یہ ماننے کے لیے معقول وجہ ہو کہ پاکستان سے باہر یا بیرون ملک ملازمت میں مستعار الحمدتی یا دوسری اسامی پر تقرر کی مدت ۳ سال سے کم نہیں ہوگی۔

۸۔ کسی سرکاری ملازم کے میعادی اسامی پر حق عود کو کسی حالت میں بھی معطل نہیں کیا جاسکتا۔ اگر وہ اسامی مستقل حیثیت سے کسی دوسری اسامی پر ملازم رکھا جاتا ہے تو میعادی ملازمت پر حق عود ختم کرنا لازمی ہے۔

۹۔ اگر سرکاری ملازم کا مستقل اسامی پر سے حق عود معطل کر دیا جاتا ہے تو اس اسامی کو اسامی طور پر پر کر دیا جائے گا اور وہ سرکاری ملازم جو اس اسامی پر مستقل حیثیت سے ملازم رکھا گیا ہے وہ اس اسامی پر موعود حاصل کر لے گا۔ لیکن اگر بعد میں کسی مرحلے پر اس کا معطل شدہ حق عود بحال کر دیا جاتا ہے تو پھر ان تمام انتظامات کو واپس اپنی پوزیشن پر آنا ہو گا۔ اس نوعیت کی تقریروں کو عارضی تقریریں کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود اسی طریقے پر حق عود حاصل کیا گیا ہے وہ بھی قواعد کی گنجائشوں کے مطابق معطل کیا جاسکتا ہے۔

۱۰۔ اگر کسی سرکاری ملازم کا حق عود اس کے کسی میعادی اسامی پر اسامی حیثیت سے ملازم ہونے پر یا کا ڈر سے باہر کی اسامی پر ملازم ہونے پر یا اس وجہ سے کہ اسامی پر کسی اور سرکاری ملازم کا حق عود معطل کیا جاتا ہے تو معطل شدہ حق عود بحال ہو جائے گا جو نہی وہ ان میں سے کسی بھی اسامی پر حق عود چھوڑ دے گا۔

اسی طرح اگر سرکاری ملازم کی پاکستان سے باہر مستعار الحمدتی ملازمت ختم ہو جاتی ہے یا بیرون ملک ملازمت چھوڑ دیتا ہے یا کسی اور کا ڈر میں اسامی پر ملازم ہو جاتا ہے تو پھر اس کا معطل شدہ حق عود بحال ہو جائے گا۔ تاہم اگر سرکاری ملازم جب کہ وہ پاکستان سے باہر مستعار الحمدتی پر ہو، یا بیرون ملک

ملازمت پر ہو، یا کسی دوسرے کا ڈر کی اسامی پر ہو اور وہ رخصت پر چلا جاتا ہے اور یہ بات تسلیم کر لینے کا امکان موجود ہے اور وہ رخصت ختم ہونے کے بعد پاکستان سے باہر مستعار الحمدتی پر ہی رہے گا یا بیرون ملازمت میں یا دوسرے کا ڈر کی اسامی پر رہے گا اور ڈیوٹی سے غیر حاضری کی مجموعی مدت اگر تین سال سے کم نہیں ہو۔ تو اس کا حق عود کسی بھی صورت بحال نہ کیا جائے۔

اگر سرکاری ملازم کا اپنے کا ڈر سے باہر کسی اسامی پر تبادلہ کر دیا جائے اور وہ پیرانہ سالی کی عمر کو پہنچنے پر اپنے تبادلے سے تین سال کے اندر ریٹائرڈ ہونے والا ہو تو اس کا مستقل اسامی پر استحقاق معطل نہیں کیا جاسکتا۔

۱۱۔ اگر ایک سرکاری ملازم کا اسامی حیثیت سے کسی مستقل اسامی پر جو کا ڈر سے باہر ہو جس پر اسے رکھا گیا ہو، تقرر کیا جائے تو اس کا حق عود یا معطل شدہ حق عود جو اسے پہلی اسامی پر حاصل تھا، ختم کیا جاسکتا ہے۔ بشرطیکہ سرکاری ملازم تحریری طور پر درخواست دے کہ اس کا حق عود ختم کر دیا جائے۔ یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ ان حالات میں حق عود متعلقہ سرکاری ملازم کی تحریری رضامندی پر ہی ختم کیا جاسکتا ہے، ورنہ نہیں۔

۱۲۔ سرکاری ملازم کا حق عود اگر وہ معطل بھی کر دیا گیا ہو، اسے دوسری مستقل اسامی پر جو اس کا ڈر میں ہو، مستقل کیا جاسکتا ہے بشرطیکہ وہ اس اسامی پر ڈیوٹی سرانجام نہ دے رہا ہو جس سے متعلق حق عود ہے۔

۱۵۔ ایک اسامی سے دوسری اسامی پر تبادلہ (بنیادی قاعدہ: ۱۵)

۱۔ صدر کسی سرکاری ملازم کا ایک اسامی سے دوسری اسامی پر تبادلہ کر سکتا ہے، لیکن سرکاری ملازم کو اس مستقل یا قائم مقامی اسامی پر جس کی تنخواہ اس مستقل اسامی کی تنخواہ سے جس پر اس کا حق عود ہے، کم ہو، تبادلہ نہیں کر سکتا۔ سوائے اس کے کہ یہ تبادلہ ایک انضباطی کارروائی کے طور پر ملازم کی تالافتی، یا غلط روی کی وجہ سے کیا گیا ہو۔ یا پھر متعلقہ ملازم نے تحریری درخواست دی ہو کہ

اس کا تبادلہ چلی اسامی پر کر دیا جائے۔
۲۔ بنیادی قاعدہ نمبر ۴۹ کے مطابق جمع تفریق سے اس اسامی پر سرکاری ملازم کا دوبارہ تبادلہ جس پر اس کا حق عود ہوتا اگر اس کا حق عود معطل نہ کیا جاتا اور اوپر کے سکیل سے نیچے سکیل میں تبادلہ، اس سے پہلے کہ اسامی ختم ہو۔ بنیادی قاعدہ ۱۵ کی رو سے "تبادلہ" کے معنوں میں نہیں آتے۔

۶۔ کفالتی فنڈ میں چندہ دینا۔ (بنیادی قاعدہ ۲۶)

سرکاری ملازم کو چاہیے کہ وہ "کفالتی فنڈ" میں یا خاندانی پنشن فنڈ میں۔ یا کسی اور فنڈ میں قواعد کے مطابق جو صدر نے تیار کیے ہوں، چندہ دے۔

۷۔ اسامی کی میعاد۔ (بنیادی قاعدہ ۱۷)

سرکاری ملازم اپنی اسامی کی تنخواہ اور الاؤنس اس تاریخ سے وصول کرتا ہے جس تاریخ کو وہ اسامی کا چارج سنبھالے اور اس وقت وصول کرنا بند کر دیتا ہے جب وہ اسامی کا چارج دے دے۔ اگر اسامی کا چارج دن میں دوپہر کے بعد سنبھالا ہو تو تنخواہ اور الاؤنسوں پر حق اگلے دن سے شروع ہو گا۔ اسی طرح اگر کسی اسامی کا چارج دن میں صبح کے وقت چھوڑ دیا جائے تو اس دن کے لیے کوئی تنخواہ اور الاؤنس قابل منظوری نہ ہو گا۔

۸۔ غیر حاضری (بنیادی قاعدہ ۱۸)

۱۔ اگر سرکاری ملازم اپنے فرائض سے مستقل پانچ سال سے زیادہ عرصے تک غیر حاضر رہے۔ سوائے پاکستان میں خارجی ملازمت کے کہیں اور خواہ رخصت پر ہو یا بلا رخصت، تو سرکاری ملازم باقی نہیں رہتا جب تک کہ صدر خاص حالات کے پیش نظر اس کے برعکس فیصلہ نہ کرے۔
۲۔ اگر کوئی سرکاری ملازم حکمانہ یا عدالتی کارروائی کی وجہ سے جو اس کے خلاف

چل رہی ہو، پانچ سال سے زیادہ عرصہ معطل رہا ہو اس کا ڈیوٹی پر دوبارہ جانے کا کوئی آزادانہ اختیار نہ ہو، اسے بنیادی قاعدہ ۱۸ کی رو سے رخصت یا بلا رخصت کے ڈیوٹی سے غیر حاضر نہیں کیا جاسکتا۔

۹۔ تنخواہ کا تعین

۱۔ اسامی پر پہلے تقرر کے موقع پر سرکاری ملازم کی تنخواہ اس اسامی کے بیانہ تنخواہ ہی کے کم از کم مرحلے پر مقرر کی جائے۔

۲۔ ان لوگوں کے زیر حکومت پہلے تقرر پر جو وفاقی یا صوبائی حکومت کی ملازمت میں پہلے سے نہ ہوں۔ ابتدائی تنخواہ کا تعین انھیں چھ "قبل از وقت" اضافہ جات دے کر کیا جاسکتا ہے جو درج ذیل شرائط کے تحت ہو گا۔

(الف) ان معاملوں میں جہاں لوگ فیڈرل پبلک سروس کمیشن (F.P.S.C) کے ذریعے بھرتی کیے گئے ہوں قبل از وقت اضافہ جات، کمیشن کی سفارشات پر منظور کیے جانے چاہئیں۔ اس حقیقت کے پیش نظر کہ مطلوبہ قابلیت کے لوگ، اسامی کی کم از کم تنخواہ پر دستیاب نہیں ہیں۔

(ب) فی الوقتی بھرتی کے معاملوں میں فیڈرل پبلک سروس کمیشن (F.P.S.C) کی سفارشات کی پیش بندی کے طور پر قبل از وقت اضافہ میں منظور کرنا چاہیے۔

(ج) ان اسامیوں کے لیے جہاں بھرتی، کمیشن کے ذریعے نہیں کی جاتی، قبل از وقت اضافہ جات صرف اس صورت میں منظور کیے جائیں کہ افسر مجاز تقریباً تصدیق کرے کہ مطلوبہ قابلیت کے مناسب امیدوار، اسامیوں کے منظور شدہ بیانہ تنخواہ کے کم سے کم شرح پر میسر نہیں ہیں۔

(وزارت خزانہ دفتری یادداشت نمبر ایف ۱ (۵) آر۔ ۸۰ مورخہ ۱۱ مارچ ۱۹۹۱ء)

کے منسلک ۱۱ جلد ۲۱ اور نمبر ایف۔ (۷) آر۔ ۸۱ مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۹۱ء

۳۔ ان معاملوں میں جو سرکاری ملازمت سے استعفیٰ دینے کے بعد دوبارہ ملازمت اختیار کرنے کے علاوہ ہوں یا جن میں بوجہ نااہلی، خلل روی، یا انضباطی کارروائی،

سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہو۔ ایک سرکاری ملازم جو پہلے اساسی بنیاد پر رہا ہو یا قائم مقامی کی ہو۔

(i) اساسی پر یا

(ii) مستقل یا عارضی اساسی پر اسی پیمانہ تنخواہ میں یا

(iii) مستقل اساسی پر 'معاویہ اساسی کے سوا' مساوی پیمانہ تنخواہ میں یا

(iv) عارضی اساسی پر مساوی پیمانہ وقت میں یہ اساسی اسی پیمانے تنخواہ میں ہو جس میں مستقل اساسی تھی یا

(v) اساسی طور پر عارضی معاویہ اساسی پر ملازم رکھا گیا ہو۔ اس پیمانہ تنخواہ میں جو ایک دوسری معاویہ اساسی کے پیمانہ تنخواہ کے مساوی ہو۔ جس اساسی پر وہ پہلے اساسی طور پر موجود تھا یا جس اساسی پر پہلے وہ بحیثیت قائم مقام کام کر رہا ہو۔

اس کی ابتدائی تنخواہ اس تنخواہ سے کم نہ ہو، سوائے خاص تنخواہ کے اور ذاتی تنخواہ وغیرہ کے جو اس نے آخری موقع پر وصول کی تھی۔ وہ عرصہ یا مدت جس میں سرکاری ملازم نے وہ تنخواہ آخری بار یا پچھلے موقعوں پر حاصل کی تھی وہ بھی اسے سالانہ اضافہ کے لیے شمار کیا جائے گا۔

۵۔ اس شرط کو کہ عارضی اساسی اوقاتی پیمانے میں ہو جس میں مستقل اساسی ہو، مانع نہ کیا جائے جب کہ عارضی اساسی کو:

(i) ایک حکومت یا محکمے نے وضع کیا ہو۔ اسی نوعیت کے کام کے مقصد کے لیے جیسا کہ عام کام ہو جس کے لیے مستقل اساسی ایک مختلف حکومت یا محکمے کے تحت کاڈر میں موجود ہو۔

(ii) اس اوقاتی پیمانے میں منظور کی گئی ہو۔ جو اوقاتی پیمانے کے مساوی ہو۔ جو مستقل اساسیوں پر لاگو ہو۔ اس کاڈر میں جو ایک مختلف حکومت یا محکمے کے تحت

ہو۔

۵۔ تنخواہ مقرر کرتے وقت درج ذیل عام اصولوں کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے:

(i) ایک عارضی اساسی جو کسی پیمانہ تنخواہ میں ہو اور جسے مستقل اساسی میں کسی

مختلف پیمانہ تنخواہ میں تبدیل کر دیا گیا ہو۔ وہ ان قواعدوں کے مقاصد کے لیے وہی اساسی نہیں ہوگی جیسے کہ مستقل اساسی تھی۔ خواہ فرائض وہی کیوں نہ ہوں عارضی اساسی تصور کیا جائے گا کہ وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ مستقل اساسی سے تبدیل ہو چکی ہے۔

(ii) سرکاری ملازم کی اساسی تنخواہ کے سلسلے میں مستقل اساسی جس پر کہ ایک دوسرے سرکاری ملازم کا محفل شدہ حق عود موجود ہے اسے ان قواعد کے تحت اساسی تنخواہ میں شمار کیا جائے گا جس کا مطلب یہ ہو گا کہ عارضی اساسی تقرر کے سلسلے میں اساسی تنخواہ سرکاری ملازم کی ابتدائی تنخواہ کو مقرر کرتے وقت زیر غور لایا جائے گا جب کہ اس کا کسی دوسری اساسی پر تقرر کیا جائے۔

جب کسی سرکاری ملازم کی ابتدائی تنخواہ اس طرح مقرر ہو جائے، تو اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، خواہ اس اساسی پر ملازمت کی معاہدہ کے دوران وہ اپنی عارضی اساسی سے واپس کیوں نہ آجائے۔

(iii) اگر سرکاری ملازم بحیثیت قائم مقام کسی اساسی پر کام کر رہا ہے اور بعد میں اسی اساسی پر "اساسی حیثیت" سے تعینات ہو جاتا ہے تو وہ حقدار ہے کہ اس کی تنخواہ نئے سرے سے مقرر کی جائے۔

(iv) اگر سرکاری ملازم کی آخری تنخواہ عارضی اساسی پر، قبل از وقت اضافہ جات کی وجہ سے بڑھ جاتی ہے تو اس کی تنخواہ مقرر کرتے وقت، اس کی اس تنخواہ کو زیر غور لایا جائے جو اسے ان اضافہ جات کے نہ ملنے کی صورت پر ملتی۔

(v) جب سرکاری ملازم کو کسی اساسی پر قائم مقام کی حیثیت سے اوقاتی پیمانہ تنخواہ پر رکھا جائے لیکن بنیادی قاعدہ ۳۵ کے تحت اس کی تنخواہ، اوقاتی پیمانے کے کم از کم سے نیچے مقرر کی جائے تو اسے یہ تصور نہ کیا جائے کہ اس نے اس اساسی پر مؤثر طور پر بحیثیت قائم مقام بنیادی قاعدہ ۲۲ کی رو سے کام کیا ہے یا اضافہ کے مقصد کے لیے بنیادی قاعدہ ۲۶ کے تحت اسے ڈیوٹی شمار کیا جائے۔

(vi) اگر کسی اساسی کا اوقاتی پیمانہ کم کر دیا جاتا ہے۔ اس اساسی کے فرائض یا

ذمہ داریوں میں تخفیف کے علاوہ دوسری وجوہات کی بنا پر اور سرکاری ملازمین پر اس پر ملازم رکھا گیا ہے وہ اس اوقاتی پیمانے میں جو تخفیف سے پہلے تھا، معذور وصول کرنے کا حق دار نہیں ہے تو اس اسامی پر دوبارہ ملازم ہونے پر اس کی تنخواہ بنیادی قاعدہ ۲۲ کے تحت اس طرح مقرر کی جائے گی کہ جیسے تخفیف شدہ اوقاتی پیمانہ شروع ہی سے عائد تھا۔

۱۰۔ اضافے کی وصولی (بنیادی قاعدہ ۲۳)

اوقاتی پیمانے میں اضافہ اس کے مقررہ وقت پر حاصل کیا جاتا ہے سوائے اس کے کہ اسے روک دیا جائے۔

۱۱۔ وہ شرائط جن پر ملازمت اضافے کے لیے شمار کی جاتی ہے

(بنیادی قاعدہ ۲۶)

۱۔ کسی اسامی کی اوقاتی پیمانے میں ملازمت اضافوں کے لیے درج ذیل طریقے پر شمار ہوتی ہے۔

(الف) اوقاتی پیمانے کی اسامی پر ڈیوٹی کی کل مدت اور کل رخصت کو (سوائے غیر معمولی رخصت کے) اضافہ جات کے لیے اس اوقاتی پیمانے میں شمار کیا جاتا ہے۔

(ب) اگر سرکاری ملازم کسی اسامی پر حق عود یا معطل شدہ حق عود رکھتا ہے تو کسی دوسری اسامی پر ملازمت خواہ وہ اسامی یا قائم مقامی حیثیت میں ہو، اور مستعاراً خدمت پر ملازمت اس اسامی پر اضافے کے لیے شمار کی جائیں گی۔ اگر صدر کو تسلی ہو جائے کہ ملازم نے ”غیر معمولی رخصت“ بیماری کی وجہ سے یا کسی ایسی وجہ سے جو سرکاری ملازم کے اختیار سے باہر تھی، حاصل کی تھی۔ تو وہ یہ حکم دے سکتا ہے کہ غیر معمولی رخصت کو اضافے کے لیے شمار کیا جائے۔

(ج) اگر سرکاری ملازم کسی اسامی پر قائم مقام کے طور پر کام کر رہا ہے یا

اوقاتی پیمانے میں عارضی اسامی پر ہے اور اسے کسی دوسری اسامی پر قائم مقام کے طور پر ملازم رکھا جاتا ہے جس کی تنخواہ اس تنخواہ سے جو ملازم اپنی اصلی اسامی پر حاصل کر رہا تھا، کم نہیں ہے اور اسے دوبارہ کسی چلی اسامی پر ملازم رکھا جاتا ہے تو اضافہ دینے کے لیے اس کی وہ ملازمت جو اوپر کی اسامی پر تھی اسے چلی اسامی میں اضافے کے لیے شمار کیا جائے گا۔

(د) لیکن اعلیٰ اسامی پر قائم مقام کی مدت جو کہ چلی اسامی میں سالانہ ترقی کے لیے شمار کی جائے گی۔ وہ اس مدت تک محدود رہے گی جس دوران سرکاری ملازم چلی اسامی پر کام کرتا۔ اگر اس کی اعلیٰ اسامی پر تعیناتی نہ ہو جاتی۔

(ه) اس کے مطابق اس سرکاری ملازم کا معاملہ بھی حل ہو جاتا ہے جو دراصل چلی اسامی پر قائم مقام طور پر ملازم نہیں تھا جبکہ اسے اعلیٰ اسامی پر ملازم رکھا گیا تھا لیکن وہ اس طرح قائم مقام کے طور پر ہوتا اگر اسے اعلیٰ اسامی پر ملازم نہ رکھا گیا ہوتا۔

اضافے کے سلسلے میں خارجی ملازمت کو ”سرکاری ملازمت میں“ اس اسامی کے اوقاتی پیمانے میں شمار کیا جاتا ہے جس پر سرکاری ملازم کا حق عود یا معطل شدہ حق عود ہو، اگر سرکاری ملازم بیرون ملک ملازمت میں ہوتے ہوئے قائم مقامی کی ترقی حاصل کرتا ہے تو اضافے کے لیے اس مدت کو ترقی کے دوران شمار کیا جائے گا۔ عارضی ملازمت میں بھی اضافے کے لیے بیرون ملک ملازمت کو شمار کیا جائے گا۔ اگر سرکاری ملازم عارضی اسامی پر واپس آ جائے۔

۲۔ حسب ذیل چند اہم فیصلے ہیں جن کا تعلق اضافے کے حساب لگانے سے ہے۔

(۱) اگر ایک سرکاری ملازم کا جو ایک اسامی پر قائم مقام کے طور پر کام کر رہا ہے۔ دوسری اسامی پر قائم مقام کی حیثیت سے تبادلہ ہو جاتا ہے تو مہلت حاضری کو اس اسامی پر ڈیوٹی کے طور پر تصور کیا جائے گا جس کی تنخواہ مہلت حاضری کے دوران سرکاری ملازم نے حاصل کی ہو اور اسے اسامی پر اضافے کے سلسلے

میں شمار کیا جائے گا۔

(i) اگر سرکاری ملازم کو کسی تربیتی کورس کے دوران قائم مقام تنخواہ وصول کرنے کی اجازت دی جاتی ہے تو تربیت کی مدت کو اضافے کے لیے اس اسامی کے اوقاتی پیمانے میں شمار کیا جائے گا۔

(ii) اگر کوئی آزمائشی ملازم آزمائشی مدت 'جو ۱۲ ماہ سے زیادہ ہو' کے ختم ہونے پر مستقل کر دیا جاتا ہے تو اسے یہ حق ہے کہ وہ اضافے کے لیے موثر بہ ماضی مطالبہ کرے جو اگر اس کے آزمائشی مدت ہوتی تو وہ تمام حالات میں حاصل کر لیتا۔

(iv) وہ رعایت جو بنیادی قاعدہ ۲۶ (سی) میں دی گئی ہے وہ ناقابل منظوری ہے اس بات سے قطع نظر کہ اعلیٰ اسامی اس محکمے کے اندر ہے یا باہر جس سے کہ سرکاری ملازم کا تعلق ہے۔

۱۲۔ پیشگی اضافہ جات کی منظوری (بنیادی قاعدہ: ۲۷)

۱۔ حاکم مجاز جو اس کاڈر میں مستقل اسامی وضع کر سکتا ہے۔ وہ سرکاری ملازم کو تنخواہ کے اوقاتی پیمانے میں قبل از وقت اضافے منظور کر سکتا ہے۔

۲۔ قبل از وقت اضافہ جات دینے کے سلسلے میں عام طور پر مقصد یہ ہوتا ہے کہ افسر اسی طرح اضافہ جات کا حقدار ہے جیسا کہ وہ اس حد کو اپنے پیمانے میں عام حالات میں پہنچتا ہے اور جب تک اس کے برعکس احکامات نہ ہوں تو اسے بھی بالکل اسی حیثیت میں رکھا جائے جیسا کہ ایک افسر ترقی کر کے پہنچا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گا کہ عام طور سے ایک افسر اگلا اضافہ ۴ ماہ کی ملازمت اس مرحلے اور اس تاریخ سے جب اسے قبل از وقت اضافہ دیا گیا تھا پوری کرنے کے بعد ملے گا، لیکن اگر حکم میں وضاحت ہو کہ اضافے کی اصل تاریخ کو نہ بدلا جائے تو پھر اس کے مطابق اضافے کی اجازت دی جائے۔

۱۳۔ نچلی اسامی، تنزیلی یا تنزیلی میں تخفیف پر تنخواہ کا تعین

(بنیادی قاعدہ ۲۸ - ۲۹)

۱۔ اگر سرکاری ملازم کا اوپر کے درجے سے نچلے درجے یا اسامی پر بطور سزا کا تبادلہ کر دیا جائے تو حاکم مجاز اسے جتنی تنخواہ وہ مناسب سمجھے اس کی اجازت دے سکتا ہے بشرطیکہ وہ نچلے درجے یا اسامی کی تنخواہ کے زیادہ سے زیادہ اوقاتی پیمانے سے تجاوز کرے۔ ایسے معاملے جہاں سرکاری ملازم کی غلط روی یا نااہلی کی وجہ سے نچلے درجے یا اسامی پر یا اوقاتی پیمانے کے نچلے مرحلے پر تنزیلی کر دی جائے تو حاکم مجاز کو چاہیے کہ وہ وضاحت کرے کہ کتنی مدت کے لیے یہ سزا موثر رہے گی اور آیا وہ دوبارہ بحال ہونے پر، آئندہ کے اضافے ملتوی رہیں گے اور اگر ایسا ہے تو کس حد تک؟

متعلقہ حاکم مجاز کو چاہیے کہ یہ وضاحت کرے کہ آیا اس تخفیف کا مجموعی اثر ہو گا اور کیا تخفیف کے دوران اضافے قابل منظوری ہوں گے۔ مختصر یہ کہ ان احکامات کا مضمون بالکل صاف اور واضح ہو اور اس میں کسی قسم کے شبہ کی گنجائش نہ رہے۔

۱۴۔ قائم مقامی کی پابندی

۱۔ قائم مقام سرکاری ملازم کی تنخواہ، حاکم مجاز، مگر وہ اس رقم سے کم مقرر کر سکتا ہے جو قواعد کے تحت قابل منظوری ہے۔ اسے اوقاتی پیمانے کے کم از کم سے بھی کم تنخواہ وصول کرنے کی اجازت دی جاسکتی ہے۔

۲۔ مندرجہ بالا کے تحت جو اختیار دیا گیا ہے اسے خاص حکم کے ذریعے انفرادی معاملوں میں استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اس قاعدہ کا عام اطلاق، بنیادی قاعدہ: ۳۵ کے خارج از اختیار تصور کیا جائے گا۔ ہنگامی مالی صورت اور انتظامی اغراض کے لیے حکومت اس قاعدے پر عام طریقے سے عمل کرتی ہے۔ ۳۰ فی صد کے احکام جو ۱-۷-۱۹۳۸ سے ۲۱-۳-۱۹۵۱ اور ۳۰-۹-۱۹۵۱ تک نافذ رہے۔ اور مدت

ملازمت کا قاعدہ زیر قواعد نظر ثانی تنخواہ مجریہ ۱۹۵۱ کو اس سلسلے میں بطور حوالہ کے دیکھا جائے۔

۱۵۔ ذاتی تنخواہ کا انجذاب (بنیادی قاعدہ ۳۷)

جب تک حاکم مجاز کی طرف سے اس کے برعکس احکام جاری نہ ہوں ذاتی تنخواہ میں سے اتنی کمی کی جائے جتنی رقم کا وصول کنندہ کی تنخواہ میں اضافہ ہوا ہو جو نہی اضافہ ذاتی تنخواہ کے برابر ہو جائے اس کی وصولی بند کر دی جائے گی۔

۱۶۔ پیش روی (Move Over)

۱۔ (الف) بنیادی بیانہ مشاہرہ ۱ تا ۳ میں تنخواہ پانے والا سرکاری ملازم اگر اپنے بیانے کی انتہائی حد تک پہنچ جاتا ہے اور اس کی آخری تین سالوں کی سالانہ کردار ناموں میں اس کی درجہ بندی کم از کم "چھ" کی جاتی ہے تو اسے اگلے سال یکم دسمبر سے اگلے بنیادی بیانہ تنخواہ میں جانے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ایک اہل کار جس کا بیانہ تنخواہ پندرہ ہے یا اسے پندرہ میں شمار کر لیا گیا ہے تو اسے صرف بنیادی بیانہ تنخواہ ۱۶ تک آگے جانے کی اجازت ہو گی۔ (وزارت مالیات کی دفتری یادداشت نمبر (۲) این۔ جی۔ ایمپ اراء مصنفہ ۳۶ دسمبر ۱۹۷۳ء)

(ب) اگلے بیانے میں تنخواہ کا تعین نچلے بیانہ کے زیادہ سے زیادہ حد سے اگلے مرحلہ میں ہو گا۔

۲۔ (الف) بنیادی بیانہ تنخواہ ۱۶ سے ۱۹ تک کے سول ملازمین کو اس سال سے اگلے سال کے یکم دسمبر سے اگلے اعلیٰ بیانہ میں جانے کی اجازت ہو گی جس میں وہ اپنے بیانہ کی انتہائی حد تک کو پہنچتے ہیں جس کے لیے مندرجہ ذیل شرائط ہوں گی۔

(۱) بنیادی بیانہ تنخواہ ۱۶ سے ۱۷ اور ۱۷ سے ۱۸ میں پیش روی کرنے والے ملازمین

کے معاملات کی جانچ پڑتال اور سفارش مندرجہ ذیل تفصیل کردہ کمیٹی کرے گی۔

وزارتیں اور ڈویژن

(الف) معتمد اضافی یا شریک معتمد (اگر معتمد اضافی نہ ہو)

(ب) انتظامی وزارت ڈویژن کا شریک معتمد نائب معتمد

(ج) مالیات ڈویژن کا معتمد بنیادی بیانہ تنخواہ ۱۸ سے ۱۹ اور ۱۹ سے ۲۰ میں پیش روی کے معاملات میں کر نائب معتمد (بنیادی بیانہ تنخواہ ۱۶ سے ۱۷ اور ۱۷ سے ۱۸ میں پیش روی کے معاملات میں)

حاکم مجاز

معتمد اضافی شریک معتمد صدر نشین

شریک معتمد رکن

نائب معتمد رکن

(وزارت مالیات کی دفتری یادداشت نمبر ایف (۸۲) آر۔ ۸۵/۳ مورخہ ۳ مارچ ۱۹۸۶ء)

ماحقہ محکمہ ماتحت دفاتر

(الف) انتظامی وزارت ڈویژن کا معتمد اضافی یا شریک معتمد

(ب) محکمے کا بنیادی تنخواہ ۲۰ کا افسر یا بنیادی بیانہ تنخواہ ۲۰ کا افسر نہ ہونے کی صورت میں بنیادی بیانہ تنخواہ ۱۹ کا افسر (ماحقہ محکموں کے معاملات کی صورت میں)

(ج) مالیات ڈویژن کا شریک معتمد (بنیادی بیانہ تنخواہ ۱۸ سے ۱۹ اور ۱۹ سے ۲۰ کے پیش روی کے معاملات میں) نائب معتمد (بنیادی بیانہ تنخواہ ۱۶ سے ۱۷ اور ۱۷ سے ۱۸ کے پیش روی کے معاملات میں) (وزارت مالیات کی دفتری یادداشت نمبر ایف (۸۲) آر۔ ۸۵/۳ مورخہ ۳ مارچ ۱۹۸۶ء)

(i) اس کے بعد معاملات حاکم مجاز کی منظوری کے لیے عملہ ڈویژن نمٹائے گا۔

حاکم مجاز

معتمد اضافی/شریک معتمد
شریک معتمد/رکن
صدر نشین
رکن
نائب معتمد

(i) بنیادی پیمانہ تنخواہ میں پیش روی کے لیے ملازم کو پیمانہ تنخواہ ۱۷ میں کم از کم پانچ سال مدت ملازمت پوری کرنا ہوگی۔ بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۷ سے نچلے درجوں میں انجام دی گئی ملازمت کا شمار موجودہ قاعدے کے مطابق ہو گا۔

(ii) بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۷ اور ۱۸ میں پیش روی کے لیے پیش روی کے سال کو شامل کر کے سرکاری ملازم کو گزشتہ پانچ سالوں میں بغیر کسی اندراج مخالف کے "اوسط" سے "۳ چھ" کی رپورٹ حاصل کرنا ہوگی۔

(iv) بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۸ سے ۱۹ اور ۱۹ سے ۲۰ پیش روی کے معاملات کی چھان بین اور سفارش ایک مجلس انتخاب کرے گی جو متعلقہ انتظامی وزارت کے ملازمین کے معتمد اور عملہ ڈویژن اور مالیات ڈویژن سے کم از کم شریک معتمد کے عمدہ کے ایک ایک نمائندوں پر مشتمل ہوگی۔ اس کے بعد حاکم مجاز کی منظوری کے لیے معاملات عملہ ڈویژن نمٹائے گا۔

(v) بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۹ سے ۲۰ میں پیش روی کرنے والے ملازمین کی اہلیت ان کی پیمانہ ۱۷ اور بالا کے لیے باترتیب ۱۳ اور ۱۷ سال کی مدت ملازمت کی تکمیل سے مشروط ہوگی۔ بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۷ سے نچلے درجہ میں انجام دی گئی ملازمت کا شمار موجودہ طریق کار کے مطابق ہو گا۔

(vi) بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۹ میں پیش روی کے لیے ملازم کو بالعموم "۳ چھ" رپورٹ حاصل کرنا ہوگی اور بنیادی پیمانہ تنخواہ میں پیش روی کے لیے بغیر کسی منافی رائے کے اندراج کے پیش روی کے سال سمیت گزشتہ پانچ سالوں میں "۳

اچھی" اور اس سے منافی رائے کے اندراج رپورٹیں حاصل کرنا ہوں گی۔

(vii) ایک ملازم کے متذکرہ بالا (iii) (vi) میں مجوزہ شرائط کو پورا کرنے میں ناکام ہونے کی صورت میں اسے اپنے پیمانہ مشاہرہ کی انتہائی حد میں اس وقت تک انتظار کرنا ہو گا جب تک وہ بغیر کسی منافی رائے کے اندراج کے مطلوبہ معیار کی لگاتار مطلوبہ سالوں کی تعداد میں رپورٹیں حاصل نہ کر لے اور اس کی پیش روی آخری رپورٹ حاصل کرنے والے سال کے یکم دسمبر سے عمل میں آئے گی۔

(viii) پیش روی کسی اعلیٰ درجہ کے بنیادی پیمانہ تنخواہ کی اسامی میں ترقی متصور نہیں ہوگی بلکہ یہ اعلیٰ پیمانہ تنخواہ کسی ملازم کی اسامی کے موجودہ بنیادی تنخواہ میں توسیع سمجھی جائے گی اس لیے پیش روی کے وقوع کو اعلان میں مشتہر نہیں کیا جائے گا۔

(ix) ان ملازمین کی تنخواہ جنہیں پیش روی کی اجازت دی جاتی ہے۔ اپنے نچلے پیمانہ تنخواہ میں موجودہ تنخواہ سے اگلے مرحلے میں متعین ہوگی اور قبل از وقت اضافوں کی اجازت نہیں ہوگی۔

(x) بنیادی پیمانہ تنخواہ ۲۰ میں پیش روی کے معاملہ میں ملازمین کو تواضع الاؤنس اور اعلیٰ اسامی الاؤنس رہائشی ملازم رہائشی ملازم الاؤنس یا کوئی بھی دیگر اضافی مراعات نہیں ملیں گی۔

(xi) جس ملازم کو پیش روی کی اجازت ملے گی۔ کرایہ مکان کی حد بندی میں کسی تبدیلی کا مستحق نہیں ہوگا۔ کرایہ مکان جس کا شمار متعلقہ بنیادی پیمانہ تنخواہ کی کم از کم سطح کے حوالے کیا جاتا ہے۔ اس پیمانہ تنخواہ کی بنیاد پر قابل اوائلی ہو گا جس میں ملازم پیش روی کے بعد داخل ہوا ہے۔

(xii) ملازمین کو مسلسل دو پیش رویوں کی اجازت نہیں ہوگی البتہ اگر ایک ملازم جسے کسی پیمانہ تنخواہ میں پیش روی ملی ہے۔ ازاں بعد اسی پیمانہ میں ترقی پا جاتا ہے تو اسے مزید پیش روی کا استحقاق مل جائے گا۔

(xiii) احکام یکم دسمبر ۱۹۸۵ سے موثر ہوں گے یعنی جو ملازمین پیمانہ تنخواہ ۱۹ سے

۱۹ میں یکم دسمبر ۱۹۸۳ء یا اس سے قبل زیادہ حد تک پہنچ چکے ہوں گے۔ انھیں اگلے بیانہ تنخواہ میں یکم دسمبر ۱۹۸۵ء میں پیش روی کا حق حاصل ہو گا۔
(وزارت مالیات کی دفتری یادداشت نمبر ایف ا (۸۲) آر۔ ۸۵، ۳ مورخہ یکم جنوری ۱۹۸۶)

(ب) پیش روی کے لیے معیار:

ایک ملازم کو بیانہ تنخواہ ۱۷، ۱۸ اور ۲۰ میں پیش روی کے لیے جو بھی صورت ہو، مندرجہ ذیل تقاضوں کو پورا کرنا ہو گا۔

(۱) اسے متعلقہ اسامی یا ملازمت کے کاڈر کا باقاعدہ رکن ہونا چاہیے اور جس بیانہ تنخواہ میں اسے پیش روی کرنا ہے اس کے لیے مندرجہ ذیل مدت ملازمت کی تکمیل کرنی چاہیے۔

بیانہ تنخواہ ۱۸	= ۵ سال
بیانہ تنخواہ ۱۹	= ۳ سال
بیانہ تنخواہ ۲۰	= ۱۷ سال

(۲) اس کے موجودہ اسامی بیانہ تنخواہ میں گزشتہ پانچ سالوں کی تھیہ رپورٹیں اندراج مخالف سے مبرا ہونی چاہئیں اور

(الف) بیانہ تنخواہ ۱۷ اور ۱۸ میں پیش روی کے لیے اوسط "جھی" رپورٹ ہونی چاہئیں۔

(ب) بیانہ تنخواہ ۱۹ میں پیش روی کے لیے عموماً "جھی" اور بیانہ تنخواہ ۲۰ میں پیش روی کے لیے "جھی" اور اس سے اعلیٰ رپورٹ ہونی چاہئیں۔

(ج) گزشتہ پانچ سالوں میں متعلقہ قواعد کے تحت اس پر کوئی تاوان عائد نہ کیا گیا ہو۔

(۴) وہ اپنے موجودہ بیانہ تنخواہ میں پیش روی کے ذریعہ پہنچا ہو۔

(ج) گزشتہ بہوں میں مذکورہ شرائط کی تکمیل کے بعد ایک ملازم کو اس کے

بنیادی بیانہ تنخواہ کی زیادہ سے زیادہ حد تک پہنچنے والے سال سے اگلے سال کی یکم دسمبر کو پیش روی کی اجازت ہو گی۔

(۲) مجلس انتخاب مجلس پیش روی کسی بھی معاملے کو مندرجہ ذیل وجوہ کی بنا پر ملتوی کر سکتی ہے۔

(۱) اگر متعلقہ افسر طویل رخصت پر یا زیر معطلی ہو یا اس کے خلاف کوئی انضباطی کارروائی زیر غور ہو یا وہ بیرون ملک مستعاراً خدمت پر ہو یا بیرون ملک بیرون کاڈر اسامی پر تعینات کیا گیا ہو یا

(۲) اس کے کردار نامہ کی عمل نامکمل ہو یا کوئی اور معلومات مطلوب ہوں۔

اگر کوئی معاملہ ملتوی کیا گیا ہو اور متعلقہ ملازم کو بعد ازاں پیش روی کی اجازت دے دی گئی ہو تو ذیلی پیرا (۱) کے تحت آنے والے معاملات میں اس کی اجازت فوری موثر ہو گی اور اس تاریخ سے لے کر جب سے پیش روی واجب تھی۔

پیش روی کی حقیقی تاریخ کی درمیانی مدت تنخواہ کے تعین کی غرض سے اضافوں کے لیے شمار کی جائے گی اور اگر معاملے کا التوا تذکرہ بالا پیرا (۲) کے تحت ہوا ہو تو پیش روی کی اجازت کی تاریخ سے دی جائے گی جب سے واجب ہوئی تھی

(وزارت مالیات کی دفتری یادداشت نمبر ایف ا (۸۲) آر ۸۵، ۳ یکم جنوری ۱۹۸۶)

(۲) پیش روی کے معاملات کو سرعت سے نمٹانے کے لیے مندرجہ ذیل طریق کار اختیار کیا جائے گا۔

(۱) ان ملازمت کے گروپوں سے قطع نظر جن سے وہ متعلق ہیں، بنیادی بیانہ

تنخواہ ۲۰ تک کے افسران کی پیش روی کے تمام معاملات پر کارروائی وہ

وزارتیں رڈویشن ہر چھ گھنٹے کریں گے جن میں وہ ملازم کام کر رہے ہوں۔ اگر تھیہ

ریکارڈ دستیاب نہ ہو تو اس خدمت کا ڈرر گروپ کو منضبط کرنے والی

وزارت رڈویشن سے طلب کیا جاسکتا ہے۔

(۲) ان سرکاری ملازمین کے معاملات، جن کی تعیناتی یا مستعاراً خدمتی

کارپوریشنوں، خود مختار اداروں میں ہوئی ہو، پر کارروائی ان کی اصل

حکومتوں محکموں میں ہوگی جس کے بعد انھیں اگلے اعلیٰ پیمانے میں پیش روی کی اجازت ہوگی۔

(ii) بنیادی پیمانہ تنخواہ ۲۱ سے ۱۷ اور ۱۷ سے ۱۸ میں پیش روی کے معاملات کی منظوری مجلس پیش روی کی سفارشات پر انتظامی وزارتوں، ڈویژنوں کے معتمدین دیں گے اور انھیں حاکم مجاز کی منظوری کے لیے عملہ ڈویژن کو ارسال نہیں کیا جائے گا۔

(iv) بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۸ سے ۱۹ اور ۱۹ سے ۲۰ میں پیش روی کے معاملات مجلس انتخاب کی کارروائی کے بعد معتمد عملہ کی منظوری کے لیے جسے ایسے معاملات میں پیش روی کی منظوری دینے کے لیے حاکم مجاز کا عہدہ دیا گیا ہے، عملہ ڈویژن کو ارسال کیے جائیں گے۔

(وزارت مالیات کی دفتری یادداشت نمبر ایف ر (۸۲) آر۔ ۸۵/۳ مورخہ ۱۹ فروری ۱۹۸۶)

۱۷۔ سالانہ ترقی کی یکساں تاریخ

بنیادی تنخواہ کے پیمانوں، اضافہ جات صرف ماہ دسمبر کی پہلی تاریخ کو واجب الوصول ہوں گے۔ جب اس پیمانے سے متعلق حد پر جسے عام قواعد کے تحت ترقی دینے کے لیے شمار کیا جاتا ہے۔ ملازمت کے کم از کم چھ ماہ پورے ہو جائیں لیکن یہ ان قواعد سے مشروط ہے جو اضافے کو روکنے کے لیے ہوں۔

۱۸۔ ترقی پر تنخواہ کا تعین

۱۔ ان معاملوں میں جہاں بنیادی تنخواہ کے ۲ سے ۱۹ کے پیمانے میں ایک اسامی سے دوسری اسامی پر ہو تو جہاں دوسری اسامی کی بنیادی تنخواہ کے پیمانے میں حد پہلی اسامی کی مستقل تنخواہ سے اوپر ہو اور تنخواہ میں جو اضافہ ہو وہ یا تو پورے اضافے کے برابر ہو یا کم ہو۔ تو دوسری اسامی کے بنیادی تنخواہ کے پیمانے کی

ابتدائی تنخواہ قبل از وقت اضافے کے بعد دوسری اسامی کی بنیادی پیمانہ تنخواہ میں مقرر کی جائے گی۔

۲۔ ان سرکاری ملازموں میں جن کا بنیادی پیمانہ تنخواہ ۲۰ اور اس سے اوپر کے پیمانے میں تقرر ہو ان کی تنخواہ متعلقہ گریڈ کی مطلوبہ ملازمت کی مدت پوری ہونے پر اعلیٰ اسامی کی اگلی حد پر مقرر کی جائے گی۔ لیکن اگر انھوں نے مطلوبہ ملازمت کی کم سے کم مدت کو پورا نہیں کیا جو بنیادی تنخواہ سکیل ۱۹ اور اس سے اوپر کے لیے مقرر کی گئی ہو تو ان کی تنخواہ اسامی کے پیمانے کے کم از کم مرحلے پر مقرر کی جائے گی اور اس اسامی میں سالانہ اضافہ حاصل کرنے کے لیے ان کی ملازمت کو اس وقت سے شمار لیا جائے گا جس تاریخ کو وہ مطلوبہ ملازمت کی مدت کو پورا کر لیتے ہیں۔

۳۔ جہاں سرکاری ملازم اوپر کے بنیادی پیمانہ تنخواہ میں بذریعہ پیش روی چلا گیا اور اس کی تنخواہ مجوزہ طریقے کے مطابق مقرر ہو گئی اور بعد میں اسے اس بنیادی پیمانہ تنخواہ میں ترقی مل گئی تو اس کی تنخواہ ایک مرحلے تک بڑھادی جائے گی۔

۴۔ جہاں ایک سرکاری ملازم کا ایک اسامی سے دوسری اسامی پر تقرر نہیں ہوتا بلکہ صرف اس کا پیمانہ بدلتا ہے تو اس کی ابتدائی تنخواہ اوپر کے پیمانہ میں اس مرحلے پر مقرر ہوگی جو اس تنخواہ سے اگلا ہو، جو نچلے سکیل میں اسے قابل منظوری تھی۔ جب وہ اوپر کے سکیل میں تبدیل ہو رہا تھا۔

اسامیوں کے گریڈوں کی ترقی، سیلکشن گریڈ اسامیوں پر تقرر، افسران صینہ کے اور نچلے بنیادی پیمانہ تنخواہ سے اوپر کے بنیادی پیمانہ تنخواہ میں پیش روی کے معاملات کو ان قواعد کے مطابق طے کیا جائے گا۔

۵۔ ایسے معاملات میں جہاں ایک سرکاری ملازم کی تقرری کسی بنیادی پیمانہ تنخواہ کی انتہائی حد تک پہنچنے سے قبل کسی تقویمی سال کی ۲ جون اور ۳۰ نومبر کی درمیانی مدت میں، اعلیٰ بنیادی پیمانہ تنخواہ کی حامل کسی دیگر اسامی پر کر دی جاتی

ہے تو وہ اپنی اختیاری رائے پر اپنی تنخواہ کا اعلیٰ پیمانہ تنخواہ میں اپنی متوقع تنخواہ کے حوالہ سے اسی تاریخ کو قبل از ترقی کے پیمانے میں اپنے سال ترقی میں یکم دسمبر سے باز تعین کرا سکتا ہے۔

(وزارت مالیات کی دفتری یادداشت نمبر ایف۔۳ (۲) جریدی قبیل ۷۵۔۷۵ مورخہ ۷۵/۳۰، مورخہ ۷۵/۳۰، ایف ۵ (۲)۔ قبیل ۷۸۔۷۸ مورخہ ۷۵۔۳۰، ایف ۳ (۸۳) اور آر ۸۲ اندراج نمبر ۸۳/۸۳۔ آر۔ ۸۱/۲ مورخہ ۷۵۔۳۰ اور ایف (۲۹) آر۔ ۳ (الف) ۸۳ مورخہ ۷۵۔۳۰۔ ۸۲۔۳۰

۹۹۔ فیس اور اعزازیہ (بنیادی قاعدہ ۳۸۶/۳۶)

۱۔ ایک سرکاری ملازم کو حاکم مجاز کسی پرائیویٹ شخص یا ادارے کے لیے یا سرکاری ادارے بشمول وہ ادارہ جو مقامی فنڈ کا انتظام کرتا ہو۔ کسی خاص خدمت یا خدمتوں کا سلسلہ انجام دے سکتا ہے بشرطیکہ یہ کام اس کے سرکاری فرائض اور ذمہ داریوں کے لیے نقصان دہ نہ ہوں۔

۲۔ اگر یہ خدمت مادی حیثیت کی ہے تو سرکاری ملازم کو اجازت مل سکتی ہے کہ وہ متوالی یا غیر متوالی فیس وصول کرے۔ وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں کے سربراہوں کو پورے اختیارات دیے گئے ہیں کہ وہ کام کی ذمہ داری کے بارے میں منظور دیں جس کے لیے فیس کا پیش کرنا اور اس کا قبول کرنا وزارت خزانہ کی دفتری یادداشت نمبر ایف۔۱ (۵) آر۔ ۸۰/۳ مورخہ ۱۱ مارچ ۱۹۸۱ء کے منسلک ۱ کی مشق نمبر ۲۱ میں دیا گیا ہے۔

۳۔ ضمنی قاعدہ ۳ کے تحت کسی بھی فیس کا ایک تہائی جو ۵۰ روپے سے زائد ہو یا اگر ۵۰ روپے سالانہ بطور متوالی کسی سرکاری ملازم کو پاکستان میں اس کی خدمت کے صلے میں دیے گئے ہیں تو وہ عام محاصل میں جمع کروا دیے جائیں گے۔

۴۔ ۸۰۰ ڈالر سے زائد کسی بھی فیس کا ایک تہائی یا اس کے برابر جو کسی سول

ملازم نے پاکستان سے باہر کسی کو مشورہ دینے کے طور پر وصول کیے ہیں تو وہ عام محاصل میں جمع کروانے ہوں گے۔ تاہم وزارتوں، ڈویژنوں اور محکموں کے سربراہوں کے پاس پورے اختیارات ہیں کہ وہ چاہیں تو سرکاری ملازم کو اپنی فیس کا کوئی حصہ تجزی سرکار جمع کروانے سے مستثنیٰ کر سکتے ہیں۔ جو اس نے پاکستان میں خدمت کے صلے میں وصول کی ہو۔

(حوالہ دفتری یادداشت مورخہ ۱۱ مارچ ۱۹۸۱ منسلک ۱ کی مد نمبر ۲۲۔)

۵۔ یہ قاعدہ ان فیسوں پر جو سرکاری ملازموں نے یونیورسٹی سے یا کسی اور امتحانی ادارے سے یا ثانوی تعلیمی بورڈ سے ممتحن کے طور پر کام کر کے حاصل کیں یا کتابوں پر تبصرہ کر کے وصول کیں، عائد نہیں ہوتا۔ یہ ان فیسوں پر بھی عائد نہیں ہوتا جو سرکاری ملازم ریڈیو اور ٹیلی وژن پروگراموں میں حصہ لے کر یا رسالوں اخباروں وغیرہ میں مضمون یا خط وغیرہ لکھ کر حاصل کریں بشرطیکہ ایسا نشریہ یا ٹیلی وژن پروگرام یا اخباروں وغیرہ کو مواد، خالص ادبی، فنکارانہ یا سائنسی نوعیت کا ہو۔

۶۔ حاکم مجاز کسی سرکاری ملازم کے لیے اس کے کام کے عوض محاصل سے اعزازیہ منظور کر سکتا ہے۔ بشرطیکہ درج ذیل شرائط پوری ہوں۔

(۱) کام اتفاقی نوعیت کا ہو۔

(۲) کام اتنا محنت طلب ہو یا اسی خاص نوعیت کا ہو، جس کے لیے خصوصی انعام دیے جانے کا جواز نکلا ہو۔

(۳) حاکم مجاز نے کام کی ذمہ داری کی پہلی اجازت دے دی ہو۔

(۴) اعزازیہ کی رقم کا تصفیہ پہلے سے کر لیا گیا ہو۔

۷۔ کسی معاملے میں آخری دو شرائط پوری نہیں ہوتیں تو تحریر میں ان کی وجوہات درج کر دی جائیں۔ فیس اور اعزازیہ، دونوں صورتوں میں منظوری دینے والا حاکم اس نوعیت کا تصدیق نامہ دے کہ ان اصولوں کا پورا خیال رکھا گیا ہے جو بنیادی قاعدہ نمبر ۱۱ میں درج ہیں اور اضافی معاوضہ دینے کی وجوہات بھی درج

کی جائیں۔ افسر خاصہ اس بات پر مصر ہو سکتا ہے کہ اعزازیہ یا فیس کی منظوری کے لیے ہر معاملے میں وجوہات سے اسے آگاہ کیا جائے۔

۸۔ سرکاری ملازم کے کام میں عارضی اضافہ کوئی مناسب جواز نہیں کہ اسے اعزازیہ دیا جائے۔ سرکاری ملازمت میں کام میں عارضی اضافہ ایک عام بات ہے اور بنیادی قاعدہ نمبر ۱ کے مطابق سرکاری ملازم کے جائز فرائض میں شامل ہے لہذا اضافی معاوضے کا دعویٰ نہیں کیا جاسکتا۔

۹۔ وہ اختیارات جن کے ذریعے کام کی ذمہ داری قبول کی جائے اور جس کے لیے اسے اعزازیہ دیا جائے اور اعزازیہ کے عطا کرنے اور اسے قبول کرنے کا حق، یہ سب وزارتوں اور محکموں کے سربراہوں کو تفویض کر دیئے گئے ہیں جس کی رو سے وہ ہر معاملہ میں زیادہ سے زیادہ ۵۰۰۰ روپے اور ۱۰۰۰ روپے علی الترتیب منظور کر سکتے ہیں۔ یہ رقم ایک موقع پر متعلقہ سرکاری ملازم کی ایک ماہ کی تنخواہ سے زائد نہیں ہونی چاہیے۔

(بحوالہ دفتری یادداشت مورخہ ۱۱ مارچ ۱۹۸۱ کے منسلک ۱ کی شق ۲ کے تحت)

متوالی اعزازیہ کے سلسلے میں یہ حد اس مجموعی متوالی ادائیگی پر لاگو ہوتی ہے جو ایک فرد کو کسی مالی سال میں دی جائے۔ اختیار کا استعمال اس شرط کے تابع ہے کہ متعلقہ قواعد اور پالیسی ہدایات کو وزارت خزانہ وقتاً فوقتاً جاری کرتی رہتی ہے۔ ان پر باضابطہ عمل کیا جائے اور اعزازیہ کی ادائیگی کو ایسے طور پر استعمال نہ کیا جائے کہ سرکاری ملازم کو خاص تنخواہ کے بدلے یہ اعزازیہ دیا جاتا رہے جو کہ قواعد کے تحت قابل منظوری ہی نہ ہو۔ اعزازیہ پر کوئی خرچ نہ کیا جائے۔ اس گنجائش سے زائد جو منظور شدہ بجٹ میں رکھی گئی ہو اور اس گنجائش سے زیادہ خرچ کسی مرحلے پر ضروری ہو جائے تو مالی مشیر سے پیشگی منظوری ضروری ہے، اس سے پہلے کہ یہ اخراجات کیے جائیں۔

۱۰۔ وہ اعزازیہ جو سرکاری ملازم بطور ممتحن، پچھ مرتب کرنے والے یا بورڈ کے زبانی امتحان کے سلسلے میں جو بھرتی کے لیے سرکاری ملازمت کے وفاقی کمیشن کے

امتحانات یا صوبائی پبلک کمیشن کے امتحانات کے سلسلے میں وصول کرتا ہے اس کے لیے حکومت سے الگ منظوری کے ضرورت نہیں۔ اس سلسلے میں جب ایک بار متعلقہ محکمہ ان کے اس طرح تقرری پر رضامند ہو جاتا ہے تو اعزازیہ کی منظوری از خود اس میں شامل ہو جاتی ہے۔

۱۱۔ متوفی سرکاری ملازم کے ورثاء کو اعزازیہ دینے پر کوئی اعتراض نہیں۔

۱۲۔ سرکاری ملازم کو درج ذیل وصول کرنے کے لیے کسی خاص اجازت کی ضرورت نہیں۔

(الف) مضمون نویسی یا نقشہ کے لیے کسی عوامی مقابلہ میں انعام کی رقم حاصل کرنے پر۔

(ب) کسی مجرم کو گرفتار کرنے پر عدل گستری کے لیے کی گئی خاص خدمات کے صلے میں جو انعام وصول کیا جائے۔

(ج) کوئی انعام جو کسی قانون یا ضابطہ میں گنجائش کے مطابق دیا جائے۔

(د) کوئی انعام جو کسٹم اور ایکسائز کے قوانین کی عملداری کے سلسلے میں خدمات دینے پر دیا گیا ہو۔

(و) کوئی فیس جو سرکاری ملازم کو سرکاری حیثیت میں کسی خاص یا مقامی قانون یا حکومت کے احکام کے تحت اپنے فرائض کی انجام دہی کے سلسلے میں ہو۔

۲۰۔ برطینی (بنیادی قاعدہ - ۵۲)

سرکاری ملازم کو اپنی اسامی کے تنخواہ اور الاؤنس کی اس تاریخ سے ادائیگی بند کر دی جاتی ہے جب اسے ملازمت سے برطرف یا موقوف کر دیا جائے۔

۲۱۔ معطل اور بحالی۔ (بنیادی قاعدہ ۵۳-۵۴)

۱۔ معطل کے دوران سرکاری ملازمین درج ذیل ادائیگیوں کے حقدار ہیں۔

(الف) پاکستان طبی محکمے کے کمشنڈ افسر یا ورنٹ افسر جنھیں فوجی ڈیوٹی پر واپس

بھیجا جا سکتا ہے۔ وہ اس تنخواہ اور الاؤنسوں کے حق دار ہوں گے جو انہیں اس صورت میں ملتی کہ وہ فوجی ملازمت میں ہوتے ہوئے معطل ہو جاتے۔
 (ب) وہ سرکاری ملازم (ان کے علاوہ جن کا اوپر (الف) میں ذکر ہے) اور سرکاری نگرانی میں ملنے والے اور خود مختار اداروں کے افسران ملازم جو معطل کر دیے گئے ہوں۔ وہ حسب ذیل ادائیگیوں اور سہولتوں کے حقدار ہوں گے:-

(i) گزارہ امداد

معطل شدہ سرکاری ملازم کی تنخواہ کے نصف کے برابر جیسا کہ وزارت خزانہ کی دفتری یادداشت نمبر ۱۳ (۳۲)۔ آر۔ ۷۰.۳ مورخہ ۱۳ فروری ۱۹۷۰ میں درج ہے۔

(ii) الاؤنس

مطلانی الاؤنس جن کی وضاحت حسب ذیل کی گئی ہے۔ اگر وہ معطل سے پہلے قابل منظوری ہوں:-

- (الف) اعلیٰ اسامی کا الاؤنس
- (ب) کرایہ مکان الاؤنس
- (ج) مقامی مطالبی الاؤنس
- (د) سواری الاؤنس
- (ر) منگائی الاؤنس

(iii) ٹیلیفون رہائش گاہ

جیسا کہ کیبنٹ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۵-۱-۱۹۷۰ (کوآرڈون) مورخہ ۵ مئی میں مذکور ہے، اگر افسر کے گھر پر سرکاری ٹیلی فون ہو تو معطل کے دوران ہٹایا نہیں جائے گا لیکن معطل کے دوران ٹیلی فون کی لائن کا کرایہ متعلقہ

وزارت ڈویژن محکمہ رادارہ (جہاں سے معطل شدہ افسر اپنے واجبات وصول کرتا ہے) ادا کرے گا، جبکہ مقامی کال اور ٹرنک کال کی ادائیگی افسر خود کرے گا۔

(iv) رہائش گاہ پر ملازم

جہاں گھر کے لیے اردل دیا گیا ہے، وہ واپس لے لیا جائے گا۔

(v) سواری

- ۱- سرکاری سواری مہیا نہیں کی جائے گی۔
- ۲- سرکاری ملازم جو قرض یا فوجداری جرم کی وجہ سے قید ہو جاتا ہے، اسے اس تاریخ سے جب وہ گرفتار ہوا، اور اس وقت تک جب تک اس کے خلاف کارروائی ختم نہیں ہو جاتی، معطل سمجھا جائے۔ یعنی اس کی معطلی اس تاریخ سے از خود ہو جائے گی، جب وہ گرفتار ہوا اور اس وقت تک قائم رہے گی جب تک اس کے خلاف کارروائی ختم نہیں ہو جاتی۔
- ۳- سرکاری ملازم جس کے خلاف فوجداری جرم یا گرفتاری یا قرضہ کے لیے کارروائی زیر غور ہو، اسے بھی خاص احکام کے تحت اس مدت کے دوران معطل کر دینا چاہیے جب وہ حراست یا قید میں نہیں ہے۔ (یعنی جب وہ ضمانت پر ہو) اگر عائد شدہ الزام یا کارروائی اس کی سرکاری حیثیت سے متعلق ہے یا فرائض کی ادائیگی میں اسے پریشانی ہوتی ہے یا اس سے اخلاق بے راہروی ظاہر ہوتی ہے۔

- ۴- جاکم مجاز سے معطل کی مدت میں ہر ۳ ماہ بعد اضافہ کے لیے منظوری کی ضرورت ہے۔ سرکاری ملازموں کے قواعد (اہلیت و انضباط) مجریہ ۱۹۷۳ میں درج ہے۔ اس کا اطلاق ان قواعد کے تحت معطلوں پر بھی ہوتا ہے۔ گورنمنٹ ۱۹۷۳ یا ۱۹۷۳ (الف) میں ایسی کوئی ضرورت درج نہیں۔

۵۔ ان معاملوں میں جہاں سرکاری ملازم کی معطلی کو غیر واجب قرار دیا گیا ہو یا پوری طرح حق بجانب نہ ہو، یا اسے ملازمت سے برطرفی، موقوفی یا معطلی کے بعد بحال کر دیا گیا ہو تو نظر ثانی کرنے یا اپیل سننے والا حاکم مجاز اسے غیر حاضری کی مدت کی درج ذیل تنخواہ اور الاؤنس وغیرہ عطا کر سکتا ہے۔

(الف) اگر سرکاری ملازم باعزت طور پر بری ہو جائے تو اسے پوری تنخواہ ادا کی جائے۔ جیسا کہ اگر وہ برطرف ملازمت سے الگ یا معطل نہ ہوتا، مقدار ہوتا۔ ان حالات میں غیر حاضری کی مدت کو یہ سمجھا جائے کہ جیسے وہ ڈیوٹی پر تھا۔ اس مفاد کے لیے بنیادی قاعدہ ۵۳ کو قطعی غیر مشروط سمجھا جائے اور یہ سوال نہ اٹھایا جائے کہ آیا کوئی اسامی خالی ہے یا نہیں۔ کہ جس کے مقابل غیر حاضری کی مدت میں اس کا تسویہ کیا جاتا یا اس کا اب کوئی حق عود نہیں رہا اور ایک دوسرا سرکاری ملازم مستقل طور پر اس کی جگہ تعینات کر دیا گیا ہے۔ اگر حق عود کی شرط کو پہلے پورا کیا ہوتا تو یہ قاعدہ قطعی نہ ہوتا۔

(ب) جہاں سرکاری ملازم باعزت طور پر بری نہیں ہوتا تو اسے تنخواہ کا وہ حصہ دیا جائے جو حاکم مجاز نے تجویز کیا ہو۔ اس معاملے میں غیر حاضری کی مدت کو ڈیوٹی پر تصور نہ کیا جائے، جب تک کہ نظر ثانی یا اپیل سننے والا حاکم یہ ہدایت نہ کر دے کہ اسے ڈیوٹی پر تصور کیا جائے۔

حاکم مجاز یہ بھی ہدایت کر سکتا ہے کہ معطلی میں جو مدت گزری ہے اسے رخصت تصور کیا جائے اور فوائد کے تحت اسے رخصت کی تنخواہ دی جائے۔ معطلی کی مدت کو غیر معمولی رخصت بھی قرار دیا جاسکتا ہے لیکن اس صورت میں گذارہ امداد اور الاؤنس جو معطل شدہ سرکاری ملازم کو دیے گئے تھے، ان کی بازیابی نہیں ہوگی۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بنیادی قاعدہ ۵۳، حاکم مرافعہ کو یہ اجازت دیتا ہے کہ جو مدت معطلی میں گزری ہو وہ اسے رخصت کی مدت میں تبدیل کر دیا جائے۔

(ج) بتایا جاتے کی رقم جو متعلقہ سرکاری افسر کو ادا کی جانی ہو، خواہ وہ عدالت کے

فیصلے پر یا محکمے کے افسر مجاز کے اپیل منظور کرنے پر بحال ہو گیا ہو۔ اس میں سے وہ رقم کم کر دی جائے جو اس نے برطرفی، موقوفی، معطلی کی صورت پر تنخواہ کے طور پر حاصل کی ہو یا کسی ملازمت کے اختیار کرنے سے حاصل کیا ہو یا وہ منافع بخش تجارت میں مصروف رہا ہو اور اس رقم کا اندازہ کرنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کی جائے گی جس میں دو افسر، انتظامیہ ڈویژن سے ہوں گے اور ایک نمائندہ خزانہ ڈویژن سے ہو گا۔

۶۔ اگر سرکاری ملازم جو معطل کیا جا چکا ہو اور اس کے خلاف تحقیقات زیر غور ہو۔ اس عرصہ میں وہ تحقیقات مکمل ہونے سے قبل حیرانہ سالی کو پہنچ جائے تو اس کے خلاف تادمی کارروائی روک دی جائے گی اور ایسے ملازم کو پینشن کے تمام فوائد کے ساتھ فارغ خدمت کر دیا جائے گا اور اس کی معطلی کی مدت کو ڈیوٹی تصور کیا جائے گا۔

۷۔ وہ اسامیاں جو ملازم کی برطرفی سے خالی ہوں انھیں مستقل طور پر پُر کیا جا سکتا ہے لیکن ایسے انتظامات کو ختم کرنا پڑے گا۔ اگر برطرف ملازم اپنی اپیل کی منظوری کی بنا پر بحال ہو جاتا ہے۔

۸۔ معطل سرکاری ملازم کو رخصت نہیں دی جائے گی۔

۲۲۔ ایکٹ سول پلازمین، ۱۹۷۳ کے تحت جبری ریٹائرمنٹ

۱۔ ملازمت سے فارغ خدمتی: سول ملازم، ملازمت سے درج ذیل صورتوں میں فارغ خدمت ہو جائے گا۔

(i) ایسے شخص کے معاملے میں جو وفاقی حکومت میں اضافی مہتمم کی اسامی پر مامور ہو یا اس کے مساوی یا اس سے اوپر کی اسامی پر، اس تاریخ سے حاکم مجاز مفاد عامہ کے پیش نظر ہدایت دے۔

(ii) کسی دوسرے معاملے میں، ۲۵ سال کی اضافی ملازمت، مہتمم یا دوسرے فوائد کے لیے پوری کرنے کے بعد اس تاریخ سے جس سے حاکم مجاز مفاد عامہ

کے پیش نظر حکم دے۔

(۱) جہاں شق (۱) کے تحت یا جو بھی صورت ہو، شق (۲) کے تحت کوئی ہدایت نہ دی گئی ہو تو ۶۰ سال کی عمر پوری کرنے پر۔

وضاحت:

اس سینڈ میں حاکم مجاز سے مراد ہے، حاکم تقرر، جو متعلقہ سول ملازم سے عہدہ میں کم نہ ہو۔

۲۔ رخصت قبل از فارغ خدمتی صرف اس صورت میں دی جا سکتی ہے جب سرکاری ملازم خود اس کے لیے درخواست دے۔

(یہ ہیئت مجازہ۔ وزارت خزانہ نمبر ایف۔ ۴ (۳) آر۔ ایس۔۔۔ ۴۴ مورخہ ۳ اپریل ۱۹۶۶)

۳۔ ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا سرکاری ملازم کو ایسی صورت میں رخصت دینے کی اجازت ہے جو اس حق کا استعمال کرتے ہوئے جو اس وزارت کی دفتری یادداشت نمبر سی۔ بی۔ ۲-۳-۶۳۔ ایمپ (۱) مورخہ ۱۸ اور اگست ۱۹۶۶ کا پیرا ۵ عطا کرتا ہے۔ ۲۵ سال کی اتصافی ملازمت پوری کرنے کے بعد لیکن عمر پیرا نہ سالی سے قبل فارغ خدمتی کے لیے درخواست دے۔ اس سلسلے میں عمل ڈویژن کے ساتھ مشورہ کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایسے سرکاری ملازم کو رخصت دی جا سکتی ہے۔ اگر اسے واجب ہو اور ان قواعد کے مطابق ہو جو اس پر عائد ہوتے ہوں، بشرطیکہ:-

(۱) رخصت کے لیے اس تاریخ سے، جب فارغ خدمتی مؤثر ہوتی ہو، کافی پہلے درخواست دی جائے۔

(۲) رخصت اس رخصت سے زیادہ نہ ہو جو اسے متعلقہ قواعد کے تحت بطور رخصت قبل از فارغ خدمتی دی جاتی اور

(۳) رخصت کی منظوری بنیادی قاعدہ ۶۷ کی گنجائش سے مشروط ہے۔

(یہ ہیئت مجازہ۔ وزارت خزانہ غیر سرکاری نمبر ۱۰۹۳۔ آر۔ ایس۔ ۶۷ مورخہ ۲ اگست ۱۹۶۷)

۴۔ اگر سرکاری ملازم ”قبل از فارغ خدمتی“ رخصت کے دوران۔ مرکزی یا صوبائی حکومت یا خود مختار یا نیم خود مختار کارپوریشن یا ادارہ جو مرکزی یا صوبائی حکومت نے قائم کیا ہو یا ان کی نگرانی میں ہوں یا مقامی ادارہ یا مقامی فنڈ میں ملازمت اختیار کرے تو اس رخصت کی تنخواہ متوقع پیش کی رقم تک محدود کر دی جائے گی۔ اس سرکاری فیصلے کے مطابق جو بنیادی قاعدہ ۴۹ کے تحت دیا گیا ہے۔ (یہ ہیئت مجازہ۔ وزارت خزانہ نمبر ایف۔ ۴ (۳) آر۔ ایس۔ ۶۶۔ مورخہ ۱ نومبر ۱۹۶۶)

۲۳۔ مہلت حاضری۔ (بنیادی قاعدہ۔ ۱۰۵ تا ۱۰۸)

۱۔ سرکاری ملازم کو ”مہلت حاضری“ اس لیے دی جاتی ہے کہ وہ اس قابل ہو۔ (الف) کہ وہ پرانی اسامی پر ڈیوٹی پر رہتے ہوئے اپنی نئی اسامی پر حاضر ہو سکے جس پر اس کا تقرر کیا گیا ہے۔ یا (ب) نئی اسامی پر حاضر ہو سکے۔

(۱) رخصت باسالم تنخواہ سے واپسی پر جو ۴ چار ماہ سے زیادہ نہ ہو۔
(۲) جبکہ اسے نئی اسامی پر حاضر ہونے کے لیے کافی نوٹس نہ دیا گیا ہو۔ کسی قسم کی رخصت سے واپسی پر سوائے اس رخصت کے جس کی اوپر (۱) میں وضاحت کی گئی ہے یا

(ج)

(۱) کسی مخصوص مقام سے کسی دور افتادہ علاقے میں اسامی پر حاضری کے لیے روانگی کے لیے جہاں پہنچنا آسان نہ ہو۔

(۲) اسامی کا چارج چھوڑنے کے بعد کسی دور افتادہ علاقے سے کسی مخصوص مقام تک روانگی کے لیے۔

۲۔ حسب ذیل کچھ اہم فیصلے جو ان قواعد کے تحت جن کا حوالہ اوپر دیا گیا ہے۔

(الف) اس صوبائی سرکاری ملازم کو جو کہ اپنی پرانی اساسی ڈیوٹی پر ہے اور جس کو مرکزی حکومت کے تحت اساسی پر تقرر کیا گیا ہے۔ کوئی "مہلت حاضری" مہلت حاضری کی تنخواہ اور سفری الاؤنس نہیں دیا جائے گا جبکہ وہ اپنی نئی ملازمت پر صوبائی حکومت کی ملازمت سے استعفیٰ دے کر یا کسی اور طرح ختم کر کے حاضر ہو۔ جب کسی خاص سرکاری ملازم کی ملازمت وسیع تر مفاد عامہ میں ہو تو انہیں قاعدے میں نرمی کی جاسکتی ہے۔

(ب) اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی پرانی ملازمت سے پوری تنخواہ کے ساتھ رخصت پر چلا جائے، جو چار ماہ سے زیادہ نہ ہو اور اسے کسی اور مقام پر نئی اساسی پر تعینات کر دیا گیا ہو جہاں وہ رخصت گزار رہا ہے تو اسے صرف ایک دن کے لیے مہلت حاضری ضمنی قاعدہ ۲۹۳ کے تحت دی جائے۔

(ج) وہ سرکاری ملازمین جو مقابلہ کے امتحان کے نتیجے میں جو کہ سرکاری ملازمین اور دوسروں کے لیے کھلا ہو۔ مرکزی حکومت کے تحت اساسیوں پر تعینات کیے جاتے ہیں۔ حسب ذیل طریقے پر مہلت حاضری اور مہلت حاضری کی تنخواہ ادا کرنے کی اجازت ہے۔

(i) مہلت حاضری، مرکزی حکومت اور صوبائی حکومتوں کے تمام ایسے سرکاری ملازمین کے لیے قابل منظوری ہے جو اساسی اساسیوں کے حامل ہیں۔

(ii) مہلت حاضری کی تنخواہ صرف ان سرکاری ملازموں کو دی جاسکتی ہے (شمول ملازمین صوبائی حکومت) کو کہ مستقل اساسیوں پر اساسی حیثیت سے کام کر رہے ہیں۔

(iii) تبادلہ پر سفری الاؤنس کی صرف ان معاملوں میں اجازت ہوگی جہاں مہلت حاضری کی تنخواہ اور محولہ بالا نمبر ۱ کے تحت اجازت ہو۔

(د) فوجی افسر جو سول ملازمت میں ہو اس کی مہلت حاضری اور سفری الاؤنس سول قواعد کے تابع ہیں۔ ان قواعد کے مقاصد کے تحت فوجی قواعد کے تحت

رخصت استحقاق پوری تنخواہ ہر رخصت، تصور کرنا چاہیے جو چار ماہ کی مدت سے زیادہ نہ ہو۔

(e) تربیت کی جگہ اور وہ مقام جہاں سرکاری ملازم تربیت پر جانے سے پہلے اور بعد میں تعینات ہو، کے درمیان سفر کے لیے جو معقول وقت درکار ہو، اسے تربیت کا حصہ خیال کرنا چاہیے۔ یہ فیصلہ ان آزمائشی ملازموں پر عائد نہیں ہوتا جو تربیتی اساسیوں پر کام کر رہے ہوں لیکن وہ مہلت حاضری کے حق دار ہیں جبکہ ان کا تبادلہ ہو۔

(و) ان معاملوں میں جہاں سرکاری ملازم ختم کرنے کے بعد مہلت حاضری کا حقدار ہو۔ اگر وہ نئی تعیناتی پر اپنی رخصت سے مہلت حاضری (جس کا وہ حقدار تھا) کے ختم ہونے سے پہلے حاضر ہو جائے۔ تو رخصت کا باقی حصہ رخصت غیر استفادہ سمجھا جائے اور اسے حاکم منظور کنندہ کو اطلاع دیے بغیر منسوخ کر دیا جائے۔ تاہم اگر معلقہ سرکاری ملازم پوری مہلت حاضری سے استفادہ نہ کرنے کی خواہش ظاہر کرے تو اس کی مرضی کے مطابق اس کا تسویہ کر دیا جائے۔

(ز) رخصت کے ساتھ اگر تعطیل ملی ہوئی ہو تو بنیادی قاعدہ ۱۵ (ب) (۱) 'ج' کے مندرجات کے مطابق (جو ۳ ماہ متجاوز نہ ہو اور بیرون پاکستان ۳ ماہ سے زائد) اسے سالم تنخواہ کے ساتھ رخصت کا حساب کرتے ہوئے رخصت شمار کیا جائے۔

(ح) جب سرکاری ملازم کو رخصت سے واپسی پر مہلت حاضری کی اجازت دی جائے اور وہ دور افتادہ علاقہ تعینات ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ مجوزہ مقام پر اپنی اور مہلت حاضری کی مدت کے اندر اندر حاضر دے جیسا کہ بنیادی قاعدہ ۱۰۵ (ب) یا (ج) میں درج ہے اور مجوزہ مقام سے آگے سفر کے لیے مہلت حاضری بنیادی قاعدہ ۱۰۵ (د) کے تحت منضبط ہوگی۔

۳۔ مقامی حکومت بنیادی قاعدے ۱۰۶ کی شرائط کے مطابق بنیادی قاعدہ ۱۰۵ کے تحت قابل منظوری مہلت حاضری کو منضبط کرنے کے قواعد بنانے اور ایسے

مقامات اور جگہوں کا تعین کرنے کی مجاز ہے جن پر شق (ز) کا اطلاق ہوتا ہے۔ مرکزی حکومت نے بحیثیت مقامی حکومت بعض قواعد تشکیل دیے ہیں جو بنیادی قواعد ۳۹۳ تا ۳۹۴ (الف) پر مشتمل ہیں۔

۳۔ سرکاری ملازم مہلت حاضری میں ڈیوٹی پر تصور کیا جاتا ہے اور مہلت حاضری کی تنخواہ حسب ذیل طریقے پر منضبط ہوتی ہے۔

(الف) اگر اس کا تبادلہ نئی اسامی پر ہو جائے جب کہ وہ پرانی جگہ پر ڈیوٹی پر ہو، تو وہ اس تنخواہ کا حقدار ہو گا جو کہ وہ پرانی اسامی پر اگر کام کرتا رہتا تو حاصل کرتا یا وہ تنخواہ جو وہ نئی اسامی کا چارج لینے پر حاصل کرے گا۔ جو بھی دونوں میں سے کم ہو۔

(ب) جب رخصت سے واپسی پر مہلت حاضری کی اجازت ہو، تو سرکاری ملازم رخصت کی تنخواہ، مہلت حاضری کے دوران حاصل کرے گا اس شرح پر جو پاکستان میں رخصت کی تنخواہ ادا کرنے پر تجویز کیا گیا ہے۔ غیر معمولی رخصت سے واپسی پر مہلت حاضری کی تنخواہ نہیں دی جائے گی سوائے اس غیر معمولی رخصت کے جو ۱۳ دن سے زیادہ نہ ہو اور کسی دوسری رخصت کے ساتھ لی گئی ہو۔

(ج) مہلت حاضری جو مجوزہ مقام سے دور افتادہ علاقے تک یا اس کے برعکس جائزہ ہو تو سرکاری ملازم تنخواہ کا اس طرح حقدار ہو گا جیسے کہ وہ دور افتادہ علاقہ میں اپنی اسامی پر ڈیوٹی پر لیتا۔ یہ اس سرکاری ملازم پر بھی عائد ہو گا جو براہ راست تبادلہ پر ہو۔

۵۔ قواعد کے تحت مہلت حاضری کی مدت کا شمار درج ذیل طریقے پر کیا جائے۔

مہلت حاضری کی صرف ایک دن کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے جب کہ دوسری اسامی ہر تعیناتی کے سلسلے میں ایک مقام سے دوسرے مقام کے لیے قیام گاہ نہ بدلی جائے۔ اس قاعدے کے تحت ایک تعطیل کو ایک دن شمار کیا جائے گا۔

۲۳۔ دوسرے مقام پر تبادلہ

۱۔ زیادہ سے زیادہ مہلت حاضری جو سرکاری ملازم کو ایک مقام سے دوسرے مقام کے لیے قابل منظوری ہے، وہ ۳۰ دن ہے۔ چھ دن تیاری کے لیے ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ جو اصل سفر میں وقت صرف ہو اس کا شمار اس طرح کیا جائے۔

(i) بذریعہ ریل ۲۵۰ میل ایک دن کے لیے

(ii) بذریعہ سمندری سفیر ۲۵۰ میل کے لیے یا زیادہ وقت جو اصل سفر میں گزرے۔

(iii) بذریعہ دریائی سفیر ۸۰ میل کے لیے

(iv) موٹر کار ۸۰ میل کے لیے

(v) ہوائی جہاز جتنے دن اصل ہوائی سفر میں صرف ہوئے ہوں۔

۲۔ ان تمام قاصدوں کے لیے جو اوپر مذکور ہیں ان کی کسر کے سلسلے میں ایک دن کی اجازت ہو گی۔ بذریعہ سفر کرنے کے معاملوں میں تیاری کے لیے چھ دن کی حد کو بڑھا دیا جائے۔ اسی غیر اختیاری عرصہ کے لیے جو سفیر کی روانگی کے سلسلے میں انتظار میں صرف ہوا۔

۳۔ بذریعہ سڑک سفر جو پانچ میل سے زیادہ نہ ہو اور ریلوے اسٹیشن یا سفیر گھاٹ سے آنے جانے پر صرف ہو، سفر کے شروع ہونے یا ختم ہونے پر مہلت حاضری میں شمار نہیں کرنا چاہیے۔ ان قواعد کے لیے جمعہ کو ایک دن کے طور پر شمار نہیں کرنا چاہیے لیکن جمعہ کو ۳۰ دن کی زیادہ سے زیادہ حد میں شامل کرنا چاہیے۔

۴۔ افسر مجاز جو تبادلہ کی منظوری دیتا ہے اسے اختیار ہے کہ وہ مہلت حاضری کی

مدت کو جو قواعد کے تحت جائز ہے کم کر دے اگر خاص حالات کا تقاضا ہو۔

۲۵۔ عمومی احکام (ذیلی قواعد ۲۹۹ تا ۳۰۲)

۱۔ مہلت حاضری کا عام طور پر اس راستے سے لگایا جاتا ہے جو مسافر عام طور استعمال کرتے ہیں۔ اس راستے سے قطع نظر جس پر سرکاری ملازم نے اصل میں سفر کیا۔

۲۔ اگر سرکاری ملازم کو ایسی جگہ پر چارج لینا ہو جو اس کے صدر مقام سے الگ ہو، تو مہلت حاضری کا حساب اسی جگہ سے لگایا جائے جب سرکاری ملازم کو نئی اسامی پر ملازم رکھا جائے تو اسامی سے دوسری اسامی تک سفر کے دوران تو اس کی مہلت حاضری اس دن سے شمار ہوگی جو تبادلہ کے احکام وصول کرنے کے دن کے بعد آئے گا لیکن ایسے معاملوں میں تیاری کے لیے چھ دن کے دوسرے مرحلے اجازت نہیں ہوگی۔

۳۔ جہاں سرکاری ملازم ایک اسامی سے دوسری اسامی کے سفر کے دوران رخصت حاصل کرتا ہے تو وہ عرصہ جو اس کے پہلی اسامی کا چارج چھوڑنے کے بعد سے ضائع ہو گیا اس کی رخصت میں شمار کیا جائے البتہ اگر رخصت طبی سرٹیفکیٹ پر مانگی گئی ہے تو اس عرصہ کو مہلت حاضری سمجھا جائے۔

جب ایک سرکاری ملازم کسی نئی اسامی پر ملازم ہوتا ہے جبکہ وہ رخصت پر ہو جو ۳ ماہ سے زیادہ نہ ہو تو مہلت رخصت کا حساب اس کے پرانے مقام سے یا اس مقام سے جہاں وہ رخصت گزار رہا ہو لگایا جائے گا جو بھی کم مہلت حاضری کا اسے حقدار بتاتا ہو۔

۴۔ مہلت حاضری کے عرصہ کو افسر مجاز ۳۰ دن سے زیادہ بھی بڑھا سکتا ہے۔ اگر اضافہ کو حق بجانب ثابت کرنے کے لیے خاص حالات ہوں۔ بیرون ملک ملازمت۔۔۔۔۔ (بنیادی قواعد ۱۰۹ سے ۱۳۷)

۵۔ ملازمت خارجہ سے مراد ایسی ملازمت ہے جس میں سرکاری ملازم اپنی تنخواہ حکومت کی منظوری سے وفاقی یا صوبائی محاصل کے علاوہ دیگر وسائل سے وصول کرتا ہے۔ ملازمت خارجہ کی قیود و شرائط ان متعلقہ شرائط کے تحت منضبط

کیے گئے ہیں جو بنیادی قواعد میں موجود ہیں اور انہیں عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۸۱۸/۸۱۸-آر۔ ۳ (سی وی) مورخہ ۲۳ اپریل ۱۹۸۲ء اور تازہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۵ (۵)۔ آر۔ ۷۹ مورخہ ۲۹ جنوری ۱۹۳۸ء کے ساتھ پڑھا جائے۔ ان کی نمایاں خصوصیات حسب ذیل ہیں:

(۱) سرکاری ملازم کو اس تاریخ سے بیرون ملک ملازمت پر تصور کیا جائے گا جب وہ سرکاری اسامی کا چارج چھوڑتا ہے۔ وہ ملازمت خارجہ سے اس دن لوٹے گا جس تاریخ کو سرکار کے تحت اسامی کا چارج لے گا۔ اگر وہ سرکار کے تحت اسامی پر حاضر ہونے سے پہلے رخصت لے لیتا ہے تو اس کے بیرون ملک ملازمت سے لوٹنے کی تاریخ کا فیصلہ حکومت کرے گی۔

(۲) ملازمت خارجہ کے دوران متعلقہ شخص تنخواہ، مہلت حاضری کی تنخواہ، رخصت کی تنخواہ، جملہ الاؤنس اور سفری سہولتوں کا (اپنے اور اپنے خاندان کے لیے سفر کے اخراجات سے اس جگہ کے لیے جو مستعار لینے والی حکومت کے تحت ہے اور بیرون ملک ملازمت کے ختم ہونے پر (رخصت واپسی) کا حقدار ہو گا، ان ضوابط کے تحت یا شرائط کے تحت جو مستعار لینے والی حکومت ہوا رہے نے پیش کی ہیں۔

(۳) بیرونی آجر اور جہاں بیرونی آجر پیش لیتے ہیں، چند روپے کے لیے رضامند نہ ہو یا متعلقہ سرکاری ملازم، جو بھی صورت حال ہو۔ ملازمت خارجہ کے دوران حکومت پاکستان کو پیش کے لیے چندہ ادا کرے گا۔ یہ چندہ بیرونی کرنسی میں ہو گا۔ اگر ملازمت پاکستان سے باہر ہوگی اور ان مناسب قواعد کے تحت اور اس شرح پر جو حکومت پاکستان وقتاً فوقتاً تجویز کرتی رہے گی۔

اس سلسلے میں بیرونی آجر یا متعلقہ سرکاری ملازم، مرحلہ رقوم کو عام طریقوں سے بینک کے ذریعے پاکستان میں سرکاری ملازم کے آبائی دفتر کو خط کے ہمراہ جس میں متعلقہ "حساب کی مد" درج ہو۔ ارسال کرے گا۔ آبائی دفتر چالان اور جدولوں کی نقلیں متعلقہ افسر حسابات کو برائے اطلاع اور مزید ضروری

کارروائی کے لیے بھیجے گا۔ ان چندوں کی تاخیر کی صورت میں ذیلی قاعدہ ۳۰۷ کے گنجائش عائد ہوگی۔

اس وقت تک جب تک کہ پنشن کا چندہ یکساں شرح یعنی ۳۳-۳۳ فی صد کے حساب سے جو اس اسامی کے تنخواہ سکیل کے کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ سے متعلق ہو جس پر ملازم بیرونی ملازمت پر جانے سے پہلے تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے واجبات (جو پنشن کے لیے ضروری ہوں) جو اسے اس صورت میں ملتے، اگر وہ بیرون ملک ملازمت پر نہ ہوتا۔

(iv) ملازمت خارجہ کے دوران متعلقہ سرکاری ملازم اپنے عمومی کفالتی فنڈ میں برابر چندہ دیتا رہے گا۔ مرسلہ رقم کے ساتھ کفالتی فنڈ کا شیڈول جس میں کفالتی فنڈ کا نمبر اور اس افسر حسابات کا نام جو حسابات رکھتا ہے، ضرور بھیجا جائے۔ یہ مرسلہ رقم متعلقہ سرکاری ملازم کے آبائی دفتر کو بھیجی جائے۔ آبائی دفتر چالان اور شیڈول کی نقول متعلقہ افسر حسابات کو برائے اطلاع و ضروری کارروائی ارسال کرے گا۔

جہاں تک "فلاحی فنڈ" اور "گروپ انشورنس" کے چندوں کا تعلق ہے تو یہ متعلقہ سرکاری ملازم بینک کے ذریعے عام طریقوں سے "بورڈ آف ٹرسٹیز" (Board of Trustees) وفاقی ملازموں کا فلاحی فنڈ اور گروپ انشورنس فنڈ، نزد زبرد پوائنٹ اسلام آباد کو مجوزہ شیڈول کے ساتھ جو ہر طرح مکمل ہو، براہ راست بھجوائے۔

(v) متعلقہ شخص کی رخصت کی شرائط، اس کے خارجی ملازمت کے دوران قواعد کے مطابق یہ مستغیر حکومت یا ادارے کے ضوابط و شرائط کے مطابق منضبط ہوں گی۔ ایسی رخصت کے سلسلے میں واجب رخصت کی تنخواہ مستغیر حکومت یا ادارہ کو متعلقہ شخص کو ادا کرنی ہوگی۔

خارجی ملازمت کے دوران جو رخصت ملازم کی جمع کی ہوئی ہو، وہ اس کی رخصت کے کھاتے میں جو حکومت کے پاس ہے جمع نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی

ایسی رخصت کے تنخواہ کے بارے میں حکومت ہر کسی قسم کی ذمہ داری عائد ہو گی۔ حکومت رخصت کی تنخواہ کے سلسلے میں کوئی چندہ مستغیر حکومت یا ادارے سے وصول نہیں کرے گی۔

(vi) متعلقہ شخص، حکومت سے کسی قسم کی رخصت کی تنخواہ کا معذوری کی رخصت کے سلسلے میں حقدار نہ ہو گا۔ جو معذوری اسے خارجی ملازمت کے دوران لاحق ہوئی ہو، خواہ وہ معذوری خارجی ملازمت کے ختم ہونے کے بعد ظاہر ہو۔

(vii) خارجی ملازمت کے دوران متعلقہ شخص اپنے لیے یا کنبے کے لیے کسی طرح کی طبی سہولت کا حکومت کے خرچ پر حقدار نہیں ہو گا۔

(viii) متعلقہ شخص مستغیر حکومت یا ادارے کے ساتھ اس مدت کے لیے مستعار الخدمتی پر رہے گا جس کے لیے اصل اتفاق ہو گیا ہو، اصل مدت مستعار الخدمتی میں حکومت پاکستان کی منظوری کے بغیر کوئی توسیع نہیں ہوگی اور اگر ہو گی تو سرکاری ملازم کے لیے یہ بے قاعدگی سمجھا جائے گا، اور اس کے خلاف انضباطی کارروائی کی جاسکتی ہے۔

(ix) اگر متعلقہ شخص مستعار الخدمتی کے دوران، کسی اضافی فائدے کا حقدار ہو جائے یا کسی اور اسامی پر ملازم ہو جائے، جس سے اس کے واجبات میں تبدیلی ہو جائے تو اسے ایسی ملازمت کی تفصیل سے حکومت پاکستان کو آگاہ کرنا ہو گا۔ شرائط میں اگر کوئی تبدیلی ہو، جس سے حکومت پر اضافی ذمہ داریاں پڑ جائیں تو اس صورت میں حکومت کی پیشگی منظوری ضروری ہے۔

(۱) مستغیر محکمے پر یہ لازم ہے کہ وہ رقم شرکت پنشن کی شرح کا حساب لگائے اور اسے متعلقہ اشخاص کی شرائط و ضوابط میں شامل کرے جنہیں پاکستان میں یا پاکستان سے باہر مستعار الخدمتی پر بھیجا گیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک افسر جو بنیادی بیانات تنخواہ ۷۷ میں ہو، جس کا کم سے کم بیانات تنخواہ ۲۰۰۰ اور زیادہ سے زیادہ ۳۰۰۳۰ روپے علی الترتیب ہے، اس رقم شرکت پنشن کی شرح حسب

ذیل ہوگی۔

$$(i) \text{ اوسط} = \frac{۲۹۰۰ \text{ روپے} \times ۳۰۴۳۰ \text{ روپے}}{۲۳۳۰ \text{ روپے}}$$

(۲) رقم شرکت پیش کی شرح بحساب $\frac{۱}{۳}$ فی صد حسب ذیل ہوگی:

$$\frac{۱۰۰ \times ۲۳۳۰}{۳ \times ۱۰۰} = ۷۷۳.۳۳ \text{ یا } ۷۷۳ \text{ روپے ماہانہ}$$

(۷) ان ہدایات کی رو سے جو ڈویژن خزانہ کی دفتری یادداشت نمبر (۵) آر۔ ۷۷۳۔۷۹۔۳۰ مورخہ ۱۵ دسمبر ۱۹۸۶ء میں درج ہیں۔ خارجی آجر سے کوئی شرکتی رقم مشاہدہ رخصت قابل بازیابی نہیں ہے، لیکن رخصت اور اس رخصت کی تنخواہ کی منظوری و ادائیگی خارجی ملازمت کے دوران خارجی آجر دے گا، البتہ اس عرصہ کو حکومت پاکستان کے پاس رخصت کسب کرنے میں شمار نہیں کیا جائے گا۔

(۸) اس صورت حال کے پیش نظر، رقم شرکت پیش، تمام ملازمت خارجہ کی مدت کے دوران خارجی آجر ہی ادا کرے گا۔ اس میں رخصت کا وہ حصہ بھی شامل ہوگا، جس سے متعلقہ شخص خارجی آجر کی ملازمت میں مستفید ہوا۔

باب ۱۳

ضمنی قواعد

(الف) سفری الاؤنس

۱۔ سفر کی نوعیت

ایک سرکاری ملازم ورنج ذیل مقاصد کے لیے سفر کر سکتا ہے:

(الف) دورہ

(ب) تبادلہ اور

(ج) تالیف بنیادی قواعد و ضمنی قواعد کے باب ۷ کی دفعہ x اور دفعہ xx تا xx میں مذکور دیگر مقاصد کے لیے۔

(i) ”دورہ“ سے مراد ہے ایک سرکاری ملازم کی بااجازت یا بلااجازت اپنے فرائض کے حلقے سے باہر صدر مقامات سے برسر خدمت غیر حاضری (عدم موجودگی)۔

(ii) ”تبادلہ“ سے مراد ہے، سرکاری ملازم کی تعیناتی کے کسی صدر مقام سے جہاں وہ ملازم ہو، کسی دیگر ایسے مقام تک نقل و حرکت بغرض۔۔۔۔۔

(الف) نئی اسامی کے فرائض سنبھالنے کے لیے یا۔

(ب) اپنا صدر مقام تبدیل ہونے کے نتیجے میں۔

(۱) کسی کی اپنی درخواست پر تبادلہ کو ضمنی قاعدہ ۱۱۳ کے تحت سرکاری سہولت اور سفری الاؤنس کے حصول کے لیے تبادلہ تصور نہیں کیا جائے گا۔

۲- زمرات سرکاری ملازمین (ضمنی قاعدہ ۱۷ تا ۲۰)

۱- میلانہ الاؤنس کے مقصد کی خاطر سرکاری ملازمین کو چار زمروں میں تقسیم کیا گیا ہے:

زمرہ ۱- بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۷ اور اس سے بالا کے سرکاری ملازمین اور تمام دیگر ملازمین جو =/۵۳۵۵ روپے ماہوار سے زائد تنخواہ وصول کرتے ہوں۔

زمرہ ۲- سرکاری ملازمین جو =/۱۷۲۵ روپے ماہوار سے زائد تنخواہ وصول کرتے ہوں۔

زمرہ ۳- بنیادی پیمانہ ۱ اور ۲ کے علاوہ جملہ دیگر ملازمین۔

زمرہ ۴- بنیادی پیمانہ ۱ اور ۲ کے سرکاری ملازمین۔

۲- مذکورہ بالا قواعد میں مذکور اصطلاح ”تنخواہ“ میں تمام ایسی یافت شامل ہے جو بنیادی قاعدہ ۹ (الف) (۱) (۱) اور (۱) کے تحت حاصل کی گئی ہو۔

۳- اگر کوئی سرکاری ملازم اساسی طور پر ایک اساسی پر تعینات ہو اور اس کا کسی دیگر اساسی پر قائم مقامی تقرر کیا گیا ہو تو اس کے لیے قابل منظوری مشرعات سفری الاؤنس کے مقصد کی خاطر قائم مقامی تقرری کو شمار کیا جائے گا۔ اگر ایک سرکاری ملازم کسی اساسی اساسی کا حامل نہ ہو تو سفری الاؤنس کے مقاصد کی خاطر اس کی درجہ بندی کو اس تنخواہ کے حوالہ سے منضبط کیا جائے، جو اس نے وصول کی ہو۔

۴- ایک ایسے افسر کے سفری الاؤنس پر جس کی ترقی یا تنزیل ہوگی ہو، درمیانی مدت کے لیے نظر ثانی نہ کی جائے، تاوقتیکہ اس میں فرائض کی فی الواقع تبدیلی واقع نہ ہو۔ معمولاً ”بل کا محاسبہ“ (تشیع) مطالبہ پیش کرنے وقت مطلوبہ حقائق کے حوالہ سے کیا جاتا ہے، لیکن اگر بل ترقی یا تنزیل کے فی الواقعی اعلان سے

قبل پیش نہ کیا گیا ہو، تو محاسبہ کو اعلان کے سابق تاریخ سے موثر ہونے کو تسلیم کرنے میں کوئی اعتراض نہ ہو گا۔

۵- ایک ہیئت مجاز ایک سرکاری ملازم کو مذکورہ بالا زمرے سے بالاتر زمرے یا کم تر زمرے میں رکھ سکتی ہے۔ اس کے لیے وجوہ کا باضابطہ اندراج کیا جائے۔

ان اختیارات کو بروئے کار لاتے ہوئے بعض افسران کو بنیادی قواعد اور ضمنی قواعد، جلد ۱۱ کے ضمیمہ ۱۵ کے ذریعے بعض افسران کی خصوصی طور پر زمرہ ۱ اور زمرہ ۲ میں درجہ بندی کی گئی ہے، چنانچہ جملہ خواتین سرکاری ملازم جو سفری الاؤنس کے مقاصد کی خاطر زمرہ ۳ کی افسرین، انہیں فرائض کے دوران جملہ منظور شدہ سفروں کے لیے زمرہ ۱ کی افسران تصور کیا جاتا ہے۔

۶- ایک سرکاری ملازم کو ایک اساسی سے دوسری اساسی پر منتقلی کے دوران سفری الاؤنس کے مقاصد کی خاطر اس زمرہ میں رکھا جائے گا جو دونوں میں سے کتر ہو گا۔

۷- دوبارہ ملازمت یا قوتہ منشر کے سفری الاؤنس کو بصورت ذیل منضبط کیا جائے گا:

(الف) ایسے افسروں کی صورت میں جن کی پیشین معروض تعویق میں ہو، ان کے لیے قابل منظوری سفری الاؤنس کا تعین اس تنخواہ کے حوالہ سے کیا جائے گا جو انہوں نے لی ہو بشرطیکہ یہ اساسی کے لیے مقرر انتہائی تنخواہ سے متجاوز نہ ہو۔ بصورت دیگر اس کا تعین اساسی کے لیے مقرر انتہائی تنخواہ کے حوالہ سے کیا جائے گا۔

(ب) ایسے افسروں کی صورت میں جنہیں تنخواہ کے علاوہ اپنی کل پیشین یا اس کے کسی حصہ کے حصول کی اجازت ہو، ان کے لیے قابل منظوری سفری الاؤنس کا تعین تنخواہ جمع پیشین کے حوالہ سے اس شرط کے تابع کیا جائے گا کہ اس مقصد کی خاطر پیشین کا صرف ایسا حصہ شامل کیا جائے گا جو مع تنخواہ اس اساسی کے لیے مقرر انتہائی حد سے متجاوز نہ ہو۔

احکامات ہذا کے مقصد کی خاطر "پنشن" سے مراد ہے وہ مجموعی پنشن جو ابتداء" منظور کی گئی تھی، یعنی کہ وہ رقم جو وزارت مالیات کی دفتری یادداشت نمبر (۴) ایف۔ ۱۲ (۲)۔ آر ۴ مورخہ ۲۳ مارچ ۱۹۵۳ء کے ذریعے اعلان کردہ سکیم برائے پنشن و انعامیہ کے تحت تعویض شدہ یا انعامیہ کے عوض ترک کردہ ایک چوتھائی حصہ کے عوض سے قبل منظور ہوئی ہو۔

(مالیات ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ایف ۱ (۴)۔ آر ۱ (۲) مورخہ ۲۷ دسمبر ۱۹۵۷ء)

۳۔ میلانہ الاؤنس (ضمنی قاعدہ - ۲۸ تا ۲۹ - ڈی)

میلانہ الاؤنس کا حساب اس طے کردہ فاصلہ کی مناسبت سے کیا جاتا ہے جس کے لیے کسی خاص سفر کے مصارف ادا کیے جانے ہوں۔ دو مقامات کے درمیان مختصر ترین راستہ سے یا اگر یہ مساوی طور پر مختصر ہوں تو ارزاں ترین راستے سے سفر کیا جائے۔ جب ریل کے متبادل راستے ہوں اور یکساں مختصر ہوں اور ان کے درمیان فرق مصارف اور وقت کے اعتبار سے زائد نہ ہو تو سفری الاؤنس کی اس راہ کے لیے اجازت دی جا سکتی ہے جو فی الواقع استعمال کی گئی ہو۔ مختصر ترین راستہ وہ ہے کہ جس کے ذریعہ مسافر حمل و نقل کے عام ذرائع استعمال کرتے ہوئے انتہائی سرعت کے ساتھ اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکتا ہو۔ اگر کسی سرکاری ملازم نے سبتاً سے راستے سے سفر کیا ہو لیکن وہ مختصر ترین نہ ہو تو اسے ایسی صورت میں اس راستے کے لیے سفری الاؤنس دیا جا سکتا ہے جو اس نے فی الواقع استعمال کیا ہو۔

۴۔ ریل کے ذریعے سفر

۱۔ جب سرکاری ملازمین ریل کے ذریعے سفر کر رہے ہوں تو انہیں مندرجہ ذیل پیمانہ گنجائش کا استحقاق حاصل ہو گا:

۱۔ زمرہ ۱۔ بی۔ ۱۷ اور اس سے بالا کے سول ملازمین نیز ایسے جملہ ملازمین جو = ۵۳۵۵۱ روپے ماہوار سے زائد تنخواہ وصول کر رہے ہوں، اعلیٰ ترین درجہ کی جگہ خواہ وہ کسی بھی نام سے موسوم ہوتی ہو۔

۲۔ زمرہ ۱۱۔ سول ملازمین جو پندرہ روپے ماہوار سے زائد تنخواہ لے رہے ہوں، لیکن وہ ۵۳۵۵۵ سے تجاوز نہ ہو۔

درجہ اول (سلیپر) کی جگہ۔ اگر کسی لائن پر درجہ اول (سلیپر) فراہم نہ ہو تو اگلے کتر درجہ کی جگہ۔

۳۔ زمرہ ۱۱۔ بی۔ ۱۷ اور بی۔ ۱۱ جملہ سول ملازمین

درجہ اول (شٹی) جگہ۔ اگر کسی لائن پر درجہ اول کی (شٹی) گنجائش فراہم نہ ہو تو اگلے کتر درجہ کی جگہ۔

۴۔ زمرہ ۱۷۔ بی۔ ۱ اور بی۔ ۱۱ کے سول ملازمین

ادنیٰ ترین درجہ خواہ وہ کسی بھی نام سے موسوم ہو۔

۲۔ خصوصی وجوہ کی بنا پر جن کا کہ اندراج کیا جائے، ایک سرکاری ملازم یا کسی درجہ کے سرکاری ملازمین کو ہیئت مجاز ان کے لیے قابل منظوری معمول کے درجہ کی بجائے اعلیٰ تر درجہ کا مستحق قرار دے سکتی ہے۔ (ضمنی قاعدہ - ۳۵)

۵۔ سمندر، دریا یا سینئر کے ذریعے سفر

۱۔ سرکاری ملازمین کو پاکستانی پانیوں میں سمندر، دریا یا سینئر کے ذریعے سفر کے لیے مندرجہ ذیل درجوں کی جگہوں کا استحقاق حاصل ہو گا:

(الف) پہلے زمرے کا سرکاری ملازم، اعلیٰ ترین درجہ کا

(ب) دوسرے زمرے کا سرکاری ملازم، اگر سینئر میں محض دو درجے ہوں تو

اعلیٰ تر درجہ اور اگر دو سے زیادہ درجے ہوں تو درمیانی یا درجہ دوئم کا۔

(ج) تیسرے زمرے کا سرکاری ملازم

اگر دو درجے ہوں تو ادنیٰ تر درجہ کا

اگر تین درجے ہوں تو درمیانی یا درجہ دوم کا
اگر چار درجے ہوں، تیسرے درجہ کا۔

(۱) چوتھے زمرے کا سرکاری ملازم، اپنی ترین درجہ کا۔ (ضمنی قاعدہ۔ ۳۰)

۲۔ جہاں سٹیئر کمپنی کے کرایوں کی دو شرحیں ہوں، ایک بشمول خوراک اور دوسری بلا خوراک، تو مذکورہ لفظ ”کرایہ“ سے مراد ہوگی، بلا خوراک کرایہ۔ اگر کمپنی خوراک کی عدم حصول پر چھوٹ دیتی ہے تو کرایہ کا شمار اس میں سے چھوٹ منہا کر کے کیا جائے گا۔ (ضمنی قاعدہ ۳۱)

۳۔ ایسی صورتوں میں جن میں کسی سٹیئر کی جگہوں کے درجے مذکورہ بالا درجوں سے مطابقت نہ رکھتے ہوں تو ایسے معاملہ کو تصفیہ کے لیے حاکم مجاز کو ارسال کیا جائے۔ (ضمنی قاعدہ ۳۲)

۴۔ اگر ایک سرکاری ملازم کو سرکاری جہاز پر مناسب جگہ کی پیشکش کی گئی ہو تو وہ میلانہ الاؤنس کی بجائے ایک روزانہ الاؤنس کا حقدار ہو گا۔ سرکاری ملازم کو اس امر کی اجازت نہیں ہوگی کہ وہ اس پیشکش سے انکار کرے اور میلانہ الاؤنس وصول کرے۔ (ضمنی قاعدہ۔ ۳۳)

۶۔ سفر بذریعہ سڑک

سڑک کے ذریعے سفر میں سمندر یا دریا میں شیم لاج یا سٹیئر کے علاوہ کسی دیگر کشتی میں اور ہنر کے ذریعے سفر شامل ہے۔ سڑک کے میلانہ کی شرحات حسب ذیل ہیں :

۷۔ طریق سفر اور شرح الاؤنس

شرح فی کلومیٹر

۲۰ روپیہ فی کلومیٹر

۶ روپیہ فی کلومیٹر

۱۔ طریق سفر

(الف) ذاتی کار یا کرائے پر سالم ٹیکسی

(ب) مستعار کار

(ج) موٹر سائیکل یا سکوتر ۶۴۰ روپے فی کلومیٹر گھنٹہ

(د) بائی سائیکل، پست حیوان، یا پیدل ۶۳۰ روپے فی کلومیٹر گھنٹہ

(ه) پبلک ٹرانسپورٹ واحد نشست کی

بنیاد پر کرایہ پر حاصل کیا گیا ہو۔

زمرہ ۱ اور ۲ کے سرکاری ملازمین

کے لیے۔ ۶۲۰ روپیہ فی کلومیٹر

زمرہ ۳ اور ۴ کے سرکاری

ملازمین کے لیے ۶۳ روپیہ فی کلومیٹر

۲۔ سرکاری ملازمین کو مندرجہ ذیل طریق نقل و حمل استعمال کرنے کی اجازت ہے۔

طریق نقل و حمل سرکاری ملازمین کا درجہ

(۱) ذاتی کار، مستعار کار، سالم (۱) زمرہ ۱ کے افسران دوسروں کے معاملے

کرائے کی ٹیکسی، میں اگر موقع کی ضرورت کا تقاضا ہو تو افسران

مجاز کی منظوری سے ٹیکسی کرائے پر لے لی جائے۔

(۲) ذاتی موٹر سائیکل، سکوتر (۲) زمرہ ۱ اور ۲

(۳) بائیکل اور واحد نشست کی (۳) جملہ سرکاری ملازمین کے لیے

بنیاد پر حاصل کردہ پبلک ٹرانسپورٹ

۳۔ یہ شرحیں مذکورہ بالا (د) کے سوا سرکاری ملازمین کی صدر مقامات کی رہائش

سے عارضی جائے فرائض تک کے لیے قابل منظوری ہوں گی۔ اصطلاح ”ذاتی

کار“ سے مراد ہے۔ ایک ایسی کار جو سرکاری ملازم یا قواعد سفری الاؤنس (ضمنی

قاعدہ ۳۵) کے مقصد کی خاطر ضمنی قاعدہ ۲ (۸) بشمول دفتری یادداشت وزارت

مالیات، پارہ۔ ۳ مورخہ ۲۰ دسمبر ۱۹۷۲ کی رو سے اس کے کتبہ کے کسی فرد کے

نام رجسٹر ہو۔

۴۔ خصوصی حالات کے تحت ایک حاکم مجاز تحریری وجوہ کی بناء پر میلانہ سڑک

کے لیے مقررہ بالا شرحوں سے زائد شرح کی اجازت دے سکتا ہے۔

۸۔ علاقے اور شرح الاؤنس

۱۔ تالیف قواعد بنیادی و قواعد ضمنی، جلد ۱ کے ضمیمہ ۱۸۔ ایف میں متذکرہ علاقوں میں میلانہ الاؤنس کی فی صدی اضافی شرحیں (متذکرہ بالا) حسب ذیل ہوں گی۔

صوبہ علاقہ کا نام میلانہ سڑک کی شرح میں اضافہ

سندھ ۱۰۔ کراچی ندارد

۲۔ ضلع تھپار کر کے صحرائی حلقے ۵۰ فی صد

۳۔ ضلع تھپار کے غیر صحرائی حلقے ندارد

۴۔ سندھ کے غیر ریگستانی علاقے ندارد

پنجاب ۱۔ ضلع میانوالی کا حلقہ بھنگلی خیل $\frac{1}{4}$ ۳۳ فی صد

۲۔ ضلع راولپنڈی تحصیل مری اور کوئٹہ ندارد

۳۔ ضلع راولپنڈی پیرہ غازی خاں کی بیرونی ندارد

سرحدوں سے دور جگہیں ندارد

سرحد ۱۔ مانسہرہ (بجرو وادی کاٹان یعنی بالا کوٹ سے گیتی داس تک کی

پہاڑی پٹی) ضلع ایبٹ آباد کی تحصیل ایبٹ آباد نیز پٹی ماورائے سرحد یعنی ہزارہ کی بیرونی سرحدوں سے دور کی جگہیں۔ پشاور، مردان، کوہاٹ، ڈیرہ اسماعیل خان اور بنوں، بجز چترال اور پشاور سے کوہاٹ تک سڑک کا وہ حصہ جو قبائلی علاقہ میں واقع ہے۔

۲۔ چترال اور ضلع ہزارہ کی مانسہرہ تحصیل میں واقع وادی کاٹان یعنی بالا کوٹ

سے گیتی داس تک کی پہاڑی پٹی۔

بلوچستان تمام بلوچستان سوائے ضلع سی کا

نصیر آباد سب ڈویژن۔ $\frac{1}{4}$ ۳۳ فی صد

(مالیات ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ایف ۲ (۵)۔ ریو۔ ۷۳ مورخہ ۲ جولائی ۱۹۷۳

اور نمبر ایف ۲ (۵)۔ ریو۔ ۷۳ مورخہ ۱۹ اکتوبر ۱۹۷۳)

۲۔ میلانہ الاؤنس سرکاری ملازم کی رہائش گاہ سے اس کے صدر مقام کے ریلوے اسٹیشن یا ہوائی اڈے یا سمندر دریا کی بندرگاہ تک (جیسی بھی صورت ہو) اور ریلوے اسٹیشن، ہوائی اڈے، سمندری یا دریا کی بندرگاہ سے بیرون اسٹیشن اس کی عارضی جائے رہائش تک کے لیے قابل منظوری ہو گا۔

۳۔ میلانہ سڑک شمار کرتے وقت کسی ایک سفر کے لیے بل کے میزان کی کسی کسر کو حذف کر دیا جائے لیکن یہ ان بلوں میں سے حذف نہ کیا جائے جن سے بل تیار ہوتا ہے۔

۹۔ سفر بذریعہ طیارہ

۱۔ ہوائی سفر سے مراد ہے ایسا سفر جو ان پبلک ایئر ٹرانسپورٹ کمپنیوں کی مشینوں کے ذریعے کیا گیا ہو جو باقاعدگی کے ساتھ کرایہ پر آتے جاتے ہیں۔ اس میں پرائیویٹ طیارہ یا ایروٹیکسیوں کے ذریعے کیا گیا سفر شامل نہیں ہے۔

۲۔ زمرہ ۱ کے جملہ سرکاری ملازمین اور جن کی ماہانہ تنخواہ ۲۵۰۰ روپے سے زیادہ ہو۔ ہوائی سفر کرنے کے مستحق ہیں۔ ایک ہیٹ مجاز دیگر سرکاری ملازمین کو بھی بشرطیکہ سفر اشد ضروری ہو اور مفاد عامہ میں ہو۔ صدر پاکستان کسی بھی سرکاری ملازم یا درجہ سرکاری ملازمین کو معمولات روزمرہ کے طور پر بذریعہ ہوائی جہاز سفر کرنے کی اجازت عمومی بھی دے سکتے ہیں۔ (ضمنی قاعدہ ۲۸ ب)

۳۔ وہ ملازمین جو ہوائی سفر کے مجاز نہیں ہیں اگر وہ دورے کے دوران ہوائی جہاز سے سفر کرتے ہیں تو وہ اس شرط کے تابع کہ سفری الاؤنس اس حد سے تجاوز نہ ہو جو اس صورت میں ان کے لیے قابل منظوری ہو گا جب وہ ہوائی جہاز سے سفر کرنے کے مجاز ہوتے، سفری الاؤنس کے مستحق ہوں گے گویا کہ انہوں نے ریل، سڑک یا سٹیمر کے ذریعے سفر کیا ہو۔ (ضمنی قاعدہ ۲۸ ب)

۱۰۔ روزانہ الاؤنس (ضمنی قاعدہ ۲۹)

۱۔ روزانہ الاؤنس صدر مقامات سے عدم موجودگی (غیر حاضری) کے ہر دن کے

لیے ایک یکساں الاؤنس ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے معمول کے اخراجات کو پورا کیا جائے جو ایک سرکاری ملازم ایسی عدم موجودگی کے نتیجے میں برداشت کرتا ہے۔ ہر سرکاری ملازم اس وقت روزانہ الاؤنس لے سکتا ہے جب وہ دورے پر ہو اور اس کے فرائض کا یہ تقاضا ہو کہ وہ سفر کرے۔ اسے اس وقت بھی حاصل کیا جا سکتا ہے جب سرکاری ملازم دورے پر ہو، قواعد کے تحت یہ تبادلہ پر بھی قابل منظوری ہے۔

۲۔ روزانہ الاؤنس صدر مقام سے عدم موجودگی کے ہر دن کے ایک یکساں الاؤنس ہے اور اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے معمول کے ان اخراجات کو پورا کیا جائے جو ایک سرکاری ملازم ایسی عدم موجودگی کے نتیجے میں برداشت کرتا ہے (ضمنی قاعدہ ۳۹)

حد تنخواہ
خصوصی شرح روزانہ الاؤنس معمولی شرح روزانہ الاؤنس
ماہوار تنخواہ

۶۵	۸۰	۲۳۵ سے ۲۰۰۰ روپے تک
۸۵	۱۰۰	۲۰۰۱ سے ۳۰۰۰ روپے تک
۱۰۰	۱۲۰	۳۰۰۱ سے ۴۰۰۰ روپے تک
۱۲۰	۱۴۵	۴۰۰۱ سے ۵۰۰۰ روپے تک
۱۵۰	۱۷۵	۵۰۰۱ سے ۶۰۰۰ روپے تک
۱۸۰	۲۱۵	۶۰۰۱ سے ۷۰۰۰ روپے تک
۲۲۵	۲۶۵	۷۰۰۱ سے ۸۰۰۰ روپے تک
۲۸۰	۳۰۰	۸۰۰۱ سے ۹۰۰۰ روپے تک
۳۰۰	۳۵۰	۹۰۰۱ سے ۱۰۰۰۰ روپے تک
۳۵۰	۴۰۰	۱۰۰۰۰ اور اس سے اوپر

(بحوالہ دفتری یادداشت وزارت خزانہ ۱ (۲۲) آر ای جی ۹۳/۸)

مورخہ ۲۸-۹-۱۹۹۳

۲۔ روزانہ الاؤنس کی خصوصی شرح حیدر آباد، اسلام آباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، پشاور، کوئٹہ، راولپنڈی اور شمالی علاقوں کے لیے قابل منظوری ہے۔

(الف) روزانہ صدر مقام پر ڈیوٹی سے عدم موجودگی کی مدت تک تقویمی دن کے لیے قابل منظوری ہو گا۔ (دوران سفر شدہ وقت سمیت) کسی بھی تقویمی دن کے لیے ایک سے زائد روزانہ الاؤنس قابل منظوری نہ ہو گا۔ اس مقصد کی غرض سے تقویمی دن ان کے لیے ہر جزو کو بطور ایک تقویمی دن شمار کیا جائے گا۔

(ب) صدر مقام سے روانگی کی صورت میں دوران سفر روزانہ الاؤنس وہی ہو گا جو قریب ترین منزل مقصود کے لیے قابل منظوری ہو۔ صدر مقام کی جانب واپسی کی صورت میں یہ شرح وہی ہو گی جو صدر مقام کو واپسی سے قبل عارضی مقام تعیناتی پر قابل منظوری تھی۔

(ج) صدر مقامات سے عدم موجودگی کی مدت کا آغاز سرکاری ملازم کی اپنے دفتر یا رہائش گاہ (جیسی بھی صورت ہو) سے روانگی کے وقت سے ہو گا اور اس وقت تک جاری رہے گا جب تک کہ سرکاری ملازم اپنے دفتر یا رہائش گاہ (جیسی بھی صورت ہو) واپس نہیں پہنچ جاتا۔ اس امر کا فیصلہ حاکم مجاز کرے گا کہ آیا سرکاری ملازم عارضی فرائض سنبھالنے کے لیے اپنے دفتر یا رہائش گاہ سے روانہ ہو۔

(د) دوران سفر جبری تاخیر کو مجموعی دوران سفر کی مدت کا حصہ شمار کیا جائے گا۔ (۱) روزانہ الاؤنس اس دن کے لیے نہیں لیا جا سکتا جس دن سرکاری ملازم اپنے مقام سے دس میل کے نصف قطر سے باہر نہیں نکلتا یا اس مقام سے اپنے صدر مقام کے لیے اتنا ہی فاصلہ طے نہیں کر لیتا۔

(۲) بیرون مقام کسی سرکاری ملازم کی جانب سے عارضی طور پر فرائض کی بجا آوری کی مدت کے دوران آنے والے جمعہ اور تعطیلات کے لیے روزانہ

الاؤنس قابل منظوری ہے۔

(ز) ایک سرکاری ملازم جو دورہ کے دوران اتفاقی رخصت لیتا ہے، وہ ایسی رخصت کے دوران روزانہ الاؤنس کا مستحق نہیں ہے تاہم اگر وہ عارضی ڈیوٹی کے فوراً بعد اتفاقی رخصت لیتا ہے تو وہ اس مقام کے رواجی کے دن کے لیے روزینہ لے گا جس کا کہ وہ اس صورت میں مستحق ہو اگر وہ اتفاقی رخصت پر نہ جاتا۔

(ح) اس صورت میں کہ جب کسی پہاڑی مقام پر عارضی ڈیوٹی تیس ایام سے تجاوز کر جائے تو سربراہان محکمہ جات کو سرکاری ملازمین کے مسلسل قیام کی کل مدت کا روزینہ منظور کرنے کا کلی اختیار ہو گا۔

۳۔ ایک سرکاری ملازم کو جس کا کہ ہوٹل میں قیام ایک ضرورت ہو، مذکورہ بالا روزینہ کے علاوہ ہوٹل کی رسیدیں رواجی پیش کرنے پر اس سے کمرہ کے اصل کرایہ بشمول ٹیکس، محصولات، مصارف خدمت کی اجازت ہوگی جو کہ مندرجہ ذیل انتہائی حد کے تابع ہے ہو گا۔

(i) علاقے جہاں روزانہ الاؤنس کی خصوصی شرح قابل منظوری ہے۔ روزانہ الاؤنس کی خصوصی شرح کا تین گنا۔

(ii) علاقے جہاں روزانہ الاؤنس کی معمولی شرح قابل منظوری ہے۔ روزانہ الاؤنس کی معمولی شرح کا ڈیڑھ گنا۔

(iii) سنگل کمرے کی عدم دستیابی کی صورت میں دورہ کرنے والے سول ملازم کو خالصتاً اپنے استعمال کے لیے دوہرا کمرہ مخصوص کرانے کی اجازت ہے لیکن رقم کی واپسی صرف اس معمول کے استحقاق تک محدود ہوگی۔

(iv) جب ایک ہی مقام پر دو اہلکار دورے پر ہوں تو وہ ہوٹل میں دوہرا کمرہ مخصوص کرانے کی اجازت ہوگی اور وہ دونوں اس میں حصے دار ہوں گے۔ ایسی صورت میں ان میں سے کوئی ایک مشترکہ طور پر اس امر کی تصدیق کرے گا کہ انہیں علیحدہ کمرہ دستیاب نہ تھا اور یہ کہ ان میں سے ہر ایک انفرادی استحقاق

کے مطابق کمرہ کا آدھا کرایہ کا مطالبہ کر سکتا ہے۔ یہ تصدیق نامہ ہر اہلکار کے سفری الاؤنس کے بل کے ساتھ منسلک ہوں گے۔ جہاں کوئی سرکاری ملازم ایسے مقامات کے درمیان اپنی ذاتی کار پر سفر کر کے میلانہ الاؤنس طلب کرتا ہے، جو ریل کے ذریعے ہوتے ہوں، وہاں افسر مختار اپنی صوابدید پر مطالبہ قبول کر سکتا ہے بشرطیکہ وہ اس امر سے مطمئن ہو کہ سڑک کے ذریعے سفر مفاد عامہ میں کیا گیا ہے۔

(v) ایک سرکاری ملازم جو سرکاری ہاسٹل، انپکشن بیگلے، لاج یا رہائشی کلب میں قیام کرتا ہے تو اسے روزینہ کے علاوہ رسیدیں رسدات (والوجز) پیش کرنے پر اس شرط کے تابع کہ روزینہ کی رقم اس مقام پر قابل منظوری رقم سے تجاوز نہ ہوگی، سنگل کمرے میں قیام کے اصل اخراجات کی بازادائگی کی اجازت ہوگی۔

۱۱۔ تبادلہ پر سفر: منظوری کی عمومی شرائط (ضمنی قواعد ۱۳ تا ۱۶)

۱۔ تبادلے پر سفر کے لیے بشمول فوج سے سول میں تبادلہ کے لیے ایک سرکاری میلانہ الاؤنس کا حق دار ہے لیکن ایک مقام سے دوسرے مقام پر تبادلہ کے لیے سفری الاؤنس محض اس صورت میں قابل منظوری ہو گا جب تبادلہ مفاد عامہ میں ہوا ہو اور سرکاری ملازم کو عبوری مدت کے لیے ادائگی کی گئی ہو۔ اپنی درخواست پر تبادلہ کو مفاد عامہ میں تبادلہ تصور نہیں کیا جائے گا اور ایسی صورت میں سرکاری ملازم سفری الاؤنس کا مستحق نہ ہو گا۔ تاوقتیکہ حاکم مجاز اس کے برعکس فیصلہ نہیں کرتا۔ ان صورتوں میں جن میں کسی سرکاری ملازم کو اس کی اپنی درخواست پر تبدیل کیا گیا ہو تو اس امر کی ایک اطلاع متعلقہ افسر محاسبہ کو ارسال کی جائے۔ جب تک کہ ایسی اطلاع نہ ملے تبادلہ مفاد عامہ میں شمار ہو گا۔

۲۔ تبادلہ پر ایک سرکاری ملازم مندرجہ ذیل کا حق دار ہو گا۔

(الف) ٹرانسفر گرانٹ

بلا کتبہ سرکاری ملازم

کتبہ والا سرکاری ملازم

نصف ماہ کی تنخواہ

ایک ماہ کی تنخواہ

(بذریعہ حکم نمبر ایم ایف او ایم نمبر ۲۱) آر ای جی (۹) مورخہ ۲۱-۸-۹۱

ٹرانسفر گرانٹ ان تمام معاملوں میں قابل منظوری ہے جہاں بصورت دیگر

موجودہ قواعد کے تحت تبادلہ پر سفری الاؤنس قابل منظوری ہے۔

(ب) سرکاری ملازم کے لیے اصل کرایہ ریل، ہوائی جہاز یا سٹیئر اور اس کے کتبہ کے افراد میں سے ہر ایک کے لیے ایک یا آدھا کرایہ۔ اگر وہ بذریعہ سڑک سفر کرتا ہے تو وہ اس شرح سے میلانہ الاؤنس لے سکتا ہے جو اس پر قابل اطلاق ہو۔ اگر اس کے ہمراہ کتبہ کے دو افراد ہوں تو وہ اضافی میلانہ الاؤنس لے سکتا ہے اور اگر دو سے زائد کتبہ کے افراد میں اس کے ہمراہ ہوں تو وہ اس شرح کا تین گنا لے سکتا ہے۔

(ج) مدت سفر کے دوران روزینہ

سرکاری ملازم کو ہر ۳۸۰ کلومیٹر فاصلہ سڑک کے لیے خصوصی شرح سے ایک روزینہ واجب الادا ہے تبادلہ پر ہوائی جہاز کے ذریعے سفر کی صورت میں اصل مدت سفر کے دوران ہر تقویمی دن کے لیے ایک روزینہ قابل منظوری ہو گا۔

(د) نئی جائے تعیناتی پر آمد کے روزانہ الاؤنس

سرکاری ملازم کی نئی جائے تعیناتی پر آمد کے دن کے لیے اس پر قابل اطلاق شرح سے اس کے لیے اور اس کے بارہ برس سے زائد عمر کے ہر فرد کتبہ کے لیے ایک روزانہ الاؤنس نیز بارہ ماہ سے زائد عمر کے ہر بچے کے لیے کامل شرح کا نصف روزینہ قابل ادا ہو گا۔

(د) تبادلہ پر بیرون مقامات سے شمالی علاقوں ہسپتال کو جانے والے سول ملازمین کو موسم خراب ہو جانے کے باعث پروانوں کی تشخیص کی وجہ سے اکثر ہوائی اڈوں پر

پڑا رہتا پڑتا ہے۔ جبری قیام کی مدت کے دوران متعلقہ افراد اس امر کے لیے مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنی جیب سے خرچ کریں کیونکہ پی آئی اے صرف ہوٹل کے مصارف برداشت کرتی ہے۔ ایسی صورتوں میں سختی سے گریز کے لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ متعلقہ سول ملازمین کو جبری قیام کے ہر دن کے لیے ان کے معمول کے استحقاق کا ۵۰ فی صد روزینہ دیا جائے، بشرطیکہ پی آئی اے سے مندرجہ ذیل فارم میں ایک تصدیق نامہ فراہم کرسنے۔

تصدیق کی جاتی ہے کہ پرواز نمبر _____ جس سے کہ جناب _____ ملازم _____ زیر احکام تبادلہ شمالی علاقوں ہسپتال کے لیے سفر کرنے والے تھے۔ موسم کی خرابی کی وجہ سے منسوخ کر دی گئی۔ انھوں نے _____ دن تک جبری قیام کے بعد، فلاں تاریخ _____ کو فی الواقع سفر کیا۔

(و) ذاتی سامان کی منتقلی (حمل و نقل)

(۱) انتہائی حد جس تک کہ سرکاری خرچ پر ذاتی سامان کی حمل و نقل کی جا سکتی ہے، درج ذیل ہے۔

سرکاری ملازمین		من		کلوگرام
کا زمرہ	اگر کتبہ ہو	اگر کتبہ نہ ہو	اگر کتبہ ہو	اگر کتبہ نہ ہو
۱- زمرہ	۳۰	۶۰	۳۵۰۰	۲۲۳۰
۲- زمرہ	۸۰	۴۰	۳۰۰۰	۱۵۰۰
۳- زمرہ	۳۰	۲۰	۱۵۰۰	۷۶۰
۴- زمرہ	۱۵	۱۰	۵۶۰	۳۸۰

(۱) سرکاری ملازم مقام کے سابق رہائش سے نئے مقام رہائش تک۔ ذیلی پارہ (۱) میں مذکور انتہائی حد کلوگرام تک ذاتی سامان کی حمل و نقل کے مصارف اس کے قطع نظر کہ اس کے لیے جانے کا طریق کیا تھا، ۳۸۰ روپے فی کلومیٹر فی

کلوگرام یا (ہر ۲۰ کلوگرام اکائی کے لیے ۲۶۹۳ روپے فی کلو میٹر) کی شرح سے حاصل کیے جاسکتے ہیں۔ (اس کے مطالبہ کی تائید میں ذاتی سامان کی حمل و نقل کے مصارف کی رسیدیں طلب کرنا ضروری نہیں) (ضمنی قاعدہ۔ دفتری یادداشت مالیات مورخہ ۲۰ دسمبر ۱۹۶۱ بشمول پیراجات ۱۳، ۱۵ دسمبر ۱۹۶۲ و نمبر ایف ۲ (۳۹)۔ ریگولر ۷۸۹ مورخہ ۲۰ ستمبر ۱۹۶۸) اور دفتری یادداشت مورخہ ۳-۱۰-۱۹۹۱

(ب) قابل منظوری انتہائی حد تک ذاتی سامان کی حمل و نقل کے مصارف کا مطالبہ اور ادائیگی محض اس وقت ممکن ہے جب متعلقہ سرکاری ملازم مندرجہ ذیل کی تکمیل کرے۔

(الف) اس امر کا تصدیق نامہ تحریر کرے کہ اصل برداشتہ مصارف اس رقم سے کم نہیں ہیں جس کا مطالبہ کیا گیا ہے۔

(ب) اس تصدیق نامے میں ذاتی سامان وزن واقعی لے جایا گیا تھا اور اس کے حمل و نقل کے لیے واقعتاً ادا کی گئی رقم ظاہر کرے۔

(ج) افسر مختار، مطالبہ کی معمول کے مطابق چھان بین کرے اور ضمنی قاعدہ ۱۱ (۲) کے تحت مطلوب اس امر کا ایک تصدیق نامہ درج کرے۔

(د) ایک سرکاری ملازم مالک کی ذمہ داری پر سواری و گھوڑوں کی حمل و نقل کے اصل مصارف مندرجہ ذیل پیمانہ پر حاصل کر سکتا ہے۔

سرکاری ملازم کا ذمہ		منظور کردہ پیمانہ	
اول	دو گھوڑے اور ایک گاڑی یا موٹر کار یا موٹر سائیکل۔		
دوئم	ایک گاڑی اور ایک گھوڑا یا موٹر سائیکل یا ایک موٹر کار۔		
سوئم	ایک گھوڑا یا ایک موٹر سائیکل یا ایک بائیکل		

مقصد ہذا کی غرض کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کی تکمیل ضروری ہے۔

(۱) طے کردہ فاصلہ ۸۰ میل سے زائد ہو۔

(۲) گھوڑا یا سواری رکھنا، سرکاری ملازم کی استعداد کار کے نقطہ نظر سے اس

اسامی کے لیے سود مند ہو گا جس کو سنبھالنے کے لیے وہ جا رہا ہو۔

(۱) سواری یا گھوڑے فی الواقع ریلوے سٹیئر یا کسی دیگر ذریعہ سے لے جائے گے ہوں۔

(۲) موٹر کار کی صورت میں ایک شوفر یا کلیئر اور ہر گھوڑے کے لیے ایک سائیکس اور گھیارا لے جانے کے مصارف لیے جاسکتے ہیں۔ جب سٹیئر کے ذریعے لے جایا گیا ہو تو اصل مصارف حمل و نقل میں گھاٹ پاس، محصولات دریا اور لادنے اور اتارنے کے اخراجات شامل ہوتے ہیں۔ سواری کو مسافر ٹرین کے ذریعے لے جایا جاسکتا ہے لیکن اگر اسے مال گاڑی سے لے جایا گیا تو اس امر کی اجازت ہوگی کہ اس کے باندھنے (بست بندی) کے اخراجات اور مال گودام تک لے جانے اور وہاں سے لانے کے اخراجات حکومت سے لیے جائیں بشرطیکہ یہ اخراجات مسافر ٹرین کے ذریعے سواری لے جانے کے اخراجات سے تجاوز نہ ہوں۔ قاعدہ ہذا کا بہ تغیرات مناسب ذمہ کے اس سرکاری ملازم پر بھی اطلاق ہوتا ہے جو ایک معمولی سائیکل لے جاتا ہے (ضمنی قاعدہ ۱۱)

۳۔ جب ایک سرکاری ملازم سرکاری سٹیئر کے ذریعے سفر کرتا ہے تو وہ اپنے یا اپنے کنبہ کے لیے میلانے الاؤنس کا حق دار نہیں ہے۔ وہ اپنے، اپنے کنبہ، نوکروں اور اصل ذاتی سامان، سواری اور گھوڑوں کی بلاکرایہ حمل و نقل کا حق دار ہے۔ اس کے علاوہ وہ اپنے گریڈ کے روزینہ کا مستحق ہے۔ (ضمنی قاعدہ ۱۱)

۴۔ ایک ایسے سرکاری ملازم کے لیے جو موٹر کار یا موٹر سائیکل، رسکورڈ بڈریہ سڑک ایسے مقامات کے مابین لے جاتا ہے جو ریل کے ذریعے یا سٹیئر کے ذریعے یا جزواً ریل کے ذریعے اور جزواً سٹیئر کے ذریعے ملے ہوں تو وہ موٹر کار کے لیے ۱۶۲۰ روپے فی کلو میٹر اور موٹر سائیکل رسکورڈ کے لیے ۶۴۰ روپے فی کلو میٹر کے حساب سے الاؤنس کا حقدار ہو گا۔ اگر سرکاری ملازم اور اس کا کنبہ اپنی کار میں سفر کرتا ہے تو وہ اپنے لیے ریل کا اصل کرایہ اور اپنے ہر فرد کے لیے ایک یا آدھا کرایہ لے سکتا ہے۔ ایسی صورت میں کار، موٹر سائیکل، رسکورڈ کی حمل و نقل کے اخراجات قابل منظور نہ ہوں گے۔

(ضمنی قاعدہ ۱۲ بشمول پارا ۱۲ وزارت مالیات کی دفتری یادداشت

مورخہ ۲۰ دسمبر ۱۹۷۲ء)

۵۔ ایسے سرکاری ملازم جنھیں پاک فضائیہ کے طیاروں میں گلگت تک بلاکرایہ لایا اور لے جایا جاتا ہے۔ مندرجہ ذیل کے مستحق ہوں گے۔

(الف) اگر سرکاری ملازم کے ہمراہ اس کا کنبہ سفر کرتا ہے تو۔

(۱) سرکاری ملازم کے لیے شمار کردہ میلانہ الاؤنس کا نصف اور

(۲) ذاتی سامان کے لیے پاراجات ماقبل میں مذکور کے مطابق اس شرط کے تابع

پورا میلانہ الاؤنس کہ ایسا سامان جو سرکاری ملازم اپنے ہمراہ طیارہ کے ذریعے

لے گیا ہو اسے زیر غور رکھتے ہوئے منوں کی انتہائی حد میں شمار کیا جائے اور

(ب) اگر کنبہ بذریعہ سڑک سفر کرتا ہے تو مذکورہ بالا (الف) کے علاوہ پاراجات

ماقبل کی شرائط کے تابع افراد کنبہ کے لیے میلانہ الاؤنس قابل منظوری ہو گا۔

(ضمنی قاعدہ ۱۲)

۶۔ سرکاری ملازم کے کنبے کے کسی ایسے فرد کو اس کے ہمراہ (شریک سفر) تصور

کیا جائے گا جو اس کے تبادلہ کی تاریخ سے چھ ماہ کے اندر اس سے ملتا ہے

یا ایک ماہ قبل پہنچ جاتا ہے۔ اگر کنبہ کا کوئی فرد کسی سرکاری ملازم کے سابق

مقام کے بجائے کسی دیگر مقام سے سفر کرتا ہے تو بھی اسے سفری الاؤنس کی

اجازت ہوگی بشرطیکہ سابق مقام سے نئے مقام کے لیے ریلوے کرایہ سے تجاوز

نہ ہو۔ اس قاعدہ کے مقصد کے لیے تاریخ تبادلہ پر حقائق کے حوالے سے

سرکاری ملازم کے زمرہ کا تعین کیا جائے جب کہ سرکاری ملازم کے لیے قابل

منظوری کرایوں کی تعداد کا تاریخ سفر کے حقائق کے حوالے سے تعین کیا جانا

چاہیے۔ جب ارکان کنبہ کے لیے سفری الاؤنس کا مطالبہ کیا گیا ہو تو اس وقت

سفری الاؤنس کے بل میں ان کی تعداد رشتہ اور عمریں بیان کی جائیں۔

(ضمنی قاعدہ ۱۲ (ب) (۲))

۷۔ جب سرکاری ملازم کا کنبہ اس سے قبل یا اس کی بیوی میں نئے مقام کی

بجائے کسی دوسرے مقام پر چلا گیا ہو تو ایک ماہ یا چھ ماہ کی مدت کا شمار اس تاریخ

سے لگایا جائے جس کو سرکاری ملازم نے پرانے مقام پر چارج دیا ہو۔ اگر وہ

مقررہ حد کے اندر نئی جائے تعیناتی پر پہنچ جاتے ہیں تو اس کا شمار نئے مقام پر

چارج سنبھالنے کی تاریخ کے حوالے سے کیا جائے۔

(ضمنی قاعدہ ۱۱۔ حکومتی فیصلہ نمبر ۶)

۸۔ یہ بات قابل اعتراض نہیں ہے اگر بعض مقبول وجوہ کی بنیاد پر سرکاری

ملازم کا ذاتی سامان اس کے ہمراہ نہ جاسکا ہو لیکن بعد میں اسے تبادلہ پر سفر کی

تاریخ سے مناسب مدت تک کے اندر لایا گیا ہو۔ افسر مختار بل پر اس امر کی

تصدیق بھی کرے کہ اس نے تفصیل کی چھان بین کر لی ہے اور اسے اس امر کا

اطمینان ہے کہ مطالبہ مقبول ہے۔ (ضمنی قاعدہ ۱۱ حکومتی فیصلہ نمبر ۱)

۹۔ جب کسی سرکاری ملازم کو سرکاری خرچ پر گھوڑا یا موٹر کار لے جانے کا

استحقاق نہ ہو تو اس امر پر کوئی اعتراض نہ ہو گا کہ انھیں بطور ذاتی سامان شامل

کر لیا جائے بشرطیکہ یہ منوں کی مقررہ انتہائی حد کے اندر ہوں۔

(ضمنی قاعدہ ۱۱۔ فیصلہ محاسب اعلیٰ نمبر ۲)

۱۰۔ جہاں ایک سرکاری ملازم کا ایک مقام الف سے مقام "ب" تک کے لیے

تبادلہ ہوتا ہے اور ایک مناسب مختصر وقت کے اندر مقام "ج" پر تبدیل کر دیا

جاتا ہے تو اسے مندرجہ ذیل طریق پر مقام الف سے مقام "ج" تک ذاتی سامان

کی حمل و نقل کے لیے ادائیگی کی جائے گی۔

(۱) مقام "ب" سے مقام "ج" تک اور مقام "الف" سے مقام "ج" تک

مجموعی وزن لے جانے کے لیے حسب قواعد مقررہ شرح وزن تجاوز نہ ہو۔

(۲) مقام "الف" سے مقام "ب" اور مقام "ب" سے مقام "ج" تک سامان

کی حمل و نقل کے مجموعی اخراجات اس قابل منظور رقم سے تجاوز نہ ہوں جو

مقام "الف" سے مقام "ب" تا مقام "ج" تک کے لیے قابل منظوری ہے۔

(ضمنی قاعدہ ۱۱۔ ہدایت محاسب نمبر ۳)

۱۱۔ جب کسی سرکاری ملازم کا ایک اسامی سے دوسری اسامی پر تبادلہ کیا گیا ہو اور حاکم مجاز کے احکامات کے تحت اسے اپنی سابقہ اسامی کا چارج دینے یا نئی اسامی کا چارج سنبھالنے کے لیے صدر مقام پر سے مختلف کسی دوسری جگہ جانا پڑے یا اس کے صدر مقام کو اس جگہ کے علاوہ کہیں اور منتقل کر دیا گیا ہو یا اس کے صدر مقام پر واپس ہوئے بغیر براہ راست نئے مقام پر جانا پڑے تو اسے اس انداز میں سفری الاؤنس لینے کی اجازت ہوگی گویا کہ وہ چارج دیے جانے والے نئے صدر مقام سے یا چارج سنبھالنے کے مقام سے دورے پر گیا ہو۔ وہ اپنے افراد کنبہ، ذاتی سامان اور سواری وغیرہ سے متعلقہ جملہ رعایتوں کا ضمنی قاعدہ ۱۲۱ (قواعد ۱۲۱۔ الف اور ۱۲۱ ب) کے مطابق حق دار ہوگا۔

۱۲۔ اگر کسی ملازم کے تبادلہ کے وقت اس کا کنبہ نئے صدر مقام سے مختلف کسی دیگر مقام کا سفر اختیار کرتا ہے تو بھی کنبہ کے لیے سفری الاؤنس حاصل کیا جاسکتا ہے لیکن یہ اس شرط کے تابع ہوگا کہ یہ سفری الاؤنس اس سفری الاؤنس سے تجاوز نہ ہو جو کنبہ کے لیے اس صورت میں قابل منظوری ہوتا ہے جب وہ نئے صدر مقام پر براہ راست جاتا۔ (ضمنی قاعدہ ۱۲۱۔ ج)

۱۳۔ ایک سرکاری ملازم کا اس وقت نئی اسامی پر تقرر کیا گیا ہو جب وہ ایک اسامی سے دوسرے کے لیے دوران رہا ہو تو اس کو سفری الاؤنس اس سفر کا ملے گا جتنا وہ نئے احکامات تک کر چکا ہے اور اس سفر کے لیے جو احکامات ملنے کے مقام سے نئے مقام تک ہوگا۔

۱۴۔ اگر سرکاری ملازم سابقہ اسامی کا چارج دینے کے بعد اور نئی اسامی کا چارج سنبھالنے سے قبل راہ میں ہوتے ہوئے سالم تنخواہ پر رخصت پر چلا گیا ہو جو ۳۰ دن سے تجاوز نہ ہو تو وہ اس امر سے قطع نظر کہ اسے رخصت کے آغاز سے قبل یا بعد تبادلہ کا حکم موصول ہوا تھا، وہ معمول کے مطابق سفری الاؤنس کے حصول کا مستحق ہوگا۔ اگر رخصت، خصوصی رخصت معذوری کے سوا کوئی ہو

۳۰ دن کی پوری تنخواہ رخصت سے زیادہ ہو یا سالم تنخواہ پر رخصت کے اشتراک سے منظور کیا گیا ہو تو وہ کسی سفری الاؤنس کا حق دار نہ ہوگا۔

(ضمنی قاعدہ ۱۲۳)

۱۵۔ جب کوئی سرکاری ملازم ایک اسامی سے دوسری اسامی پر تبادلہ کے دوران ۳۰ دن کی پوری تنخواہ کے علاوہ کوئی دیگر رخصت لیتا ہے تو وہ تبادلہ پر نئی اسامی کے فرائض سنبھالنے کی حد تک قواعد سفری الاؤنس کے مطابق ریلوے، سینئر کا کرایہ یا میلانہ الاؤنس کے حصول کا اس طور سے مجاز ہوگا گویا کہ اس نے یہ امر حکم رخصت کی وصولی سے قبل انجام دیا ہو۔ اگر کوئی سرکاری ملازم سالم تنخواہ پر رخصت کے علاوہ کسی دیگر ایسی رخصت سے واپس آیا ہو جو ۳۰ دن سے تجاوز نہ ہو اور اسے اس مقام کی بجائے جہاں سے وہ رخصت پر گیا تھا کسی دیگر مقام پر تعینات کر دیا گیا ہو تو افسر مختار اسے اس امر کی اجازت دے دے کہ وہ ذاتی سامان کی حمل و نقل اور سواری (اگر کوئی ہو) کے مصارف وصول کر لے۔ (ضمنی قواعد ۱۲۵ اور ۱۲۶)

۱۶۔ اگر کسی سرکاری ملازم کا صدر مقام اسلام آباد سے اسلام آباد راولپنڈی یا راولپنڈی سے منتقل کر دیا گیا ہو اور اس کے نتیجے میں اس کی رہائش بھی تبدیل ہو جائے تو اس کے لیے تبادلہ پر سفری الاؤنس قابل منظوری ہے۔ جہاں تک صدر مقام کی تبدیلی اور اس کے نتیجے میں سفری الاؤنس کے مقصد کی خاطر تبادلہ پر اسلام آباد سے راولپنڈی اور راولپنڈی سے اسلام آباد میں تبدیلی رہائش کے لیے حد وقت مقرر کرنے کے سوال کا تعلق ہے تو اس بارے میں مالیات ڈویژن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مطالبہ کرنے والے صدر مقامات پر سرکاری رہائش گاہ کی عدم فراہمی کو حکومتی فیصلہ نمبر زیر ضمنی قاعدہ ۱۲۱ کے مقصد کے لیے معقول وجہ تصور کیا جائے گا۔ بشرطیکہ انتظام حاکم مجاز کی قلت سے ایک تصدیق نامہ پیش کیا جائے کہ متعلقہ سرکاری ملازم کے راولپنڈی یا اسلام آباد میں جیسا بھی معاملہ ہو، رہائش مکان کے تعین کے لیے درخواست دی جاتی اور وہ اسے اس وقت سے

پہلے نہیں دیا جاسکا۔

۱۳۔ فارغ خدمتی کے بعد سفر

۱۔ (الف) ایک سرکاری ملازم کو مندرجہ ذیل حد تک اس کی آخری جائے تعیناتی سے اس کے آبائی قصبہ تک سفر کے لیے جو کہ اس نے رخصت قبل فارغ خدمتی یا فارغ خدمتی کے بعد کیا ہو، سفری الاؤنس کی اجازت ہے۔

(۱) اس کے اور اس کے ہر فرد کنبہ کے لیے ریل یا سٹیمر کے اس درجے کا اصل کرایہ جس کا فارغ خدمتی سے عین قبل وہ حق دار تھا۔ ایسے مقامات کے درمیان جو ریل یا سٹیمر کے ذریعے ملے ہوئے نہ ہوں، ملانے کی اجازت ہوگی۔

(۲) اس کے ذاتی سامان کی حمل و نقل کے اس حد تک اخراجات جو اس کی فارغ خدمتی سے عین قبل اس کے لیے تبادلہ پر قابل منظوری تھے۔

(۳) ذاتی سامان کے حمل و نقل کے اخراجات کے علاوہ کار یا موٹر سائیکل یا سکوٹر کی حمل و نقل کے اخراجات۔ ان کا سڑک کے ذریعہ شمار کیا جائے گا اور یہ قابل عمل راہ سے فاصلہ تک محدود ہوں گے۔

(۴) تبادلہ گرانٹ۔

(ب) مذکورہ بالا (الف) کے لیے پیشگی ادائیگی کی جائے گی اور یہ آخری ادائیگی شمار ہوگی۔

(ج) آبائی قصبہ کا تعین سرکاری ملازم کی خدمتی دستاویز میں مستقل پتہ کے اندراجات سے یا اس اعلان کے مطابق کیا جائے گا جو اس نے رعایت سفر کے مقصد کی خاطر کیا ہو۔ جن سرکاری ملازمین نے اپنے اپنے آبائی قصبہ کا اعلان نہیں کیا ہو ان سے ایسا کرنے کے لیے کہا جائے۔

(د) "فارغ خدمتی" کی اصطلاح سے مراد ہے پیرانہ سالی کی عمر کو پہنچنے پر فارغ خدمتی یا مقررہ حد ملازمت کی تکمیل پر یا پچیس سال کی اتصافی ملازمت کی تکمیل پر رضا کارانہ اور فارغ خدمتی یا پیش منذور یا جبری فارغ خدمتی۔

(د) ایک سول ملازم جس نے رخصت قبل فارغ خدمتی کے دوران اس رعایت سے استفادہ نہ کیا ہو وہ اصل تاریخ فارغ خدمتی سے چھ ماہ کی مدت کے اندر ایسا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی سول ملازم مذکورہ بالا چھ ماہ کے دوران اس رعایت سے استفادہ کیے بغیر فوت ہو جائے تو سربراہ محکمہ کے نام درخواست پیش کرنے پر کنبہ کو اس کی اجازت دی جاسکتی ہے اور اس مرحوم کی فارغ خدمتی کی تاریخ سے چھ ماہ کے اختتام سے قبل یا مرحوم کی تاریخ وفات سے تین ماہ کے اندر اندر جو بھی موخر ہوا استفادہ کرنا چاہیے۔ فارغ خدمتی کے فوراً بعد یا اس کے چھ ماہ کے اندر مکرر ملازمت کی صورت میں، چھ ماہ کی مقررہ حد کا آغاز اس تاریخ سے ہو گا جس پر مکرر ملازمت ختم ہوتی ہے۔

۲۔ (۱) فارغ خدمتی کے منوں الاؤنس کی رعایت بار ماموری کی صورت میں صرف ان فارغ خدمت سول ملازمین کے لیے قابل منظوری ہے جو سرکاری محکموں میں بار مامور ہوں اور ان کے لیے نہیں جو خود مختار نیم مختار اداروں یا نجی کمپنیوں میں ہوں۔

(۲) فارغ خدمت سول ملازم، رخصت قبل از فارغ خدمتی کے دوران یا فارغ خدمتی کے بعد کسی وقت بھی سفری الاؤنس کی رعایت سے مستفید ہونے کا حق دار ہے لیکن یہ مدت فارغ خدمتی کی تاریخ سے چھ ماہ کے عرصے کے اختتام تک ہونی چاہیے۔

(۳) رخصت قبل فارغ خدمتی کے دوران یا فارغ خدمتی کی تاریخ سے چھ ماہ کے اندر باز ماموری کی صورت میں ریٹائرڈ سول ملازم اس رعایت سے باز ماموری کے خاتمے سے قبل یا ماموری کے عرصے کے لیے ختم ہونے کی تاریخ سے چھ ماہ کے اندر مستفید ہو سکتا ہے۔

(۴) ایسے ملازمین جو گلگت، بلتستان یا چترال کے توطنی ہیں اور جنہیں ضرورت کے تحت فارغ خدمتی پر بذریعہ ہوائی جہاز سفر کرنا پڑتا ہے ان کے لیے مندرجہ ذیل سفری الاؤنس کی اجازت ہے۔

(۱) ایسے حصے تک کا سفر جو بذریعہ ریل ملا ہوا ہے، اس درجے کا ریل کا کرایہ جس کے وہ مستحق ہیں۔

(۲) سڑک سے ملے ہوئے حصے کے لیے مقررہ شرح کے مطابق میلانہ الاؤنس۔

(۳) بذریعہ ہوائی جہاز (کفایتی درجہ) خود کے لیے اور اہل کنبہ کے لیے راولپنڈی ریشاور سے جیسی بھی صورت ہو توطنی شہر کے نزدیک کے ہوائی اڈے تک۔

ان سرکاری ملازمین کے اہل کنبہ کے لیے سفری اور مالی امداد جو ملازمت کے دوران فوت ہو جائیں۔

۴۔ (۱) جو سرکاری ملازم دوران ملازمت فوت ہو جائے اس کے اہل کنبہ کے لیے سفری امداد کی منظوری سفری الاؤنس اور ذاتی سامان کی نقل و حمل کی لاگت کے مساوی دی جاتی ہے۔ یہ امداد دفتری یادداشت نمبر ۲ (۱) ریو مورخہ ۲ ستمبر ۱۹۷۲ء کے پیرا گراف ۷۷ کی شق (الف) تا (ج) میں درج گنجائش سے مشروط ہے تاکہ اس کے کنبے کی اس کے آخری مقام تعیناتی سے اس کے توطنی شہر تک یا جہاں اس کا کنبہ جانا چاہے، سفری امداد کی سہولت فراہم کی جائے بشرطیکہ حکومت کی طرف سے ادا کی جانے والی رقم اس کے آخری مقام تعیناتی سے اس کے توطنی شہر تک کی رقم سے متجاوز نہ ہو۔

(۲) پیشگی کی رقم متعلقہ دفتر کا افسر بر آری و ادائیگی نکلوائے گا اور متوفی کے کنبے کے سب سے بڑے فرد کو اس درخواست پر ادا کرے گا جو اس جانب سے اس محکمے کے سربراہ کو دی جائے گی جس میں متوفی اپنی موت سے قبل کام کر رہا تھا۔ درخواست میں مندرجہ ذیل کوائف درج ہونے چاہئیں۔

(الف) متوفی سرکاری ملازم کا نام

(ب) عہدہ اور دفتر کا نام جہاں وفات سے قبل وہ کام کر رہا تھا

(ج) درخواست دہندہ کا نام اور پتہ

(د) اس کا متوفی سے رشتہ

(۳) متوفی کا توطنی شہر یا وہ مقام جہاں اس کا کنبہ جانا چاہتا ہے۔

(د) متوفی کے افراد کنبہ کے نام مع پتہ اور

(ز) ذاتی ضرورت کے سامان کا تخمینی وزن جو ساتھ لے جانا ہے۔

اشارہ: درخواست پر بیانہ تنخواہ ۷۷ یا اس سے بالا تر افسر یا کیشنڈ افسر کے تصدیقی دستخط ہونے چاہئیں جو تصدیق نامے میں مندرجہ ذیل الفاظ درج کرے گا۔

”تصدیق کی جاتی ہے کہ مجھے ذاتی طور پر علم ہے کہ مندرجہ بالا کوائف درست

ہیں“

(مالیات ڈویژن دفتری یادداشت نمبر (۱) ریو۔ مورخہ ۶ فروری ۱۹۷۳ء۔)

(۲) سفری الاؤنس اور ذاتی سامان کی نقل و حمل کی لاگت کی منظور شدہ رقم کے علاوہ دفتری یادداشت نمبر ۲ (۱) ریو۔ مورخہ ۶ فروری ۱۹۷۳ء کے تحت قابل منظوری ہے۔ غمزہ کنبہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک تبادلہ کی رقم کی منظوری کا حق دار بھی ہو گا جو متوفی سول ملازم کے لیے قابل منظوری تھی۔

(مالیات ڈویژن یادداشت نمبر ایف آر۔ ۷۸ مورخہ ۱۲ دسمبر ۱۹۷۸ء)

افسر نگرانی (ضمنی قاعدہ ۱۹۲ تا ۱۹۵)

۵۔ مجاہد کو پیش کیے جانے سے قبل سفری الاؤنس کے تمام بلوں پر افسر نگرانی کے توثیقی دستخط ہونے ضروری ہیں۔ وزارتیں، ڈویژن اور سربراہان محکمہ جات اس مقصد کے لیے افسر نگرانی نامزد کر سکتے ہیں۔ سفری الاؤنس کے بل پر توثیقی دستخط کرنے سے قبل افسر نگرانی کے لیے ضروری ہے کہ۔

(۱) سفری کی ضرورت، فاصلے، سفر کے دورانیے اور قیام کی چھان بین کرے

جس کے لیے سفری الاؤنس مانگا گیا ہے اور تمام سفری الاؤنس یا اس کا کچھ حصہ منظور کر دے۔ اگر وہ اسی امر سے مطمئن ہو کہ سفر ضروری نہیں تھا یا قیام

ضرورت سے زیادہ تھا۔

(۲) بل میں دیے گئے فاصلوں کی چھان بین کرے۔

(۳) اس امر کا اطمینان حاصل کرے کہ بذریعہ ریل یا خالی ہوائی جہاز طلب کیا

گیا۔ میلانہ الاؤنس سرکاری ملازم کے لیے قابل منظوری درجے کی جگہ کی شرح کے مطابق ہے اور حقیقت میں اسے استعمال کیا گیا ہے۔

(iv) جب ذاتی سامان کی نقل و حمل کی لاگت کے اصل اخراجات کا بھی مطالبہ کیا جائے تو دیکھے کہ یہ مقررہ پیمانے کے مطابق اور معقول ہیں۔

(v) ضمنی قاعدہ ۳۸ کے تحت اعلیٰ تر درجے کے مطالبہ کی اجازت دینے سے قبل اپنا اطمینان کرے کہ سرکاری ملازم کے طلب کردہ شرح پر واقعی براہ راست ٹکٹ خریدے۔ یہ کہ اس سے کم شرح پر ٹکٹ خریدنا ممکن نہ تھا۔

(vi) ان ابتدائی قواعد یا احکام پر عمل درآمد کیا جائے کہ حاکم مختار کی طرف سے اس کی راہنمائی کے تحت وضع کیے جائیں۔

۶۔ اگرچہ افسر نگرانی اور افسر محاسبہ دونوں کو سفری الاؤنس کے دورائے کی درستی کی چھان بین کرتی ہے۔ یہ افسر نگرانی ہے جسے اس سلسلے میں زیادہ ذمہ داری سنبھالنی ہے، افسر محاسبہ سفری الاؤنس سے متعلق فاصلے اور دیگر متعلقہ حقائق کی محض آزمائش پر تامل کرتا ہے تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جائے۔ سرکاری ملازمین میں اس درجے کا اہل یا وفاق جہاز کا کرایہ ملتے ہیں جس کے وہ حق دار ہیں اور انہوں نے حقیقت میں اس درجے میں سفر کیا ہے۔ وہ سفری الاؤنس کے بل میں اس امر کا تصدیق نامہ پیش کرنے کے متعلق کہہ سکتے ہیں کہ اس نے اس درجے میں حقیقت میں سفر کیا ہے جس کے وہ حق دار ہیں۔ ایسی صورتوں میں جب کہ سرکاری مفاد میں سرکاری ملازم کو بالاتر یا کم تر درجے میں تقرر کرنا ہو تو افسر محاسبہ کو اس حقیقت سے یا سفری الاؤنس کے بل یا طبعہ ترسیلی مراصلے کے ذریعے مطلع کیا جائے۔ جہاں میلانہ طلب کیا گیا ہو وہاں سرکاری ملازم سے کہا جائے کہ وہ سواری کے بارے میں تصدیق نامہ تحریر کرے۔ (اپنی کار کرائے پر لی گئی کار پوری ٹیکسی، موٹر سائیکل، رسکونڈر یا صرف ایک سیٹ لے کر) جو استعمال کی گئی ہو، سفر کی غرض کے خاتمے میں مقصد کی وضاحت ہر حال میں کی جائے۔ محاسبہ کو پیش کیے جانے والے بعض بلوں میں سفر کی غرض بعض اوقات مندرجہ

ذیل مبہم جملوں میں درج ہوتی ہے۔ ”سرکاری کام“ ”سرکاری فرض“ اور ”سرکاری دورہ“ وغیرہ۔ چونکہ سفر کا صحیح مقصد جاننا ضروری ہے تاکہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ سفر کا خرچ درست طور پر حکومت کے لیے قابل ادائیگی ہے۔ اس لیے سفر کے مقصد کی وضاحت ضروری ہے۔ افسران نگرانی ضمنی قاعدہ ۱۹۵ کی شرائط کے تحت میں امر کو یقینی بنانے کے ذمہ دار ہیں کہ سفری الاؤنسوں کے بل پر سفر کی غرض ہمیشہ تحریر ہو۔ اس ضرورت کی ہمیشہ تعمیل کی جائے تاکہ ایسی تاخیر نہ ہو جو محاسبہ کی طرف سے نامکمل بل واپس کرنے کے نتیجے میں ہوتی ہے۔ جہاں سفر کی غرض خفیہ نوعیت کی ہو اس کی اطلاع طبعہ مراصلے کے ذریعے دی جائے جس پر افسر نگرانی کے دستخط ہوں اور اسے متعلقہ افسر کے نام سر بمبر لفافے میں بھیجا جائے۔

(ب) پاکستان سے باہر واقع مقامات کے لیے بکار سرکار روانہ ہونے والے سرکاری ملازمین کے لیے قابل منظوری سفری الاؤنس

عارضی خدمت پر بیرون ملک جانے والے افسروں کی ذمہ بندی بطریق ذیل کی گئی ہے۔

(i) وزارتائے کابینہ، سفارتی مشنوں کے سربراہ اپنے حلقہ اختیار کے اندر چیف آف سٹاف بری، فضائی اور بحری افواج پاکستان بنیادی پیمانہ ۲۱ اور بالا اور وفود کے غیر سرکاری قاعدین۔

(ii) افسران بنیادی پیمانہ ۲۰ معنوں کے سربراہ اپنے حلقہ اختیار سے باہر اور وزراء (سفارتی رتبہ) میجر جنرل اور بالا رتبہ فوجی افسران اور غیر سرکاری ارکان سوائے وفود کے سربراہوں کے۔

(iii) بنیادی پیمانہ ۱۷-۱۹ کے ملازمین بجز ان کے افسروں کے جو بنیادی پیمانہ میں بذریعہ موو اوور (Move Over) تنخواہ پا رہے ہیں۔

(iv) بنیادی پیمانہ ۲۱ اور کمتر پیمانے کے افسر، مطابق رتبے فوجی افسر۔

۲۔ بیرون ملک بذریعہ ہوائی جہاز، سڑک یا سمندر سفر کرنے والا ہر افسر اس درجہ نشست کے مطابق جس کا وہ پاکستان میں مستحق ہے۔ سواری عامہ کے ذریعے سفر کے اصل خرچ کا حقدار ہو گا۔ اس غرض کے لیے جو سرکاری اشخاص کو زمرہ اصل (پاکستان سفری الاؤنس کی اغراض کے لیے) کے افسر تصور کیا جائے گا۔ بیرون ملک بذریعہ ریل سفر کرنے والے سرکاری غیر سرکاری اشخاص اپنے درجہ استحقاق کے اصل کرائے کے مستحق ہوں گے۔ بجز سربراہ محکمہ کی اور مشوں کے سربراہوں کی صورت میں وزارت امور خارجہ کی پیشگی اجازت کے بغیر بذریعہ سمندر سفر نہیں کیا جائے گا۔ ٹھونس وجوہ کے سوا اور متعلقہ زائد خرچ (شمول سفر) کی مدت کے دوران حاصل کی جانے والی تنخواہ کو زیر غور لائے بغیر بیرون ملک سفر کرتے وقت دفاتی حکومت کے جائت سیکرٹری اور بالا کے رتبے کے افسر بذریعہ ہوائی جہاز درجہ اول میں سفر کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی افسر بذریعہ مندرجہ ذیل سفر کرتا ہے اور سفر کے دوران رات کا سفر آ جاتا ہے تو وہ سلیپر کی نشست کے مصارف، اگر اس نے کیے ہوں حاصل کر سکتا ہے۔

۳۔ دوران سفر حکومت کے خرچ پر مسلمان برادری کی اجازت نہیں ہے تاہم سرکاری کام کی اغراض کے لیے جانے والے سرکاری ریکارڈ سے متعلق نواز اداہنگی کا مطالبہ کیا جا سکتا ہے لیکن اس ضمن میں حاکم مجاز پیشگی اجازت حاصل لینی چاہیے۔ تاہم زمرہ ۱ کے افسر مجموعی طور پر ۸۰ پونڈ (۳۶ کلوگرام) (شمول ہوائی جہاز سے کیے جانے والے سفر) کے لیے ہوائی جہاز کے کنٹون پر بلا خرچ (وزن) تک سامان کے کرائے کا مطالبہ کر سکتے ہیں۔

۳۔ صدر مقام سے باہر بکار سرکار مقام قیام پر گزاری جانے والی ہر رات سے متعلق حکومت کی طرف سے وقتاً فوقتاً رکھے جانے والی فتوحات کے مطابق روزانہ قابل منظوری ہو گا۔ بجز زمرہ ۱ شرحات روزانہ جائے قیام کی مدت ۲۸ راتوں سے تجاوز ہو جائے تو ۲۸ راتوں کی مدت کے بعد روزانہ کی شرح ۱۰ فی صد کم ہو جائے گی۔ اگر قیام کی مدت ۵۶ راتوں سے تجاوز ہو جائے تو ۵۶ راتوں کی

مدت کے بعد شرح ۱۵ فی صد کم ہو جائے گی۔

۵۔ زمرہ ۱ کی صورت میں جگہ کسی ہوٹل درجہ اول میں ایک کمرہ مع غسل خانہ پر مشتمل ہو گی۔ بجز اس کے کہ جہاں فی الواقع وجوہ کی بنا پر کمرے کا ایک سیٹ کرائے پر لینا پڑے لیکن جگہ کے مصارف تمام مذکورہ پر زمرہ ۱ کے افسروں کے لیے قابل منظوری شرح روزانہ سے بالعموم نہیں بڑھنے چاہئیں۔ اس طور سے سفارت خانے کی طرف سے محفوظ کردہ جگہ کے مصارف کی اداہنگی ابتدائی طور پر مشن مذکور کی طرف سے کی جائے گی لیکن متعلقہ وزارت کے محکمے تخصیص میزانیہ ریفیرنسی زرمبادلہ کوٹا کے ذمہ ڈال دی جائے گی۔ زمرہ ۱ کے افسر کو اپنی صوابدید پر خود کو زمرہ ۱ میں تبدیل کرنے کی اجازت ہے۔ عام طور پر متعلقہ مقامات پر زمرہ ۱ کے افسروں کے لیے قیام کا انتظام متعلقہ پاکستان مشوں کو کرنا چاہیے۔ جہاں متعلقہ پاکستان سفارت خانے کی طرف سے کسی ہوٹل میں قیام کا انتظام نہ کیا جائے اور متعلقہ عہدیدار کو اپنے انتظام کے تحت کسی ہوٹل میں قیام کرنا پڑے تو وہ ہوٹل کے بل پیش کرنے پر زمرہ ۱ کے افسر کے لیے قابل منظوری روزانہ کی رقم کی حد تک مشکل کمرے کی جگہ کے اصل مصارف کی بازا اداہنگی کا مستحق ہو گا۔ اگر ہوٹل کے بل پیش نہ کیے جائیں تو زمرہ ۱ کی شرحات پر روزانہ قابل منظوری ہو گا۔ ایسی صورت حال میں متعلقہ افسر کو زمرہ ۱ جمع زمرہ ۱ کے روزانہ کے مساوی غیر ملکی زرمبادلہ کی پیشگی دی جائے گی اور اس پیشگی کا تسویہ افسر مذکور کے پاکستان واپس آنے پر ہوٹل کے بل پیش کرنے پر کیا جائے گا۔

۶۔ جب افسر مذکور یا ریاستی مہمان جو بھی اس کی جائے قیام اور کھانے وغیرہ کے مصارف کسی حکومت یا بین الاقوامی تنظیم کی طرف سے ادا کیے جائیں تو قابل منظوری روزانہ متعلقہ مقام پر معمول کی شرح کا ۳۰ فیصد ہو گا۔

۷۔ اگر ہوائی سفر کے دوران رات کا سفر آتا ہو، تو روزانہ شرح روزانہ کے ۳۰ فیصد کے مطابق قابل منظوری ہو گا۔ روانگی کے سفر کے لیے روزانہ سفر کے ہر

یوم کے لیے اگلے مقام ماسوری پر قابل منظوری روزینہ کی ۳۰ فیصد کی شرح پر دیا جائے گا۔ واپسی سفر پر روزینہ سفر کے ہر یوم کے لیے اس مقام پر وہ سب سے آخر میں ڈیوٹی پر ٹھہرا ہوا تھا، قابل منظوری شرحات کے ۳۰ فیصد کے مطابق دیا جائے گا۔

۸۔ خصوصی احکام کی عدم موجودگی میں سرکاری عہدیداروں میں غیر سرکاری اشخاص کو جن کے ساتھ ان کی بیویاں ہوں، صرف سنگل جگہ کے لیے مصارف ادا کیے جائیں گے اس سے زائد خرچ متعلقہ شخص خود برداشت کرے گا۔

۹۔ بیرون ملک جائے قیام پر اتفاق مدت مثلاً "ٹپ" ٹیکسی کا کرایہ اور قلی کی اجرت (حالی) وغیرہ پر برداشت کردہ اصل خرچ متعلقہ شخص کو مقام مذکورہ پر قابل منظوری روزینہ کی شرح کے زیادہ سے زیادہ ۱۵ فی صد تک بازارا کیا جائے گا۔ یہ ان سرکاری ملازمین کے لیے قابل منظوری نہیں ہو گا جو ریاستی مہمانوں کے زمرے میں آتے ہیں۔

۱۰۔ بیرون ملک روانہ ہونے والے سرکاری ملازم کی طرف سے اسے منظور کردہ روزینہ کی پیشگی کے پانچواں امریکی ڈالروں میں روزینہ کی رقم کے مساوی سفری چیکوں کی صورت میں غیر ملکی زر مبادلہ خریدنے پر زائد صرف شدہ رقم ضروری رسیدہ پیش کرنے پر بازارا کر دی جائے گی۔

۱۱۔ پاکستان میں روزینہ کا حساب شیٹ بک اور پاکستان کی اعلان کردہ تاریخ خرید نقدی پر یا سفری چیکوں کی صورت میں امریکی ڈالر پر قابل اطلاق شرحات خزینت کی بنیاد پر لگایا جائے گا۔ جس بک سے زر مبادلہ خرید لگایا ہے اس کی اصل رسید سفری الاؤنس کے بل کے ساتھ منسلک کی جائے گی۔

باب ۱۵

قواعد عمومی کفالتی فنڈ (مرکزی ملازمین)

۱۔ فنڈ کی تشکیل

یہ فنڈ کفالتی فنڈ ایکٹ ۱۹۲۵ (موجودہ وقتاً فوقتاً" ترمیم شدہ) کے تحت تشکیل دیا گیا تھا۔ ابتداً عمومی کفالت فنڈ میں چندہ دینا اختیاری تھا لیکن یکم ستمبر ۱۹۵۳ء سے اسے لازمی قرار دیا گیا ہے۔ اب وفاقی حکومت کے تمام ملازمین بشمول مازامور عملہ جنھوں نے دو سال سے زائد مدت کی ملازمت انجام دی ہو، عمومی کفالت فنڈ میں لازمی طور پر چندہ دینے کے پابند ہیں تاہم وفاقی وزراء وفاقی حکومت کے وزراء برائے مملکت اپنا عمدہ سنبھالنے کی تاریخ سے عمومی کفالت فنڈ میں چندہ دینے کے پابند ہیں۔

۲۔ چندہ دہندگان کا حساب

جو نئی کوئی سرکاری ملازم (سابقہ کلاس (iv) ملازم کے سوا) دو سال کی ملازمت مکمل کرنے کے قریب ہو، اس کی اطلاع متعلقہ افسر حسابات کو کر دینی چاہیے اور اس سے سرکاری ملازم مذکورہ کے لیے عمومی کفالت فنڈ کھاتہ نمبر الاٹ کرنے کی درخواست کرنی چاہیے۔ جب نمبر الاٹ ہو جائے تو چندہ کی منہائی شروع کر دینی چاہیے۔ عمومی کفالت فنڈ کھاتہ نمبر ہمیشہ جدول اور اس موضوع پر افسر حسابات سے کی جانے والی

تمام مراسلت میں درج کرنا چاہیے۔

۳۔ چندے کی شرائط اور ان کی شرح

عمومی کفالتی فنڈ کا چندہ ماہانہ تنخواہ کے بلوں میں بذریعہ منہائی وضع کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم ملازمت خارجہ میں ہو تو وہ اپنا چندہ سرکاری خزانے میں ادا کر سکتا ہے اور متعلقہ افسر محاسبہ کو چالان خزانہ ارسال کر سکتا ہے۔ رخصت اور معطلی کے دوران چندہ معطل کیا جاسکتا ہے لیکن اگر سرکاری ملازم بعد ازاں بحال ہو جائے تو اسے یہ اختیار ہو گا کہ وہ اتنی رقم جو مدت مذکورہ کے بقایا چندوں سے تجاوز نہ ہو، یک مشت یا تسطویٰ میں ادا کر دے۔

۴۔ عمومی کفالتی فنڈ۔

(الف) عمومی کفالتی فنڈ کے چندہ کی رقم حکومت کی طرف سے وقتاً فوقتاً مقرر کی جائے گی۔

(ب) ملازم کی ترقی یا تنزیل کی صورت میں عمومی کفالتی فنڈ کے چندہ میں تبدیلی آئے گی لیکن یہ تبدیلی اگلے جون کی یکم کو ہوگی۔ گریڈ ۱ تا ۱۲ کے ملازمین کے لیے چندہ کی شرح ان کے بنیادی تنخواہ پر یکم جون ۱۹۹۳ء سے شروع ہوئی ہے اور بنیادی بیانیہ تنخواہ ۱۷ اور اوپر کے ملازمین کے لیے چندہ کی شرح حسب ذیل مقرر کی گئی ہے۔

بنیادی بیانیہ تنخواہ	ماہانہ چندہ کی شرح
ب-۱	۵۰ روپے
ب-۲	۸۵ روپے
ب-۳	۸۵ روپے
ب-۴	۹۰ روپے
ب-۵	۹۵ روپے

ب-۶	۱۰۰ روپے
ب-۷	۱۰۰ روپے
ب-۸	۱۱۰ روپے
ب-۹	۱۳۰ روپے
ب-۱۰	۱۳۵ روپے
ب-۱۱	۱۳۰ روپے
ب-۱۲	۱۳۵ روپے
ب-۱۳	۲۵۰ روپے
ب-۱۴	۲۶۵ روپے
ب-۱۵	۲۸۵ روپے
ب-۱۶	۳۲۵ روپے
ب-۱۷	۲۵۰ روپے
ب-۱۸	۵۶۰ روپے
ب-۱۹	۷۸۰ روپے
ب-۲۰	۹۲۰ روپے
ب-۲۱	۱۰۳۰ روپے
ب-۲۲	۱۳۰ روپے

مندرجہ بالا شرح کم ترین شرح ہے اور ایک سرکاری ملازم حسب خواہش زیادہ چندہ دے سکتا ہے۔ چندے کی رقم سالم روپوں میں ہوگی۔ اگر روپے کی کوئی کسر ہو تو اسے نزدیکی روپے میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ ایک سال میں ۳۰ جون پر تنخواہ کے حوالے سے چندے کی شرح مقرر کی جاتی ہے اور ایک دفعہ مقرر کردہ شرح سال مذکور کے دوران تبدیل نہیں ہونی چاہیے۔ تاہم اگر کسی مالی سال کے دوران تنخواہ کم از کم ۲ فیصد اضافہ یا تخفیف ہو جائے تو چندہ دہندہ کو سال مذکور کے دوران اپنے چندے کی شرح دوبارہ مقرر کرنے کا اختیار ہو گا۔ جب کسی چندہ دہندہ کا تبادلہ بیرون پاکستان ہو

جائے تو چندہ متعلقہ سفارت خانے کے توسط سے غیر ملکی زرمبادلہ میں ادا کیا جائے گا۔

۵۔ نامزدگیاں

چندہ دہندہ کے فنڈ میں شریک ہونے کے بعد اسے چاہیے کہ وہ جلد از جلد افسر حسابات کو ایک فارم نامزدگی بھیجے جس کے ذریعے ایک یا ایک سے زائد اشخاص کو اس کے فنڈ میں جمع شدہ رقم وصول کرنے کا حق اس صورت میں ہو گا جب چندہ دہندہ اس رقم کے واجب الادا ہونے سے پہلے یا رقم کے واجب الادا ہو جانے کے بعد لیکن اس کی ادائیگی سے پہلے وفات پا جائے، نامزدگی کسی بھی شخص کے حق میں ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ کنبہ (بیوی یا بیویاں اور خاتون سرکاری ملازم کی صورت میں خاوند، جائز بچے، متوفی بیٹے کی بیوہ یا بیوگان اور بچے) رکھتا ہو تو وہ اپنے کنبے کے سوا کسی اور شخص کو نامزد نہیں کر سکتا۔ ایک غیر شادی شدہ جس نے کسی شخص کے حق میں نامزدگی کی ہو، شادی کرتے ہی اس میں ترمیم کرنے کا پابند ہو گا۔

نامزدگی ایک سے زیادہ اشخاص کے حق میں ہو سکتی ہے ایسی صورت میں نامزد کو واجب الادا حصے کی رقم واضح طور پر ظاہر کرنی چاہیے۔ نامزدگی کے ساتھ ایک مشروط، اطلاع نامہ، تنبیخ بھی افسر حسابات کو ارسال کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ کی گئی نامزدگی کو چندہ دہندہ اپنی مرضی سے کسی بھی وقت تبدیل کر سکتا ہے۔

نامزدگی کے فارم کی ایک نقل بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۵ اور اس کے کمتر پیمانوں میں تنخواہ پانے والے سرکاری ملازمین کی ملازمت ناموں (سروس بک) میں اور بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۶ اور بالا میں تنخواہ پانے والے افسروں کی صورت میں ان کی ذاتی مسلوں میں رکھی جائے گی۔

۶۔ سود

حکومت چندہ دہندہ کے حساب میں جمع شدہ رقم پر ہر سال کے لیے متعین کردہ شرح سے سود ادا کرتی ہے۔ سود چندہ دہندہ کے حساب میں سابق سال کے آخری یوم

پر جمع رقم منہا سال رواں کے دوران نکلائی گئی (رقوم) پر محسوب کیا جاتا ہے۔ بارہ ماہ کے لیے سود اور سابق سال کے آخری یوم کے بعد چندہ دہندہ کے کھاتے میں جمع شدہ تمام رقوم پر۔ تاریخ ادخال سے رواں سال کے اختتام تک سود کی رقم قریب ترین سالم روپے میں محسوب کی جاتی ہے۔

جہاں چندہ دہندہ کے حساب میں موجود رقم واجب الادا ہو جائے تو سود سال رواں کے آغاز یا رقم جمع کرانے کی تاریخ سے اس تاریخ تک کی مدت کے لیے ادا کیا جائے گا جس پر چندہ دہندہ کے حساب میں موجود رقم واجب الادا ہو جائے۔ تنخواہ کے بل میں سے بازیابی کی صورت میں اس ماہ کا پہلا دن تصور ہو گا جس میں یہ بازیابی کی گئی ہو چندہ دہندہ کی موت سے خزانے ریجنک میں رقم جمع کرنے کی صورت میں تاریخ جمع (ادخال) وصولی مینے کا پہلا دن تصور ہو گا بشرطیکہ یہ حسابات کو ماہ مذکور کی پانچویں تاریخ سے قبل وصول ہو جائے لیکن اگر یہ ماہ مذکور کی تاریخ کو یا اس کے بعد وصول ہو تو اگلے ماہ کا پہلا دن۔

عمومی گفتات فنڈ کے متعلق آخری ادائیگی کرتے وقت سود ادائیگی کے مینے سے پہلے ماہ کے اختتام تک ادا کیا جائے گا۔ اگر افسوسناک بات نے چندہ دہندہ کو اس تاریخ سے مطلع کیا ہو جس پر وہ نقد ادائیگی کرنے پر تیار ہو تو سود صرف تاریخ مذکور سے پچھلے مینے کے اختتام تک واجب الادا ہو گا۔ اگر ادائیگی کا مستحق شخص اس ضمن میں اس تاریخ کے چھ ماہ کے اندر کوئی درخواست نہیں بھیجتا جس پر چندہ دہندہ کے حساب میں جمع رقم واجب الادا ہوئی تو جس ماہ میں وہ رقم واجب الادا ہوئی ہو، کے بعد چھ ماہ کے اختتام تک سود قابل ادا ہو گا۔

اگر کوئی مسلمان چندہ دہندہ افسر حسابات کو مطلع کرے کہ وہ سود لینا نہیں چاہتا تو اسے سود ادا نہیں کیا جائے گا لیکن اگر وہ بعد ازاں سود کا مطالبہ کرے تو اس مالی سال کے پہلے دن سے جس میں اس نے سود کا مطالبہ کیا ہو اس کے حساب میں سود جمع کیا جائے گا۔

۷۔ فنڈ سے پیشگی

چندہ دہندہ کو اس کے عمومی کفالت فنڈ کے کھاتے میں جمع شدہ رقم میں اسے مندرجہ ذیل شرائط کے تابع پیشگی کے حصول کی منظوری دی جاسکتی ہے:

(i) پیشگی صرف اس صورت میں دی جائے گی جب کہ منظور کنندہ حاکم مجاز کو یہ اطمینان ہو کہ درخواست دہندہ کے مالی حالات اس کے لیے جواز فراہم کرتے ہیں

(ii) درخواست گزار، اس کی زوجہ اس کے شوہر یا اس کے فی الواقع زیر کفالت شخص کی طویل عیالت کے سلسلے میں ہونے والے اخراجات کی ادائیگی کے لیے،

(iii) درخواست گزار یا اس کے کسی حقیقی زیر کفالت شخص کے علاج یا تعلیم کی غرض سے سمندر پار سفر کے اخراجات کی ادائیگی کے لیے،

(iv) تجویز و تنظیم یا مذہبی رسوم کے ضمن میں یا اس کی شادی یا اس کے کنبے کے کسی رکن کی شادی یا اس کے حقیقی زیر کفالت کسی خاتون رشتہ دار کی شادی سے متعلق درخواست گزار کی حیثیت کے مطابق لازمی اخراجات کی ادائیگی کے لیے،

(v) (پیشگی کی) رقم تین ماہ کی تنخواہ یا چندہ دہندہ کے فنڈ میں موجود رقم کے نصف ان میں جو بھی کم ہو، سے تجاوز نہیں ہونی چاہیے۔

(vi) ایسے چندہ دہندہ کے لیے جو اپنی جمع شدہ رقم پر سود نہیں لیتا اور جو اس غرض کے لیے حکومت سے کوئی پیشگی نہیں لیتا، موٹر کار، موٹر سائیکل یا میکسل خریدنے کے لیے۔ ایک چندہ دہندہ کو اپنی بیوی کا مراد کرنے کے لیے بھی مندرجہ ذیل شرائط کے تابع پیشگی دی جاسکتی ہے۔

(الف) درخواست گزار کو پیشگی نکلوانے کے ایک ماہ کے اندر یہ ثبوت پیش کرنا چاہیے کہ اس نے مرنے والے واقعہ ادا کر دیا ہے بصورت کو تالی پیشگی یک مشت بازیاب کر لینی چاہیے۔

(ب) اگر چندہ دہندہ نے اپنی شادی کے لیے پہلے سے پیشگی حاصل کر لی ہو

تو مہر کی ادائیگی کے لیے اسے کوئی مزید پیشگی نہیں دی جائے گی، اور (ج) پیشگی کی رقم مذکورہ بالا حد یا مہر کی مقررہ رقم جو بھی کم ہو، اسے تجاوز نہیں ہونی چاہیے، جس کا ثبوت متعلقہ چندہ دہندہ کو پیش کرنا چاہیے۔

بجز اس کے پہلے سے ادا کردہ پیشگی کی رقم (۵) بالا کے تحت قابل منظوری رقم کے دو تہائی سے تجاوز نہ ہو یا جب تک کہ تمام سابقہ پیشگیوں اور ان پر واجب الادا سود کی قطعی بازیابی کو کم از کم ۱۲ ماہ کا عرصہ نہ گزر چکا ہو، دوسری پیشگی منظور نہیں کی جاسکتی۔ تاہم بالا تر حاکم مجاز مذکورہ بالا شرائط کو نرم کر سکتا ہے۔ اگر کوئی سرکاری ملازم جس نے پہلے عمومی کفالت فنڈ سے کوئی پیشگی نہ لی ہو یا تمام سابقہ پیشگیوں اور ان پر واجب الادا سود کی قطعی بازیابی کو کم از کم ۲۱ ماہ کا عرصہ گزر چکا ہو، عمومی کفالت فنڈ میں سے پیشگی کے حصول کے لیے درخواست کرتا ہے جس کی رقم خصوصی وجوہ کی بنا پر تین ماہ کی تنخواہ یا جمع شدہ رقم کے ۵۰ فی صد جو بھی کم ہو، تجاوز ہو، تو حاکم مجاز اس کی منظوری دے سکتا ہے۔

پیشگی کی رقم حاکم مجاز کی مقرر کردہ اقساط میں وصول کی جائے گی لیکن اقساط کی تعداد ۱۲ سے کم اور ۲۸ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ چندہ دہندہ اپنی خواہش پر ایک مہینے سے ایک سے زیادہ اقساط ادا کر سکتا ہے۔ ہر قسط سالم روپوں میں ہو گی اور حسب ضرورت اقساط کا تعین کرنے کی غرض سے پیشگی کی رقم میں کمی یا بیشی کی جا سکتی ہے۔ بازیابی اس ماہ کی تنخواہ میں سے شروع کی جائے گی جس میں پیشگی حاصل کی گئی ہو۔ چندہ دہندہ کی درخواست پر حاکم مجاز پیشگی کی بازیابی کو ملتوی کر سکتا ہے نیز بازیابی چندہ دہندہ کی رضامندی کے بغیر نہیں کی جائے گی۔ اگر وہ رخصت پر ہو یا گزارا الاؤنس لے رہا ہو۔ اصل رقم کی ادائیگی سے بعد سود کی بازیابی کی جائے گی۔ ایسے مسلمان جو فنڈ میں جمع کردہ رقم پر سود نہیں لیتے، انہیں نکلوانی گئی پیشگی پر سود ادا نہیں کرنا پڑے گا (قاعدہ ۱۵)

چندہ دہندہ کے اپنے رہنے کے لیے مکان تعمیر کرنے کے لیے یا اس کے یا اس کی بیوی اور بچوں کے ان میں سے کسی ایک کے ملکیتی مکان کی مکمل باز تعمیر یا اس

کی توسیع تجدید کی غرض سے مندرجہ ذیل شرائط کے تحت پیشگی منظور کی جاسکتی ہے۔

(۱) پیشگی جہاں تک ممکن ہو، قواعد عمومی کفالت فنڈ کے پیرا ۳۵۳ الف میں مقررہ قیود و شرائط کے مطابق ہونی چاہیے۔

(۲) اراضی اور اس پر تیار کردہ مکان، پیشگی نکلوانے کے تین ماہ کے اندر صدر کے حق میں رہن رکھ دیا جائے گا۔ دستاویز رہن اس کی تکمیل کے تین ماہ کے اندر رجسٹرڈ کر دینی چاہیے۔

(۳) پیشگی چندہ دہندہ کی ۳۶ مہینوں کی تنخواہ یا فنڈ میں چندہ دہندہ کے حساب میں جمع رقم کی ۸۰ فیصد جو بھی کم ہو، سے متجاوز نہ ہو۔

(۴) بازاریابی چندہ دہندہ کی تنخواہ کے ۷ فی صد کی شرح پر پیشگی کی پہلی قسط نکلوائی جانے کے بعد چوتھے ماہ کی تنخواہ سے شروع ہوگی۔ اگر پیشگی کی رقم چندہ دہندہ کی ۱۳ ماہ کی تنخواہ سے زائد نہ ہو تو بازاریابی تنخواہ کے ۵ فی صد کی شرح پر کی جائے گی۔

(۵) ایک سرکاری ملازم کے عمومی کفالت فنڈ کے کھاتے میں تعمیر مکان کے لیے دی گئی پیشگی کو مجموعی قرضہ تعمیر مکان، جس کا کہ سرکاری ملازم مستحق ہے، کو محسوب کرنے کی غرض کے لیے زیر غور نہیں لایا جائے گا۔

(۶) جہاں نکلوائی جانے والی رقم سرکاری ملازم کی ۳۶ مہینوں کی تنخواہ سے کم تھی اور وہ اپنے حساب میں جمع شدہ رقم کا ۸۰ فیصد نکلوا چکا تھا۔ وہ مندرجہ ذیل شرائط کے تابع (اس مکان کے لیے) عمومی کفالت فنڈ میں سے پیشگی کی مزید قسط (اقساط) نکلوا سکتا ہے۔

(الف) اضافی قسط (اقساط) کی کل رقم ۳۶ ماہ کی تنخواہ کی مجموعی حد سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے۔

(ب) اس غرض کے لیے تنخواہ سے مراد وہ تنخواہ ہوگی جو سرکاری ملازم پہلی قسط نکلواتے وقت حاصل کر رہا تھا۔

(ج) قسط (اقساط) مابعد کی منظوری اس وقت تک نہیں دی جانی چاہیے جب

تک کہ سابقہ قسط نکلوائی جانے کی تاریخ سے کم از کم ایک سال کی مدت نہ ہو جائے۔ ایسے چندہ دہندہ کو جو ۵۰ سال کی عمر کو پہنچ چکا ہو، مندرجہ ذیل شرائط کے تابع موجودہ مکان کی مرمت کے لیے ناقابل واپسی پیشگی منظور کی جاسکتی ہے۔

(۱) موجودہ مکان اور اراضی جس پر وہ تعمیر کیا گیا ہے، خود چندہ دہندہ کی ملکیت ہے یا اس کی بیوی بچوں کی۔

(۲) پیشگی کی رقم چندہ دہندہ کی ۶ ماہ کی تنخواہ یا عمومی کفالت فنڈ میں جمع رقم کے ۳۰ فیصد جو بھی کم ہو، سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے۔

(۳) اس طور سے دی گئی پیشگی رقم آخری ادائیگی کے واجب ہونے پر آخری ادائیگی کا حصہ منظور ہوگی۔

(۴) پیشگی رقم چندہ دہندہ کی طرف سے مقررہ فارم پر ایک معاہدہ کی تکمیل کے بعد ہی نکلوائی جائے گی۔

(۵) جبکہ چندہ دہندہ ملازمت میں ہو اگر اراضی یا مکان اس کے مالک کی طرف سے کسی دوسرے شخص کو فروخت کر دیا جائے یا بصورت دیگر منتقل کر دیا جائے تو پیشگی کی کل رقم اس پر واجب الادا سود سمیت یک مشت فنڈ میں جمع کروانی پڑے گی۔

(الف) چندہ دہندہ ۳۵ سال کی عمر کو پہنچنے پر عمومی کفالت فنڈ میں سے اپنی یا اپنی بیوی اور بچوں یا ان میں سے کسی ایک کی ملکیتی اراضی پر مکان تعمیر کرنے کے لیے مندرجہ ذیل شرائط کے تابع پیشگی نکلوا سکتا ہے۔

(۱) پیشگی پر پہلے پیرا گراف میں دی گئی شرائط اور ذیل میں درج مستثنیات کا اطلاق ہوگا۔

(۲) پیشگی کی رقم ۳۶ ماہ کی تنخواہ یا جمع شدہ رقم کا ۸۰ فیصد جو بھی کم ہو، ہوگی۔

(۳) پیشگی کی کوئی باز ادائیگی نہیں کی جائے گی اور یہ آخری ادائیگی کا حصہ منظور ہوگی جبکہ آخری ادائیگی کی جائے گی۔

(۴) مقررہ فارم پر ایک معاہدے پر دستخط کیے جائیں گے۔

(v) اراضی اور مکان کو صدر کے نام رہن رکھنے کی پابندی نہیں ہوگی
 (vi) اگر چندہ دہندہ کے ملازمت میں ہوتے ہوئے مکان فروخت کیا جائے تو
 پیشگی کی کل رقم اس پر واجب الادا سود سمیت یک مشت فنڈ میں ادا کرنی پڑے
 گی۔ ایسے چندہ دہندگان جنہوں نے پہلے پیرا گراف کے تحت عمومی کفالت فنڈ
 میں سے پیشگی نکلوائی تھی، وہ پہلے پیرا گراف کی شرائط کے مطابق ۵۰ سال کی عمر
 کو پہنچنے پر ایسے ناقابل واپسی پیشگی میں تبدیل کرا سکتے ہیں۔ ۵۰ سال کی عمر کو
 پہنچنے پر ایک چندہ دہندہ کو عمومی کفالت فنڈ میں اس کے حساب میں جمع رقم کے
 ۸۰ فیصد یا ۳۶ ماہ کی تنخواہ کے مساوی، جو بھی زیادہ ہو، حکومت سے زرعی اراضی
 خریدنے کے لیے پیرائے ماسبق میں دی گئی قیود و شرائط پر پیشگی کی منظوری دی
 جا سکتی ہے۔

مندرجہ صورتوں میں ۵۰ سال کی عمر کو پہنچنے والے چندہ دہندہ کو اس کی بارہ ماہ
 کی تنخواہ یا عمومی کفالت فنڈ میں اس حساب میں جمع رقم کے ۸۰ فیصد کے مساوی
 ناقابل واپسی پیشگی کی منظوری دی جا سکتی ہے۔

(i) خود چندہ دہندہ یا اس کے کنبے کے حقیقی زیر کفالت کے کسی رکن کی طویل
 عیالت سے متعلق اخراجات ادا کرنے کے لیے،

(ii) صحت کے وجوہ کی بنا پر یا فریضہ حج ادا کرنے کے لیے چندہ دہندہ کے سمندر
 پار سفر کے مصارف ادا کرنے کے لیے،

(iii) چندہ دہندہ کے کنبے کے کسی اس کے حقیقی زیر کفالت رکن کی تعلیم کے
 وجوہ کی بنا پر سمندر پار سفر کے اخراجات مصارف ادا کرنے کے لیے اور ایسا
 یکمشت خرچ مثلاً "اپنے کسی رکن کی فیس داخلہ یا پیشگی تدریسی فیس"

(iv) ججیرو عقیقین یا مذہبی رسوم کے ضمن میں یا اس کے کنبے کے کسی رکن کی
 شادی یا اس کے حقیقی زیر کفالت کسی خاتون رشتہ دار کی شادی سے متعلقہ چندہ
 دہندہ کی حیثیت کے مطابق لازمی اخراجات کی ادائیگی کے لیے

(ب) قواعد عمومی کفالتی فنڈ (سول ملازمین) کے قواعد ۵۵-د اور ۵۵-ز میں درج

شرائط کے تابع ۳۶ جولائی ۱۹۷۷ء سے عمومی کفالت فنڈ سے ناقابل واپسی قرضہ
 تعمیر مکان ایسے چندہ دہندگان کے لیے بھی منظور کیا جا سکتا ہے جو ۳۵ سال کی عمر
 کو پہنچ گئے ہوں اور جو اپنے عمومی کفالت فنڈ کے کھاتوں پر سود نہ لیتے ہوں۔ یہ
 رعایت ایسے چندہ دہندگان کے لیے بھی قابل منظوری ہے جن کے ذمے اپنے
 مکانات کی تعمیر سے متعلق مالیاتی اداروں سے پہلے سے حاصل کردہ قرضوں کی
 ادائیگی باقی ہو۔

(الف) ۵۵ سال کی عمر کو پہنچنے پر چندہ دہندہ کو حاکم مجاز کی صوابدید پر فنڈ میں اس
 کے حساب میں جمع رقم کے ۸۰ فی صد تک ایک خصوصی ناقابل واپسی پیشگی
 نکلوانے کی اجازت دی جا سکتی ہے۔

(ب) اس قاعدہ (۵۵-ہ) کے تحت کسی شخص کو مزید ناقابل واپسی پیشگیاں منظور
 کرنے میں کوئی امر مانع نہیں ہے، بشرطیکہ ہر موقع پر پیشگی کی رقم اس کے حساب
 میں جمع رقم کے ۸۰ فی صد سے متجاوز نہ ہو۔ دوسری یا مابعد پیشگی کی منظوری اس
 وقت تک نہیں دی جائے گی، جب تک کہ سابقہ پیشگی نکلوائے جانے کے وقت
 سے کم از کم ایک سال کی مدت نہ گزر جائے۔

ایک چندہ دہندہ جس نے پہلے سے ایک ناقابل واپسی پیشگی نکلوائی ہو، کے لیے
 دوسری پیشگی منظور کیے جانے میں کوئی امر مانع نہیں ہے۔

ایک چندہ دہندہ کے ۳۵ سال کی عمر کو پہنچ جانے کے بعد اسے فنڈ میں اس کے
 حساب میں جمع شدہ رقم کے ۸۰ فی صد یا چندہ دہندہ کی ۳۶ مہینوں کی تنخواہ کے مساوی
 جو بھی کم ہو، اس کی رہائش کے لیے مکان خریدنے کی خاطر مندرجہ ذیل شرائط کے
 تابع، پیشگی منظور کی جا سکتی ہے:

(i) پیشگی کے لیے کوئی بازبانی نہیں کی جائے گی اور یہ آخری ادائیگی کا حصہ
 تصور ہوگی!

(ii) مقررہ فارم پر ایک معاہدے کی تکمیل کی جائے گی۔

(iii) مکان کو رہن رکھنے کی پابندی نہیں ہے۔

(iv) اگر مکان پیشگی نکلوانے کے تین ماہ کے اندر نہ خریدا جائے یا فروخت کر دیا جائے، تو پیشگی رقم اس پر واجب الادا سود سمیت فنڈ میں یکمشت جمع کرانی پڑے گی یا

(v) پیشگی ایک قسط میں نکلوائی جاسکتی ہے لیکن مکان کی خرید کے لیے پیشگی کی تاریخ نے تین ماہ کے اندر افسر محاسبہ کو تسلی بخش ثبوت پیش کرنا پڑے گا اور ادا کردہ رقم کی قانونی رسید سربراہ محکمہ کے پاس رکھوائی جائے گی۔

ایسا چندہ دہندہ جو ۵۰ سال کی عمر کو پہنچ جائے کسی مالیاتی ادارے سے لیے گئے قرضے کی واپسی کے لیے ناقابل واپسی بنیاد پر مندرجہ ذیل شرائط کے تابع پیشگی نکلوا سکتا ہے:

(الف) پیشگی فنڈ میں اس کا حساب میں جمع رقم کے ۸۰ فی صد کے متجاوز نہیں ہونی چاہیے!

(ب) منظور کنندہ حاکم مجاز کو حاصل کردہ قرضے اور فی الوقت واجب الادا بقایا کے بارے میں اپنا اطمینان کر لینا چاہیے۔ پیشگی کی رقم واجب الادا بقایا سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے اور

(ج) چندہ دہندہ کو پیشگی نکلوانے سے ۳ ہفتے کے اندر افسر محاسبہ کو اس امر کا تسلی بخش ثبوت مہیا کرنا چاہیے کہ پیشگی جس مقصد کے لیے حاصل کی گئی تھی اس کے لیے استعمال کی گئی ہے، بصورت کو تاہی اس پر واجب الادا تمام رقم سود سمیت واپس کی جائے گی۔

اوپر کے پیرا جات میں ۳۶/۱۳ ماہ کی تمخواہ کی حد کا اطلاق صرف اس صورت میں ہو گا جب کہ جمع شدہ رقم حد مذکور سے زیادہ ہو، بصورت دیگر پیشگی بقایا کے ۸۰ فی صد تک محدود ہو گی۔ ایک چندہ دہندہ جو ۵۰ سال کی عمر کو پہنچ جائے، اپنے عمومی کفالت فنڈ میں سے ناقابل واپسی بنیاد پر بغیر کوئی وجہ بیان کیے فنڈ میں اپنے حساب میں جمع شدہ رقم کا ۶۰ فی صد تک پیشگی نکلوا سکتا ہے۔

۸۔ بیمہ پالیسیوں کے لیے ادائیگیاں

چندہ دہندگان اپنی زندگیوں کا بیمہ کرا سکتے ہیں اور قسط بیمہ اپنے عمومی کفالت فنڈ میں سے ادا کر سکتے ہیں۔ اس فرض کے لیے بیمہ کمپنی کا مراسلہ منظوری متعلقہ افسر حسابات کو ارسال کر دینا چاہیے جو اس نقطہ نظر سے اس کی چھان بین کرے گا کہ آیا بیمہ کمپنی منظور شدہ ہے اور کیا چندہ دہندہ کے حساب میں اتنا بقایا ہے کہ وہ قسط بیمہ کی رقم کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ اگر وہ مطمئن ہو تو وہ چندہ دہندہ کو عمومی کفالت فنڈ میں سے صراحت کردہ رقم نکلوانے اور قسط بیمہ ادا کرنے کے لیے ایک اختیار نامہ (اتھارٹی) جاری کرے گا، جو نئی بیمہ پالیسی وصول ہو جائے اس کی تفویض صدر کے نام کر دی جائے گی، تفویض بیمہ کمپنی کے پاس رجسٹر کرائی جائے گی اور پالیسی افسر حسابات کو بھیج دی جائے گی، جہاں اس کا اندراج ہو گا اور یہ زیر بیمہ سرکاری ملازم کو بحفاظت تحویل کی فرض سے واپس کر دی جائے گی۔ یہ حسب ضرورت افسر حسابات، بیمہ کمپنی کو واپس کی جائے گی۔ جب اور جس وقت وہ قابل ادا ہوں اور بیمہ کمپنی ان کا مطالبہ کرے، مزید اقساط بیمہ عمومی کفالت فنڈ میں سے بدستور ادا کی جاتی رہیں گی۔

بیمہ پالیسی کے واجب الادا ہونے پر حکومت پالیسی کی رقم نکلوائے گی اور وہ عمومی کفالت فنڈ میں چندہ دہندہ کے کھاتے میں جمع کرا دی جائے گی، تاہم اگر چندہ دہندہ پالیسی کے واجب الادا ہونے سے پہلے رخصت قبل از ریٹائرمنٹ پر چلا جائے یا ریٹائر ہو جائے تو اس کی باز تفویض کی جائے گی اور یہ واپس کر دی جائے گی۔

۹۔ جمع رقوم کی قطعی بازخواست

جب کوئی چندہ دہندہ رخصت قبل ریٹائرمنٹ پر چلا جاتا ہے یا قطعی طور پر ملازمت ترک کر دیتا ہے تو فنڈ میں اس کے حساب میں جمع رقم اسے قابل ادا ہو جاتی ہے۔ اس صورت میں کہ کوئی چندہ دہندہ رخصت قبل ریٹائرمنٹ پر نہیں جاتا تو وہ ریٹائرمنٹ کی عمر کو پہنچنے پر ریٹائرمنٹ کی تاریخ سے پہلے بارہ ماہ کی مدت کے دوران

عمومی کفالت فنڈ کی آخری ادائیگی نکلوا سکتا ہے۔ اگر رقم مذکور کے قابل ادا ہونے سے پہلے یا رقم قابل ادا ہو جائے لیکن ادائیگی ہونے سے پہلے چندہ دہندہ وفات پا جائے تو ادائیگی بطریق ذیل کی جائے گی:

(۱) جب چندہ دہندہ نے کتبہ چھوڑا ہو تو ادائیگی نامزد یا نامزدگان کو چندہ دہندہ کی طرف سے ان کے لیے مقرر کردہ حصوں کے مطابق کی جائے گی۔ اگر کتبے کے کسی رکن کے حق میں کوئی نامزدگی نہ ہو تو رقم کتبے کے ارکان کو مساوی حصوں میں مندرجہ استثناء کے ساتھ قابل ادا ہوگی:

(الف) وہ بیٹے جو قانونی طور پر سن بلوغ کو پہنچ چکے ہوں!

(ب) متوفی بیٹے کے وہ بیٹے جو قانونی طور پر بلوغ کو پہنچ چکے ہوں!

(ج) شادی شدہ بیٹیاں جن کے شوہر زندہ ہوں!

(د) متوفی بیٹے کی شادی شدہ بیٹیاں جن کے شوہر زندہ ہوں۔

کسی متوفی بیٹے کی بیوہ بیوگان اور بچے صرف اس حصے کے مستحق ہوں گے جو وہ بیٹا چندہ دہندہ کے بعد زندہ رہنے اور مذکورہ بالا شرائط سے مستثنیٰ ہونے کی صورت میں حاصل کرتا۔

(۲) جب چندہ دہندہ نے اپنے پیچھے کوئی کتبہ نہ چھوڑا ہو تو ادائیگی نامزد یا نامزدگان (جیسی صورت ہو) کو کی جائے گی۔ اگر کوئی نامزد نہ ہو تو ادائیگی ایسے دعویداروں کو کی جائے گی جو قانونی سند پیش کر سکتے ہوں لیکن اگر قابل ادا بتایا۔ ۵۰۰۰ روپے یا اس سے کم ہو تو بلا قانونی سند بموجب شرائط قاعدہ۔ ۲۳۳ (۱) (۲) قواعد وفاقی خزانہ، متوفی کے ورثا کو ادائیگی کر دی جائے گی۔

اگر مندرجہ بالا دعویداروں میں کوئی دعویدار تامل ہو تو ادائیگی ایسے شخص کو کر دی جائے گی جو جائز تصدیق نامہ ولایت پیش کر سکتا ہو۔

۱۰۔ جمع شدہ رقوم کا تحفظ

حکومت کسی ایسے اشغال یا کفالت کی جس کی تکمیل ہو چکی ہو یا جسے عائد کرنے

کی کوشش کی گئی ہو، ذمہ دار نہیں ہے اور نہ اسے تسلیم کرتی ہے جو کسی ایسے چندہ دہندہ کی جو ریٹائرمنٹ سے پہلے وضاحت پا جائے، رقوم کے تصفیے پر اثر انداز ہوتی ہو۔ چندہ دہندہ کی جمع شدہ رقوم کسی عدالت فوجداری کی طرف سے اخراج یا سزائیابی پر واجب ضبطی نہیں ہیں، ماسوائے کسی ایسے جرم کے جس کے لیے از روئے قانون جائیداد کی ضبطی کی سزا تجویز کی گئی ہو۔ جمع شدہ رقوم کو عدالت قانون کی طرف سے کسی ترقی سے بھی تحفظ حاصل ہے۔

ایسی رقوم جن کے بارے میں پتا ہے کہ وہ سرکاری ملازم کو زائد ادا ہو چکی ہیں، عمومی کفالت فنڈ کے کھاتے میں سے اس وقت تک بازیاب نہیں کی جاسکتیں جب تک کہ وہ اس ضمن میں تحریری طور پر اپنی رضامندی کا اظہار نہ کر دے۔ اسی طرح متوفی افسر کی طرف سے تجواہ کی پیشگی کی بنا پر یا سرکاری رقوم کے ضمن کی بنا پر حکومت کو واجب الادا رقوم جن کا پتا اس کی وفات کے بعد چلا ہو، قانونی طور پر اس کی جمع شدہ رقوم میں سے بازیاب نہیں کی جاسکتیں، چونکہ عمومی کفالت فنڈ میں جمع شدہ رقوم تمام قرض خواہوں سے محفوظ ہیں، حکومت کو چاہیے کہ وہ فنڈ کی تحویل دار ہونے کی اپنی حیثیت کو دوسرے قرض خواہوں سے خود کو بہتر پوزیشن میں رکھنے کے لیے استعمال نہ کرے۔

۱۱۔ درجہ چہارم کے ملازمین پر قواعد کفالتی فنڈ کا اطلاق

سابقہ درجہ چہارم کے ملازمین پر قواعد کفالتی فنڈ (درجہ۔ IV ملازمین) مرکزی حکومت کا اطلاق ہوتا ہے، ان قواعد کی شرائط کی رو سے درجہ چہارم کے ایک سرکاری ملازم ایک روپیہ فی ماہ کے حساب سے چندہ دینے کا پابند ہے، لیکن اگر وہ بالاتر شرح پر چندہ ادا کرنے کا خواہش مند ہو تو اسے اس کی اجازت دی جاسکتی ہے۔ اس ضمن میں اضافے کی اطلاع سال ماسبق کی ۱۵ جون سے قبل دے دینی چاہیے اور چندے کی اس طور سے مقرر شدہ رقم سال بھر بغیر کسی تبدیلی ہی رہنی چاہیے۔ اس طرح سے منہا کردہ رقم تجواہ کے بل کے ایک الگ خانے میں دکھائی جائے گی اور ان

کی درجہ بندی بطور رسیدات حاصل زیر مد "۱۰۰۰- ناقابل ٹیکس وصولیات۔ ۱۳۰۰ وصولیات از سول انتظامیہ و دیگر وظائف ۱۳۰۰ وصولیات از عمومی انتظامیہ۔ ۱۳۱۳ وصولیات بہ امداد عمر ریٹائرمنٹ" کی جائے گی۔

دفتر کا سربراہ تنخواہ کے بل پر اس امر کا ایک تصدیق نامہ تحریر کرے گا کہ تمام معاملات میں کفالت فنڈ کی بنا پر منہائی ہو گئی ہے اور جہاں کسی معاملے میں منہائی نہ ہوئی ہو تو وہ اس کی وجہ تحریر کرے گا۔

منہا کردہ رقوم کا ریکارڈ ایک علیحدہ فارم میں رکھا جائے گا اور وہ اس کے ملازمت نامے (سروس بک) میں چسپاں کیا جائے گا، جس میں منہا کردہ رقوم اور تاریخ درج ہوگی۔ اس میں کیے گئے ہر اندراج کی توثیق دفتر کا سربراہ اپنے دستخطوں کے ساتھ کرے گا اور اس پر درجہ چہارم کے متعلقہ ملازم کے دستخط بھی ہوں گے۔ اگر کسی ماہ کے لیے کوئی منہائی نہ کی جائے تو یہ امر اور اس کی وجہ کیفیت نامہ مذکور میں ریکارڈ کی جائے گی اور اندراج کی حسب معمول توثیق کی جائے گی۔

دفتر کا ہر سربراہ کفالت فنڈ کی بنا پر کی گئی منہائیوں پر مشتمل ایک رجسٹر رکھے گا، اس رجسٹر میں درجہ چہارم کے ملازمین کی تنخواہ کے بلوں سے ہر ماہ اندراج کیا جائے گا اور اس رجسٹر میں کیے گئے اندراجات کو ماہانہ یا طویل تر مناسب وقفوں پر متعدد ملازمت ناموں (سروس بلوں) میں کیے گئے اندراجات کے ساتھ تطبیق دی جائے گی۔

درجہ چہارم کے اس ملازم کے ملازمت نامے (سروس بک) میں جو ان قواعد کے نفاذ سے قبل عمومی کفالت فنڈ میں چندہ دے رہا تھا، عمومی کفالت فنڈ کے کھاتے میں اس کے حساب میں جمع شدہ رقم کو بطور اقتتائی بقایا درج کیا جائے گا، جسے بذریعہ انتقالی جمع بہ مد "۱۰۰۰۰ ناقابل ٹیکس وصولیات۔ ۱۳۰۰ وصولیات از سول انتظامیہ و دیگر وظائف۔ ۱۳۱۰ وصولیات از عمومی انتظامیہ۔ ۱۳۱۳ وصولیات بہ امداد عمر ریٹائرمنٹ" بند کر دیا جائے گا، جہاں کوئی ایسی رقم جس کا چندہ درجہ چہارم کے ملازم

نے دیا ہو، مگر اس کے عمومی کفالت فنڈ کے کھاتے میں جمع نہ ہوئی ہو، بعد ازاں دریافت ہو جائے تو اسے اس کے عمومی کفالت فنڈ کے کھاتے میں ضروری انتقالی اندراج کرنے کے بعد ملازمت نامے میں درج اختتامی بقایا میں جمع کر دیا جائے گا۔

جب کوئی سرکاری ملازم قواعد ہذا کے تحت کفالت فنڈ میں چندہ دینے کا مستحق نہ رہے تو اسے واجب الادا وہ رقم ہوگی جو اس کے کھاتے میں موجود ہو جمع (اس شرح سود پر اور اس طریقے سے جو عمومی کفالت فنڈ کے چندوں پر قابل اطلاق تھا) محسوب کردہ سود۔

قواعد ہذا کے تحت مرکزی حکومت کی طرف سے قابل ادا سود کی رقم کا حساب ناظم اعلیٰ حسابات (اکاؤنٹنٹ جنرل) لگائے گا، جو ضروری محاسبی پڑتال کے بعد کفالت فنڈ کی منہائیوں اور ان پر واجب الادا سود سے متعلق الگ الگ قابل ادا رقوم کے بارے میں اطلاع دے گا۔

ان قواعد کی اغراض کے لیے اس دفتر کا سربراہ جہاں ملازم درجہ چہارم سب کے آخر میں ڈیوٹی پر تھا، ناظم اعلیٰ حسابات کو ملازم درجہ چہارم کا ملازمت نامہ (سروس بک) یا کفالت فنڈ کی منہائیوں کے حساب کی ایک مصدقہ نقل مہیا کرے گا اور سربراہ دفتر کی طرف سے ادائیگی کی منظوری ناظم اعلیٰ حسابات کی رپورٹ کی وصولی پر جاری کی جائے گی۔

اگر کوئی ملازم درجہ چہارم عمومی کفالت فنڈ میں چندہ دینے کا اہل بن جاتا ہے تو واجب الادا رقم عمومی کفالت فنڈ کے کھاتے میں اس کے حساب میں منتقل کر دی جائے گی۔ تمام دیگر معاملوں میں ملازم درجہ چہارم کو ادائیگی نقدی کی صورت میں کی جائے گی اور ہر صورت میں ملازمت نامے (سروس بک) میں سربراہ دفتر کے دستخطوں کے ساتھ ایک اندراج کیا جائے گا جس میں ادا کردہ رقم ادائیگی کی سند اور تاریخ درج ہوگی۔

ہر ملازم درجہ چہارم قواعد عمومی کفالت فنڈ (مرکزی ملازمتیں) کے قاعدہ ۸ کے بموجب بلحاظ ترجیح تین اشخاص کو نامزد کرے گا اور ایسی نامزدگی پر سربراہ دفتر تصدیق

دستخط کرے گا اور وہ اس کے ملازمت نامے میں چسپاں کر دی جائے گی۔ اگر کوئی ملازم درجہ چہارم قاعدہ ۳ کے تحت ادائیگی وصول کرنے سے پہلے وفات پا جائے تو قاعدہ مذکور کے تحت اسے قابل ادا رقم بلحاظ ترجیح پہلے جی القائم نامزد کو ادا کر دی جائے گی۔

قواعد ہذا کے تحت کی جانے والی منہائیوں کی بنا پر ایک ملازم درجہ چہارم کو کی گئی ادائیگیوں اور ان پر واجب الادا سود کو علی الترتیب مندرجہ ذیل مدت کے حساب میں ڈالا جائے گا:

۶۰۰ انتقالی ادائیگیاں۔ ۶۲۰۔ عمر ریٹائرمنٹ کے الائنس اور پنشن۔ ۶۲۹ دیگر قواعد کفالت فنڈ (ملازمین درجہ چہارم) مرکزی حکومت کے تحت ادائیگیاں اور ۶۰۰ انتقالی ادائیگیاں۔ ۶۱۰۔ سود۔ ۶۲۱ دیگر قواعد کفالت فنڈ (ملازمین درجہ چہارم) مرکزی حکومت کے تحت قابل ادا سود۔

عارضی پیسگیوں کے بارے میں قواعد (مرکزی ملازمین) عمومی کفالت فنڈ میں موجود شرائط قواعد ہذا کے تحت بھی قابل اطلاق ہوں گی۔ منہائیوں اور پیسگیوں کے حسابات بدستور افسران زیر ادا ادائیگی رکھیں گے۔ پیسگیوں کی بنا پر نکوائی گئی رقوم مد ۳۰۰۰ پیسگیاں بلا سود۔ ۳۱۰۰ پیسگیاں قابل واپسی۔ ۳۱۰۹ سرکاری ملازمین کو کفالت فنڈ کی پیسگیاں کے حساب میں ڈالی جائیں گی۔ بازیابیوں کا تسویہ بھی اس مد حساب کے بالمقابل کیا جانا چاہیے۔

قواعد رخصت

۱۔ عنوان (بنیادی قواعد ۶۱ تا ۶۸)

ایک سرکاری ملازم صرف ڈیوٹی کی مدت پر کسب رخصت کرتا ہے۔ رخصت کا بطور استحقاق مطالبہ نہیں کیا جاسکتا۔ سرکاری ملازمت کے تقاضوں کے پیش نظر ایک حاکم مجاز کو کلی طور پر یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی بھی قسم کی رخصت نامنظور کر دے یا اسے منسوخ کر دے۔ تاہم یہ صوابدید کسی حاکم مجاز کو درخواست کردہ رخصت کی نوعیت کو تبدیل کرنے کا حق نہیں دیتی۔ رخصت منظور کرنے سے انکار کیا جاسکتا ہے، لیکن کسی بھی حالت میں درخواست کردہ رخصت کی نوعیت تبدیل نہیں کی جاسکتی۔

۱۔ بیرون ملک ملازمت کی مدت کے دوران ایک سرکاری ملازم حکومت کے تحت کوئی رخصت کسب نہیں کرے گا۔ بیرون ملک ملازمت کی مدت کے دوران اس کی شرائط رخصت بیرونی آجر کے قواعد رخصت کے تحت منطبق ہوں گی۔

۲۔ اگر ایک سرکاری ملازم جو متوفی پنشن یا پنشن معذوری یا انعامیہ لے کر سرکاری ملازمت چھوڑتا ہے، باز مامور کیا جاتا ہے اور باز موری پر اس کا انعامیہ واپس کر دیا جاتا ہے یا اس کی پنشن کلی طور پر زیر تعویق رکھ لی جاتی ہے،

- اور اس کی گزشتہ ملازمت آخری فارغ خدمتی پر قابل پیش بن جاتی ہے، تو وہ بازاموری کی منظوری دینے والے حاکم مجاز کی صوابدید اور ایسی حد تک جس کا فیصلہ حاکم مذکور کرے، اپنی سابقہ ملازمت کو رخصت کے لیے شمار کرا سکتا ہے۔
- ۳۔ ایک سرکاری ملازم جسے موقوف کر دیا جاتا ہے یا سرکاری ملازمت سے برطرف کر دیا جاتا ہے لیکن اپیل یا نظر ثانی پر بحال کر دیا جاتا ہے، اپنی سابقہ ملازمت کو رخصت کے لیے شمار کرانے کا استحقاق رکھتا ہے۔
- ۴۔ سرکاری ملازمت کے استعفیٰ کو خواہ اس کے فوراً بعد بازاموری ہو جائے، بنیادی قواعد کے تحت رخصت کی غرض کے لیے سابقہ ملازمت کی ضبطی کا موجب بننا چاہیے اور اس طور سے ضمنی قاعدہ ۲۸۶ کی غرض کے لیے "ڈیوٹی میں قفل" کے مترادف ہونا چاہیے۔

۲۔ رخصت کے دوران ملازمت (بنیادی قاعدہ-۶۹)

- ۱۔ ایک سرکاری ملازم کو رخصت کی مدت کے دوران کوئی ملازمت قبول کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تاہم حاکم مجاز اسے ایسا کرنے کی اجازت دے سکتا ہے۔
- ۲۔ اگر کوئی سرکاری ملازم رخصت قبل فارغ خدمتی کے دوران مرکزی یا کسی صوبائی حکومت کے تحت یا کسی خود مختار یا نیم خود مختار کارپوریشن یا مرکزی یا کسی صوبائی حکومت کے قائم کردہ یا اس کے زیر کنٹرول ادارے میں یا مجلس مقامی (لوکل باڈی) یا مقامی فنڈ (لوکل فنڈ) ملازمت حاصل کر لیتا ہے تو اس کی تنخواہ رخصت پیش کی رقم تک جس کا وہ فارغ خدمتی پر حقدار ہو گا، محدود ہونی چاہیے۔

۳۔ طبی تصدیق نامے پر رخصت سے واپسی (بنیادی قاعدہ-۷۱)

اگر کسی سرکاری ملازم کو طبی تصدیق نامہ پر رخصت دی جاتی ہے تو اسے اس وقت تک ڈیوٹی پر حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی جاسکتی جب تک کہ وہ

متعلقہ حاکم مجاز کے مقرر کردہ فارم پر تصدیق نامہ صحت پیش نہیں کر سکتا۔ ایک سرکاری ملازم جسے خرابی صحت کی بنا پر رخصت دی جاتی ہے اسے بھی طبی تصدیق نامہ صحت پیش کرنے کی ہدایت کی جاسکتی ہے، قطع نظر اس امر کے کہ اسے رخصت طبی تصدیق نامے پر دی گئی تھی یا اس کے بغیر۔

۴۔ رخصت کا سوخت ہونا (بنیادی قاعدہ-۸۶)

سرکاری ملازم کے حساب رخصت میں جمع جبری ریٹائرمنٹ کی تاریخ پر سوخت ہو جائے گی۔

۵۔ تعطیلات کا ساتھ ہونا (ضمنی قواعد ۲۰۹ تا ۲۸۱)

- ۱۔ رخصت کا آغاز بالعموم چارج دینے کے روز کے اگلے یوم سے ہو گا اور اختتام دوبارہ چارج سنبھالنے کے روز سے ایک یوم قبل پر۔
- ۲۔ جہاں سرکاری ملازم کی رخصت کے آغاز کے روز سے عین قبل کا یا اختتام رخصت کے روز سے عین بعد کا روز تعطیل کا یا تعطیلات کے سلسلے کا روز ہو تو سرکاری ملازم یوم مذکور کے اختتام سے قبل اپنا مقام ماموری چھوڑ سکتا ہے یا ایسی تعطیل یا تعطیلات کے ایک یوم بعد وہاں واپس آ سکتا ہے۔

۶۔ حساب رخصت (بنیادی قاعدہ-۷۶)

جریدی سرکاری ملازم کی رخصت کا حساب متعلقہ افسر مجاہد مرتب کرتا ہے۔ غیر جریدی سرکاری ملازم کے حساب رخصت کی ترتیب اس دفتر کے سربراہ کی طرف سے ہوتی ہے، جہاں وہ ملازم ہے۔ ان سرکاری ملازمین کی صورت میں جنہوں نے نظر ثانی شدہ قواعد رخصت کا انتخاب کیا ہے، حساب رخصت فارم اے ٹی سی-۸ میں رکھا جاتا ہے۔

معذور ہو جائے جو اس سول اسپی سے 'مطلق ہو' جس پر وہ فائز ہے، معمول کے خطرے کے علاوہ مرض یا معصرت کے امکان میں اضافہ کرنے کا موجب ہو۔ تاہم معذوری پر بنائے مرض کے بارے میں میڈیکل بورڈ کی تصدیق ہونی چاہیے کہ وہ براہ راست کسی مخصوص ڈیوٹی کی انجام دہی کی بنا پر واقع ہوئی ہے اور صدر کو اس امر کا اطمینان ہونا چاہیے کہ معذوری بلحاظ نوعیت استثنائی یا اس کی وقوع پذیری کے حالات ایسے تھے جو ایسے غیر معمولی برتاؤ یعنی رخصت معذوری کی منظوری کا جواز فراہم کرتے ہوں۔

۸۔ رخصت تعلیمی (بنیادی قاعدہ ۸۳ اور جلد دوم کا ضمیمہ ۹)

- ۱۔ سرکاری ملازمین کو رخصت تعلیمی سائنسی، تکنیکی تعلیم حاصل کرنے یا اس نوعیت کی تحقیق کرنے یا تعلیمات کے خصوصی کورسوں میں شریک ہونے کی غرض سے دی جاتی ہے۔ ایسی رخصت حساب رخصت سے منہا نہیں کی جاتی۔
- ۲۔ رخصت تعلیمی نصف تنخواہ پر دی جاتی ہے اور اس کی زیادہ سے زیادہ مدت ۲ سال سے تجاوز نہیں ہونی چاہیے۔ تعلیمی رخصت کے ساتھ غیر معمولی رخصت بھی ملائی جاسکتی ہے اور اس صورت میں زیادہ سے زیادہ مدت کی شرط کا اطلاق نہیں ہوگا۔
- ۳۔ تعلیمی رخصت کے دوران کسی منظور شدہ ادارے میں مقررہ نصاب تعلیم کی تکمیل میں صرف ہونے والی مدت کے لیے مقررہ شرحوں پر تعلیمی الاؤنس دیا جاتا ہے۔

۹۔ اتفاقی رخصت

- ۱۔ اتفاقی رخصت ڈیوٹی سے غیر حاضری تصور نہیں ہوتی اور سرکاری ملازم کی تنخواہ معطل نہیں ہوتی۔ اتفاقی رخصت کی منظوری ہمیشہ اس شرط کے تابع ہوتی ہے کہ یہ تنخواہ اور الاؤنس کی تاریخ شمار کرنے، دفتر سے چارج، رخصت کے

۷۔ رخصت معذوری (بنیادی قاعدہ ۸۳)

- ۱۔ ایک مقامی حکومت اس سرکاری ملازم کو خصوصی رخصت معذوری منظور کر سکتی ہے جو عہدہ خود کو پہنچائی گئی معصرت کی بنا پر یا اپنے فرائض منصبی کی کماحقہ انجام دہی کے نتیجے میں یا اپنی سرکاری حیثیت کے نتیجے میں معذور ہو جائے۔ یہ رخصت صرف اس صورت میں منظور کی جاتی ہے جبکہ معذوری اس واقعہ کے تین ماہ کے اندر ظاہر ہو جائے جو اس معذوری کا موجب بنا۔ تاہم اگر صدر کو اس کی علت (وجہ) کے بارے میں اطمینان ہو تو ان معاملوں میں بھی رخصت معذوری منظور کی جاسکتی ہے جہاں علت (وجہ) کے وقوع پذیر ہونے کے بعد تین ماہ سے زائد عرصے میں معذوری ظاہر ہو۔
- ۲۔ رخصت کی مدت اتنی ہوگی جس کے ضروری ہونے کی تصدیق میڈیکل بورڈ کرے۔ رخصت کی کوئی توسیع میڈیکل بورڈ کے تصدیق نامہ پر قابل منظوری ہے۔ رخصت کی مجموعی مدت ۲۳ مہینوں سے تجاوز نہیں ہونی چاہیے۔
- ۳۔ خصوصی رخصت معذوری کو رخصت کی کسی دوسری قسم کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے۔ یہ رخصت ایک سے زائد مرتبہ منظور کی جاسکتی ہے، اگر معذوری شدید ہو جائے یا کسی موخر تاریخ پر مماثل حالات میں عود کر آئے لیکن کسی ایک معذوری کے نتیجے میں ۲۳ مہینوں سے زیادہ رخصت منظور نہیں کی جائے گی۔ یہ رخصت پٹن کے لیے مدت ملازمت کا حساب لگاتے وقت بطور ڈیوٹی شمار ہوتی ہے اور حساب رخصت سے منہا نہیں کی جاتی۔ رخصت معذوری کے دوران تنخواہ رخصت پہلے ۱۸۰ یوم کے لیے سالم تنخواہ اور بقایا مدت کے لیے نصف تنخواہ کے مساوی ہوگی۔
- ۴۔ صدر ایک سرکاری ملازم کو خصوصی رخصت معذوری منظور کر سکتا ہے جو اتفاقاً پیش آنے والی معصرت یا اپنے فرائض منصبی کی کماحقہ انجام دہی کے نتیجے میں یا اپنی سرکاری حیثیت کے نتیجے میں لاحق ہونے والی معصرت یا کسی ایسے مخصوص فرض منصبی کی انجام دہی کی تکمیل میں لاحق ہونے والے مرض کی بنا پر

آغاز و اختتام اور ڈیوٹی پر واپسی سے متعلق قواعد گریزی کا موجب نہیں بنتی۔

۲۔ ایک تقویمی سال کے دوران قابل منظوری اتفاق رخصت کی زیادہ سے زیادہ مدت ۳۰ یوم ہے یا استفادہ کردہ اتفاق رخصت کی مدت ایک سال کے اختتام کے ساتھ سوخت ہو جاتی ہے۔ اتفاق رخصت کو کسی دوسری قسم کی رخصت یا مہلت حاضری کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا۔

۱۰۔ رخصت قرظینہ (ضمیمہ ۳ بنیادی قواعد اور ضمنی قواعد جلد دوم)

۱۔ رخصت قرظینہ کی نوعیت غیر معمولی اتفاق رخصت کی ہوتی ہے اور سرکاری ملازم کے گھرانے یا کنبے میں متعدی مرض کے نتیجے میں دفتر میں حاضر نہ ہونے کے حکم کے تحت ڈیوٹی سے غیر حاضری کی بنا پر منظور کی جاتی ہے۔ متعدی امراض یہ ہیں: ہیضہ، چیچک، طاعون، ٹائفس بخار، گرون، توڑ بخار یا کوئی اور مرض جسے حکومت نے متعدی قرار دیا ہو۔ رخصت قرظینہ متعلقہ سربراہ دفتر طبی افسر یا افسر صحت نامہ کے تصدیق نامے پر منظور کر سکتا ہے۔ عام طور پر رخصت قرظینہ کی مدت ۲۱ یوم سے تجاوز نہیں ہونی چاہیے لیکن استثنائی حالات میں اس میں ۳۰ یوم تک توسیع کی جا سکتی ہے۔ اس مدت سے زیادہ مطلوبہ رخصت کو سرکاری ملازم کو قابل منظوری معمول کی رخصت کے طور پر تصور کیا جانا چاہیے۔ رخصت قرظینہ محولہ بالا زیادہ سے زیادہ کی حد کے تابع دوسری رخصت کے ساتھ بھی منظور کی جا سکتی ہے۔ رخصت قرظینہ پر ہونے والی سرکاری ملازم کو ڈیوٹی سے غیر حاضر تصور نہیں کیا جاتا اور اس کی تنخواہ معطل نہیں ہوتی۔

۲۔ ایک سرکاری ملازم کو اس کے حساب رخصت سے باہر رخصت قرظینہ اس مدت کے لیے دی جا سکتی ہے جس کی کہ اس کا طبی افسر مجاز سفارش کرے اور ایسی رخصت کو اس اسامی کی سالم تنخواہ اور الاؤ سز کے ساتھ ڈیوٹی تصور کیا جاتا ہے جس پر وہ رخصت پر جاتے وقت مامور تھا۔

۱۱۔ حکام مجاز جنہیں رخصت منظور کرنے کا اختیار ہے
(ضمنی قواعد ۶۰۶ تا ۶۰۷)

غیر جریدی سرکاری ملازم کو وہ حاکم مجاز رخصت معذوری کے سوا کسی قسم کی رخصت منظور کر سکتا ہے، جو اس اسامی کو اگر وہ خالی ہوتی، شخص مذکور کے ذریعے پر کرنے کا مجاز ہے۔ ایک جریدی افسر کی صورت میں اس وقت تک کوئی رخصت منظور نہیں کی جا سکتی جب تک کہ اس کے استحقاق کے بارے میں متعلقہ افسر محاسبہ کی رپورٹ حاصل نہیں کر لی جاتی، لیکن رخصت قبل ریٹائرمنٹ کے سوا سالم تنخواہ پر ۳۰ یوم تک کی رخصت سرکاری ملازم کو منظور کی جا سکتی ہے، اگر متعلقہ سرکاری ملازم اس امر کی تصدیق کرے کہ درخواست کردہ رخصت اسے واجب ہے اور حاکم منظور کنندہ کو بھی اسے معلوم حقائق کی بنا پر یہ اطمینان ہو کہ رخصت قابل منظوری ہے۔

۱۲۔ طبی تصدیق نامے پر رخصت (ضمنی قواعد ۲۲۰ تا ۲۲۱)

۱۔ ان تمام معاملوں میں جہاں ایک سرکاری ملازم کے ڈیوٹی پر حاضر ہونے کے قابل ہونے کا کوئی معقول امکان نہ ہو، میڈیکل افسر کو رخصت کی منظوری کی سفارش نہیں کرنی چاہیے۔ ایسے تمام معاملوں میں طبی تصدیق نامے میں یہ رائے تحریر کر دینی چاہیے کہ سرکاری ملازم مستقل طور پر سرکاری ملازمت کے لیے قابل نہیں ہے۔ ہر طبی تصدیق نامے میں یہ بات مضمون ہوتی ہے کہ اس میں مذکور رخصت کے لیے کی گئی کوئی سفارش اس امر پر دلالت نہیں کرتی کہ ایسی رخصت طلب کی جائے جو قواعد کے تحت سرکاری ملازم کو قابل منظوری نہیں ہے۔

۲۔ اس سے قبل کہ کسی جریدی افسر کو رخصت کی توسیع کے لیے طبی تصدیق نامہ پر رخصت منظور کی جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجاز طبی معالج سے ضمنی قاعدہ ۲۲۲ میں مقرر فارم پر ایک تصدیق نامہ حاصل کرے، جو رخصت اسے منظور کی

جائے، وہ ضمنی قاعدہ ۲۲۳ یا ۲۲۶ (جیسی بھی صورت ہو) میں مقررہ فارم پر مجلس طبی (میڈیکل کمیٹی) کی طرف سے جاری کردہ تصدیق نامہ کی بنیاد پر ہوگی۔ ایسے تصدیق نامے کی منظوری بجائے خود سرکاری ملازم کو رخصت کا کوئی حق عطا نہیں کرتی۔ غیر جریدی سرکاری ملازم کی صورت میں طبی تصدیق نامے پر کوئی رجسٹری شدہ پیشہ ور طبیب دستخط کر سکتا ہے۔

۳۔ طبی تصدیق نامے پر درخواست کردہ رخصت نامنظور نہیں کی جا سکتی۔ تاہم رخصت کی منظوری دینے والا حاکم مجاز اپنی صوابدید پر سول سرجن یا طبی بورڈ، جیسی صورت ہو، سے درخواست دہندہ کا طبی معائنہ کرنے کی درخواست کر کے دوسری طبی رائے حاصل کر سکتا ہے۔ تصدیق نامے کا فارم ضمنی قاعدہ ۲۲۹ میں تجویز کیا گیا ہے۔

۴۔ کسی سرکاری ملازم کو جسے طبی تصدیق نامے پر رخصت دی جاتی ہے، اس وقت تک ڈیوٹی پر حاضر ہونے کی اجازت نہیں دی جائے گی جب تک کہ مساوی حیثیت کے کسی حاکم مجاز سے جس نے طبی تصدیق نامہ جاری کیا تھا، تصدیق نامہ صحت حاصل نہیں کر لیا جاتا اور متعلقہ محکمے کو پیش نہیں کر دیا جاتا۔

۱۳۔ رخصت کی منظوری (ضمنی قواعد ۲۳۲ تا ۲۳۴)

ایسی صورتوں میں جہاں رخصت کی تمام درخواستیں سرکاری مفاد کے پیش نظر بیک وقت منظور نہ کی جا سکتی ہوں، حاکم مجاز یہ فیصلہ کرتے وقت کہ کون سے درخواست گزار کو رخصت منظور کی جائے، مندرجہ ذیل امور کو ملحوظ رکھے گا:

(i) سرکاری ملازم جسے فی الوقت بہ سہولت فارغ کیا جا سکتا ہے۔

(ii) مختلف درخواست گزاروں کو واجب رخصت کی مقدار۔

(iii) رخصت سے آخری واپسی کے وقت سے ہر درخواست گزار کی طرف سے

انجام دادہ ملازمت کی مدت اور نوعیت۔

(iv) یہ امر کہ کیا کسی درخواست گزار کو آخری رخصت سے واپس طلب کیا گیا

تھا؟

(v) یہ امر کہ کیا ایسے کسی درخواست گزار کو مفاد عامہ کے پیش نظر قبل ازیں رخصت دینے سے انکار کیا گیا تھا؟

۱۴۔ نظر ثانی شدہ قواعد رخصت (۱۹۸۰)

ایک سول ملازم کو رخصت قابل منظوری ہے اور اسے حاکم مجاز کی طرف سے مندرجہ ذیل شرح اور پیمانہ پر منظور کی جاتی ہے:

(i) سالم تنخواہ پر رخصت: ایک سول ملازم صرف سالم تنخواہ پر کسب رخصت کرے گا۔ یہ انجام دادہ ڈیوٹی کی مدت کے ہر تقویمی مہینے پر چار یوم کی شرح سے شمار ہوگی اور حساب رخصت میں "سالم تنخواہ پر رخصت" کی مدت میں جمع ہوگی۔ ایک تقویمی مہینے میں ۱۵ یوم یا اس سے کم ڈیوٹی کی مدت کو نظر انداز کر دیا جائے گا اور پندرہ یوم سے زائد مدت کو اس غرض کے لیے سالم تقویمی مہینہ تصور کیا جائے گا۔ اگر کوئی سرکاری ملازم کسی ایک تقویمی مہینے کے دوران رخصت پر چلا جائے اور دوسرے تقویمی مہینے میں رخصت سے واپس آئے اور ہر مہینے میں مدت خدمت (ڈیوٹی) ۱۵ یوم سے زائد ہو تو ان دونوں نامکمل مہینوں کے لیے مکسومہ رخصت صرف ایک سالم تقویمی مہینے کے لیے قابل منظوری شمار ہوگی۔

(ii) (رخصت کا) جمع ہونا: ایسی رخصت کے جمع ہونے کی زیادہ سے زیادہ حد نہیں۔

۱۵۔ محکمہ جاتی تعطیلات

مذکورہ بالا (i) میں مندرجہ گنجائش کا اطلاق محکمہ تعطیلات پر نہیں ہوگا۔ اس کے معاملے میں ایک سول ملازم سالم تنخواہ پر رخصت کسب کر سکتا ہے (الف) جب وہ کسی تقویمی سال میں پوری تعطیلات سے استفادہ کرے۔۔۔ انجام دادہ خدمت (ڈیوٹی) کے ہر تقویمی مہینے پر ایک یوم کی شرح سے، (ب) جب اسے کسی سال میں

پوری تعطیلات سے استفادہ نہ کرنے دیا جائے۔۔۔ اس سال کے لیے کسی غیر تعطیلاتی محکمے کے سول ملازم کے مساوی اور (ج) جب وہ تعطیلات کے صرف ایک حصے سے استفادہ کرے۔۔۔ بمطابق مذکورہ بالا (الف) ایام رخصت جمع نہیں ایام کے اس تناسب کے مساوی ایام جو پوری تعطیلات اور ان ایام کے درمیان پایا جاتا ہے، جن سے وہ مستفید نہیں ہوا۔

۲۱۔ رخصت کی منظوری

۱۔ سالم تنخواہ پر رخصت: سالم تنخواہ پر زیادہ سے زیادہ بیک وقت رخصت بطریق ذیل منظور کی جائے گی:

(الف) طبی تصدیق نامے کے بغیر ۳۰ ایام

(ب) طبی تصدیق نامے پر ۱۸۰ ایام

(ج) کل مدت ملازمت میں حساب میں جمع رخصت سے

طبی تصدیق نامے پر ۳۶۵ ایام

اگر کوئی شخص سابقہ قواعد رخصت کے تحت اس رعایت سے پہلے ہی استفادہ کر چکا ہے، تو وہ مدت ۳۶۵ ایام استثنائی مدت میں سے منہا کر دی جائے گی۔

(۱) نصف تنخواہ پر رخصت: (الف) سول ملازم کی پسند پر اس کی "سالم تنخواہ پر

رخصت" کو "نصف تنخواہ پر رخصت" میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ حساب

رخصت میں سے منہا کرتے وقت اول الذکر کا ایک یوم موخر الذکر کے دو یوم کی

شرح سے محسوب ہو گا۔ سول ملازم ایسی تبدیلی کی استدعا واضح طور پر اپنی

درخواست رخصت نہیں کرے گا۔ (ب) "نصف تنخواہ پر رخصت" کی منظوری

بلا تحدید مدت دی جا سکتی ہے، بشرطیکہ حساب رخصت میں اس تبدیلی کی گنجائش

موجود ہو۔

(۲) رخصت قبل از ریٹائرمنٹ: کسی سول ملازم کے لیے زیادہ سے زیادہ ۳۶۵

یوم کی رخصت قبل از ریٹائرمنٹ منظور کی جا سکتی ہے۔ بصورت گنجائش سول ملازم اپنی صوابدید پر یہ رخصت یا تو کھینتا "سالم تنخواہ پر یا جزوا" "سالم اور جزوا" نصف تنخواہ پر یا کھینتہ "نصف تنخواہ پر لے سکتا ہے۔

۲۔ رخصت کا شمار: رخصت دنوں میں طلب، ظاہر اور منظور کی جائے گی۔

۳۔ رخصت کی پیش بردگی: جو سول ملازم یکم جولائی ۱۹۷۸ء کو ملازمت پر تھا،

اس کے حساب میں کل جمع شدہ رخصت پیش بردگی کی جائے گی اور سالم تنخواہ

رخصت کی صورت میں ظاہر کی جائے گی۔۔۔ بدیں صورت حساب رخصت یکم

جولائی ۱۹۷۸ء سے یا ایسے سول ملازم کے لیے جو مذکورہ تاریخ پر رخصت پر تھا،

رخصت سے واپسی کی تاریخ سے بطریق ذیل از سر نو مرتب کیا جائے گا:

(۱) رخصت یا سالم تنخواہ (الف) ماہ = ۳۰ یوم

(ب) ایوم = ۱ یوم

(۲) رخصت یا نصف تنخواہ (الف) ماہ = ۱۵ یوم

(ب) ۲ یوم = ۱ یوم

کسرس اگر کوئی ہوں نظر انداز کر دی جائیں گی۔

۴۔ تقریبی رخصت: یہ ایک تقریبی سال میں ۱۵ یوم کے لیے منظور کی جا

سکتی ہے، تاہم حساب رخصت سے دس دن منہا ہوں گے۔ یہ رخصت تعطیلاتی

محکمے کے کسی سول ملازم کے لیے قابل منظوری نہیں ہے۔

۵۔ غیر واجب رخصت: یہ مستقل سرکاری ملازمین کو سالم تنخواہ پر منظور کی

جا سکتی ہے اور آئندہ کسب کی جانے والی رخصت میں محسوب ہو گی۔ یہ کل

مدت ملازمت کے دوران زیادہ سے زیادہ ۳۶۵ یوم کے لیے منظور کی جا سکتی ہے،

شرط یہ ہے کہ ملازمت کے ابتدائی پانچ سال کے دوران ۹۰ یوم سے تجاوز نہیں

ہو گی۔ ایسی رخصت کو "نصف تنخواہ پر رخصت" میں تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یہ

رخصت صرف اس صورت میں دی جائے گی جب سول ملازم کے ملازمت پر

دوبارہ حاضر ہونے کا معقول امکان ہو۔ ایسی رخصت بہت کفایت سے اور حاکم

منظور کنندہ کے حسب اطمینان منظور کی جائے گی۔

۶۔ خصوصی رخصت: خاتون سرکاری ملازم کو اس کے شوہر کی وفات پر، اگر وہ درخواست کرے، ۱۳۰ یوم تک کی خصوصی رخصت، سالم تنخواہ دی جاسکتی ہے۔ یہ رخصت اس کے حسب رخصت سے منہا نہیں کی جائے گی۔ ایسی رخصت اس کے شوہر کی وفات کی تاریخ سے شروع ہوگی۔ اسے رخصت کی درخواست کے ساتھ یا الگ طور پر تصدیق نامہ وفات پیش کرنا چاہیے۔

۱۷۔ رخصت زچگی

خاتون سرکاری ملازم کو اس کی تاریخ آغاز سے ۹۰ یوم تک کی یا زچگی کی تاریخ سے ۳۰ یوم کے لیے جو بھی پہلے ہو، رخصت زچگی دی جاسکتی ہے۔ کسی دوسری قسم کی رخصت کو رخصت زچگی کے ساتھ ملایا جاسکتا ہے۔ رخصت زچگی مستقل سرکاری ملازمین اور عارضی سرکاری ملازمین دونوں کو دی جاسکتی ہے۔ خاتون سول ملازم کو اس کی کل مدت ملازمت کے دوران رخصت زچگی تین سے زیادہ مرتبہ نہیں دی جاسکتی۔ بجز تعطیلاتی حکموں کی خاتون ملازمین کے تیسری زچگی کے بعد کی زچگیوں کے لیے خاتون سرکاری ملازم کو اپنے معمول کے رخصت حساب سے رخصت لینی ہوگی۔ سولے سے استفادہ کردہ رخصت زچگی کے وقفوں کو تین مرتبہ کی حد کے مقابل شمار کیا جائے گا۔

۱۸۔ غیر معمولی رخصت (بلا تنخواہ)

(i) غیر معمولی رخصت کسی بھی بنا پر بیک وقت زیادہ سے زیادہ پانچ سال کی مدت کے لیے منظور کی جاسکتی ہے، بشرطیکہ اس سول ملازم نے جسے ایسی رخصت کی منظوری دی جائے، کم از کم دس سال کی مسلسل ملازمت مکمل کر لی ہو۔ پانچ سال کی زیادہ سے زیادہ مدت میں سے "سالم تنخواہ پر یا نصف تنخواہ پر" لی گئی ہو۔ جس سول ملازم نے دس سال کی مسلسل ملازمت مکمل نہ کی ہو، اس

کے لیے اس کے دفتر کا سربراہ اپنی صوابدید پر زیادہ سے زیادہ دو سال کی بلا تنخواہ رخصت منظور کر سکتا ہے۔

(i) یہ رخصت اس امر سے قطع نظر منظور کی جاسکتی ہے کہ سول ملازم مستقل ہے یا عارضی، لیکن بنیادی قاعدہ ۱۸ کی شرائط موثر رہیں گی۔
(ii) وہ حاکم مجاز جسے رخصت منظور کرنے کا اختیار حاصل ہو، بلا رخصت غیر حاضری کی مدتوں کو غیر معمولی رخصت پر مستفاد طور سے شمار کر سکتا ہے۔ (بنیادی قاعدہ ۸۵)۔

۱۹۔ رخصت قبل از فارغ خدمتی کی نقد ادائیگی

(i) ایک سول ملازم یکم جولائی ۱۹۸۳ء یا اس کے بعد کی عمر یا ہمیں سال کی اہلیتی ملازمت سے پندرہ ماہ پہلے اس کی مرضی سے رخصت قبل از فارغ خدمتی کی نقد ادائیگی کی اجازت دی جاسکتی ہے، اگر وہ پورے تین سو پینتیس یوم یا اس سے کم مدت جو اسے واجب اور قابل منظوری ہو، کی بجائے فوری انجام دینے کا تحریری طور پر اقرار کرے۔

(ii) ایسی رخصت کے بجائے ایسی رخصت کی اصل مدت کے لیے زیادہ سے زیادہ ۱۸۰ یوم کے تابع تنخواہ رخصت کا مطالبہ کیا جاسکتا ہے۔

(iii) اگر ایسی مدت کے دوران کسی وقت طبی تصدیق نامہ کی تائید کے ساتھ خرابی صحت کی بنا پر یا فریضہ حج کی ادائیگی کے لیے رخصت منظور کی جاتی ہے تو تنخواہ رخصت کی بنا پر نقد معاوضے کی رقم سے اس طور سے منظور کردہ رخصت کی نصف مدت کے لیے تنخواہ رخصت کے مساوی رقم منہا کر دی جائے گی، مثلاً "اگر کوئی ملازم جس سے ایسی رخصت کی نقد ادائیگی کا انتخاب کیا ہو، ساتھ یوم کی رخصت لے لے تو تیس یوم کی رخصت کے مساوی اس کا نقد معاوضہ ضبط ہو جائے گا۔

(iv) سول ملازم یہ انتخاب (آپشن) رخصت قبل از فارغ خدمتی کی منظوری دینے

کے مجاز حاکم کو پیش کرے گا جو اس انتخاب (آپشن) کو قبول کر لے گا اور نقد معاوضے کی ادائیگی کے لیے باضابطہ احکام جاری کرے گا۔

(۷) ایسی رخصت کی بجائے ادائیگی کی غرض کے لیے:

(الف) تنخواہ رخصت کی شرح اس تاریخ پر قابل منظوری شرح ہوگی جس سے ایسی رخصت شروع ہو گئی ہوگی۔

(ب) تنخواہ رخصت اس مدت کے لیے کسی بھی وقت لی جاسکتی ہے جس کے لیے ڈیوٹی انجام دی جا چکی ہو اور

(ج) صرف ”اعلیٰ اسامی الاؤنس“ کو تنخواہ رخصت میں شامل کیا جائے گا۔ (وزارت مالیات اعلان نمبر ایف۔ ۲۱۳۔ ریگ (Reg.)۔ ۱۷۱۔ ۸۵۔ بابت ۲ نومبر

۱۹۸۵ء)۔

۲۰۔ وفات دوران ملازمت

۱۔ دوران ملازمت کسی سول ملازم کے وفات پا جانے یا میڈیکل بورڈ کی طرف سے اسے مزید ملازمت کے لیے مستقل معذور قرار دیا جانے کی صورت میں اس کی جمع شدہ رخصت میں سے ۱۸۰ یوم تک کی سالم تنخواہ کے مساوی رقم یکمشت اس کے کنبے کو (جس کی تعریف پنشن کنبہ کے ضمن میں کی گئی ہے) یا سول ملازم کو جیسی صورت ہو، ادا کی جائے گی۔

۲۔ ذیلی قاعدہ (۱) کے تحت یکمشت ادائیگی کی غرض کے لیے قابل منظوری ”تنخواہ رخصت“ میں صرف ”اعلیٰ اسامی الاؤنس“ شامل کیا جائے گا۔

۲۱۔ رخصت کے وجوہ کے اظہار کی ضرورت نہیں

کسی سول ملازم کے لیے واجب اور قابل منظوری رخصت کی درخواست میں اس کی وجوہ بیان کرنی ضروری نہیں ہوں گی۔ طبی تصدیق پر طلب کردہ رخصت نامنظور نہیں کی جائے گی۔ تاہم رخصت منظور کرنے والا حاکم مجاز اپنی

صوابدید پر بذریعہ درخواست سول سرجن/میڈیکل بورڈ سے درخواست دہندہ کا طبی معائنہ کرا کے دوسری طبی رائے حاصل کر سکتا ہے۔

۲۲۔ رخصت کا آغاز اختتام

یہ ظاہر کرنے کے بجائے کہ آیا رخصت قبل واپس شروع یا ختم ہوئی ہے، رخصت کا آغاز سول ملازم کے اپنی اسامی کا چارج دینے کے اگلے یوم سے ہوگا اور اختتام ڈیوٹی پر دوبارہ حاضر ہونے کے ایک روز قبل۔

۲۳۔ رخصت سے باز طلبی

اگر کسی سول ملازم کو کسی قسم کی رخصت سے جو وہ اپنے صدر مقام سے باہر گزار رہا ہو، اس کے دفتر کے سربراہ کی ذاتی منظوری سے ملازمت پر جبرا واپس طلب کیا جائے تو اسے اس مقام سے جہاں وہ اپنی رخصت گزار رہا ہو، اس مقام تک کا جہاں اسے ڈیوٹی پر حاضر ہونا ہو، یکطرفہ واپسی کے کرائے کے علاوہ بصورت دورہ قابل منظوری روزینہ بھی دیا جائے گا۔ صدر مقام میں ملازمت پر باز طلبی اور باقی ماندہ رخصت کی منسوخی کی صورت میں اسے صرف یکطرفہ سفر کا کرایہ ملے گا۔ اگر رخصت سے واپسی اختیاری ہو تو کوئی رعایت قابل منظوری نہیں ہے۔

۲۴۔ منظور شدہ رخصت کے بعد زائد قیام

بجز اس کے کہ اس کا سربراہ دفتر رخصت میں توسیع کرے، اپنی رخصت کے اختتام کے بعد غیر حاضر رہنے والا سول ملازم غیر حاضری کی اس مدت کے لیے کسی تنخواہ کا حقدار نہیں ہوگا اور ایسی غیر حاضری کی دوگنی مدت اس کے حساب رخصت میں سے منہا کر دی جائے گی، اگر حساب رخصت میں اتنی رخصت جمع نہ ہو تو یہ آئندہ کسب کی جانے والی رخصت میں محسوب ہوگی۔ ایسی دوگنی

منہائی کسی ایسی تادیبی کارروائی میں جسے قواعد کے تحت ضروری سمجھا جائے، مانع نہیں ہوگی۔

۲۵۔ رخصت کی تنخواہ

اوسط تنخواہ پر تنخواہ رخصت کا حساب اس ماہ سے عین قبل جس میں رخصت لی گئی ہو، کال بارہ ماہ کے دوران حاصل کردہ اوسط تنخواہ کی بنیاد پر لگایا جائے گا یا یکم جولائی ۱۹۶۹ء کو یا اس کے بعد لی جانے والی رخصت کی صورت میں تنخواہ رخصت سرکاری ملازم کی طرف سے رخصت کے آغاز سے قبل آخری حاصل کردہ تنخواہ کے مساوی شرح پر قابل منظوری ہے اگر وہ اوسط تنخواہ سے زائد ہو۔ نصف تنخواہ پر تنخواہ رخصت، اوسط تنخواہ آخری حاصل کردہ تنخواہ (جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے) کا نصف ہوگی۔

۲۶۔ رخصت بیرون پاکستان

جو سول ملازم رخصت بیرون پاکستان کے لیے درخواست دے یا دوران رخصت بیرون ملک چلا جائے یا بیرون ملک تقرری کی صورت میں رخصت لے یا یہ سلسلہ خدمت بیرون ملک ہونے کی صورت میں اس امر کی واضح درخواست کرے تو اسے سالم تنخواہ پر رخصت بیرون پاکستان دی جاسکتی ہے، تاہم بیرون وصول کردہ تنخواہ زیادہ سے زیادہ تین ہزار روپے ماہانہ تک محدود ہوگی۔ ایسی تنخواہ رخصت صرف اس عرصے کے لیے واجب الادا ہوگی جو فی الواقع بیرون ملک بسر ہوا ہو اور جو بیک وقت ۳۰ یوم سے زیادہ نہ ہو۔ تاہم بیرون پاکستان تنخواہ رخصت حاصل کرنے کی رعایت ان سرکاری ملازمین کے لیے قابل منظوری نہیں ہے جن کا تقرر ۱۷ مئی ۱۹۵۸ء کے بعد ہوا۔ وہ بلا لحاظ اس ملک کے جہاں انہوں نے اپنی رخصت گزارا ہو، اپنی تنخواہ رخصت پاکستان میں روپوں کی صورت میں لیں گے۔

۲۷۔ مختلف اقسام کی رخصتوں کو ملانا

ایک قسم کی رخصت کو مہلت حاضری یا کسی دوسری قسم کی رخصت کے ساتھ جو بصورت دیگر قابل منظوری ہو، ملایا جاسکتا ہے۔ لیکن رخصت قبل از فارغ خدمتی کو کسی دوسری قسم کی رخصت کے ساتھ نہیں ملایا جاسکتا۔

۲۸۔ حساب رخصت کا فارم پر کرنے کے لیے تشریحی ہدایات

۱۔ یہ حساب رخصت وفاقی حکومت کے ان تمام سول ملازمین کے لیے ترتیب دیا جائے گا جو یکم جولائی ۱۹۷۸ء کو ملازمت میں تھے اور اس میں وہ ملازمین بھی شامل ہوں گے، جو مذکورہ تاریخ پر رخصت پر تھے اور انہوں نے موجودہ قواعد رخصت کو برقرار رکھنے کا انتخاب نہیں کیا، نیز تمام دوسرے ملازمین جو یکم جولائی ۱۹۷۸ء کو یا اس کے بعد ملازمت میں داخل ہوئے۔

۲۔ یکم جولائی ۱۹۷۸ء کو برسر ملازمت سول ملازم کے حساب میں کل جمع شدہ رخصت مندرجہ ذیل شرحوں پر "سالم تنخواہ پر رخصت" کی صورت میں تبدیل لی جائے گی۔

(۱) رخصت با سالم تنخواہ

۳۰ ایام

(الف) ماہ

۱ یوم

(ب) ایوم

(۱) رخصت بانصف تنخواہ

۳۰ ایام

(الف) ماہ

۱ یوم

(ب) ۲ ایام

کسریں (اگر کوئی ہوں) نظر انداز کر دی جائیں۔

۳۔ حساب رخصت ایک افتتاحی اندراج "واجب تاریخ یکم جولائی ۱۹۷۸ء" سے

شروع ہو گا یا ایسے سرکاری ملازم کی صورت میں جو یکم جولائی ۱۹۷۸ء کو رخصت پر تھا، اس کی رخصت سے واپسی کی تاریخ سے شروع ہو گا، جمع شدہ رخصت کا حساب لگانے کی غرض سے ۳۰ جون ۱۹۷۸ء تک کی ملازمت محسوب کی جائے گی، ایام میں ظاہر کردہ "سالم تنخواہ پر رخصت" کی صورت میں واجب رخصت خانہ نمبر ۲۱ میں درج کی جائے گی۔

۳- (۱) ہر تقویمی ماہ کے لیے چار یوم کی شرح سے سالم تنخواہ پر کمسوبہ رخصت کا حساب لگاتے وقت تقویمی ماہ میں ۱۵ یوم یا اس سے کم مدت ملازمت نظر انداز کر دی جائے گی اور ۱۵ ایام سے زائد کی مدت ملازمت اس غرض سے سالم تقویمی ماہ متصور ہو گی۔ اگر کوئی سول ملازم ایک تقویمی ماہ کے دوران رخصت پر جائے اور کسی دوسرے تقویمی ماہ میں واپس آئے اور ہر ماہ میں مدت ملازمت ۱۵ ایام سے زیادہ ہو تو دونوں نامکمل مہینوں کے لیے جمع ہونے والی رخصت صرف ایک مکمل تقویمی ماہ کے لیے قابل منظوری رخصت شمار کی جائے گی، زیادہ سے زیادہ رخصت کے جمع ہونے کی کوئی حد نہیں۔

(۱) مذکورہ بالا شرط (۱) کا اطلاق تعطیلاتی محکمے پر نہیں ہو گا، ایسی صورت میں سرکاری ملازم سالم تنخواہ پر رخصت کا بطریق ذیل اکتساب کر سکتا ہے:

(الف) اگر وہ کسی تقویمی سال میں پوری تعطیلات سے استفادہ کرے تو انجام دادہ ملازمت کے ہر تقویمی مہینے پر ایک یوم کی شرح سے۔

(ب) اگر وہ تقویمی سال میں پوری تعطیلات سے استفادہ نہ کر سکے تو اس کے لیے کسی غیر تعطیلاتی محکمے کے سول ملازم کے مساوی، اور

(ج) اگر وہ تعطیلات کے صرف ایک حصے سے استفادہ کرے تو (الف) بالا کے مطابق ایام رخصت جمع تیس ایام کے اس تناسب کے مساوی ایام ہو پوری تعطیلات اور ان ایام کے درمیان پایا جاتا ہے، جن سے وہ مستفید نہیں ہوا۔

(۵) (الف) سرکاری ملازم کی خواہش پر اس کی سالم تنخواہ پر رخصت کو نصف تنخواہ پر رخصت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، حساب رخصت میں سے منہا کرتے

وقت اول الذکر کا ایک یوم موخر الذکر کے دو ایام کی شرح سے محسوب ہو گا، سالم تنخواہ پر نصف یوم کی رخصت سالم یوم کی رخصت شمار ہو گی۔ متعلقہ سول ملازم اس تبدیلی کی استدعا واضح طور پر اپنی درخواست رخصت میں کرے گا۔

(ب) نصف تنخواہ پر رخصت بلا تجدید مدت منظور کی جا سکے گی، بشرطیکہ حساب رخصت میں مذکورہ بالا تبدیلی کی گنجائش موجود ہو۔

(۶) سالم تنخواہ ہر رخصت قبل فارغ خدمتی خانہ نمبر ۱۰ میں درج کی جائے گی اور نصف تنخواہ پر رخصت کو خانہ نمبر ۱۳ اور ۱۳ میں درج کیا جائے گا۔

(۷) غیر واجب رخصت سالم تنخواہ پر منظور کی جا سکتی ہے، یہ رخصت کل مدت ملازمت کے دوران زیادہ سے زیادہ ۳۶۰ یوم کے لیے سالم تنخواہ پر دی جا سکتی ہے۔ یہ آئندہ کسب کی جانے والی رخصت میں محسوب ہو گی۔ ملازمت کے پہلے پانچ سال کے دوران یہ رخصت عمومی طور پر ۹۰ یوم سے متجاوز نہیں ہو گی۔ اسی رخصت کو نصف تنخواہ پر رخصت میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، یہ رخصت صرف اسی صورت میں دی جا سکتی ہے جب سرکاری ملازم کے ملازمت پر دوبارہ حاضر ہونے کا معقول امکان ہو۔

(۸) خصوصی رخصت، رخصت زچگی، رخصت معذوری، غیر معمولی رخصت، کی منظوری، مسترد رخصت قبل از فارغ خدمتی کی صورت میں زیادہ سے زیادہ ۱۸۰ ایام کی تنخواہ رخصت میں سے زیادہ سے زیادہ ۱۸۰ یوم تک کی سالم تنخواہ کے مساوی رقم اس کے کنبے کو یک مشت ادائیگی، رخصت غیثاں بحری، محکمہ رخصت، رخصت تعلیمی، رخصت شفا خانہ، رخصت قرظینہ کا اندراج خانہ نمبر ۲۲ میں کیا جائے گا۔ کل مدت ملازمت کے دوران میں تین سے زیادہ مرتبہ حاصل کردہ رخصت زچگی حساب رخصت کے متعلقہ خانہ میں سے منہا کی جائے گی۔

(۹) جب کوئی سرکاری ملازم رخصت کے لیے درخواست دے تو خانہ ۲ تا ۷ کو پر کیا جائے گا اور جس تاریخ کو سرکاری ملازم رخصت پر جانے کا خواہش مند ہو، اس سے ما قبل تاریخ تک ڈیوٹی کی مدت ظاہر کی جائے گی۔ خانہ ۵ میں درج شدہ

سالم تقویٰ مہینوں کو پیرا ۳ بلا میں مندرج طریق کے مطابق محسوب کیا جائے گا۔
(۱۰) سرکاری ملازم کے رخصت سے واپس آنے پر رخصت کی نوعیت کے مطابق
خانہ ۸ آ ۲۳ کو پر کیا جائے گا، اگر غیر واجب رخصت سے استفادہ کیا گیا ہو تو
یعنی بقایا کا اندراج خانہ ۲۱ میں سرخ روشنائی سے کیا جائے گا۔

باب ۷

قواعد پیشین

۱۔ پیشین کی قسم بندی

(الف) اگر کسی مستقل اسامی کی تہنیک کی بنا پر متعلقہ سرکاری ملازم کو
بکدوش کرنے کا فیصلہ کیا جائے تو بجز اس کے کہ اس کا تقرر کسی ایسی
دوسری اسامی پر کیا جائے جس کی شرائط کم از کم اس کی اپنی اسامی کی شرائط
کے برابر متصور ہوں۔ اسے اختیار ہو گا کہ مندرجہ ذیل میں سے کسی ایک
صورت کو اپنے لیے منتخب کر لے۔

(۱) وہ کوئی متلافی پیشین یا انعامیہ لے لے جس کا وہ اپنی سابقہ ملازمت کی بنا پر
حق دار ہو، یا

(۲) وہ کوئی دوسری اسامی یا کسی دوسرے محکمے میں تبادلہ کم تر تنخواہ پر کیوں نہ ہو،
قبول کر لے، اسے کوئی ایسی پیش کش کی جائے اور اپنی سابقہ ملازمت کو پیشین
کے لیے محسوب کرتے ہوئے (اشارہ سرکاری ملازم) متبادل ملازمت کی پیش کش
قبول کرنے سے انکار نہیں کر سکتا ہے۔

(ب) ایک سرکاری ملازم کو جو کسی اسامی مستقل حیثیت میں ملازم نہ ہو،
اگر ۲۵/۱۰ یا زیادہ مدت کی اتصالی ملازمت کی تکمیل کے بعد اس کی اسامی
تہنیک کی بنا پر یا "پہل" امیدوار کے آنے پر بکدوش کر دیا جائے تو اس کی
متلافی پیشین انعامیہ پیشین منظور کی جاتی ہے۔

۲۔ پیش مندروری

(الف) پیش مندروری ایسے سرکاری ملازم کو سرکاری ملازمت کی فارغ خدمتی پر دی جاتی ہے جو جسمانی یا ذہنی کمزوری کی بنا پر مزید سرکاری ملازمت کے لیے یا اس مخصوص شعبہ کے لیے جس سے اس کا تعلق ہے، دائمی طور پر معذور ہو جائے۔ تاہم معذوروں کی تصدیق باضابطہ تشکیل کردہ مجلس طبی کی طرف سے کی جانی چاہیے۔

(ب) اگر کسی عارضی ملازم کو ذہنی یا جسمانی کمزوری کے باعث نااہلیت کی بنا پر فارغ خدمت کر دیا جاتا ہے تو اسے فوائد پیش اس طرح ملیں گے گویا کہ وہ بنیادی قواعد کے قاعدہ ۱۰۔ الف کی شرائط کے مطابق فارغ خدمت ہوا ہو۔

(ج) ایسے افسر کی صورت میں جو اپنی فارغ خدمتی سے قبل وفات پا جائے، اس کی پیش مندروری اس طور سے محسوب کی جاتی ہے گویا کہ وہ اپنی وفات کی تاریخ کے فوراً بعد کی تاریخ پر پیش مندروری پر فارغ خدمت ہوا ہو۔ (پیشن۔ مع۔ انعامیہ سکیم ۱۹۵۳)

۳۔ پیش مندروری سالانہ

سالانہ پیش مندروری ایسے سرکاری ملازم کو منظور کی جاتی ہے جو از روئے قاعدہ ایک مقرر عمر پر فارغ خدمت ہونے کا حق دار یا مجبور ہو۔ (ضابطہ سول ملازمت ۳۵۸)۔ سول ملازمین (ترمیم) ایکٹ ۱۹۷۶ء کی رو سے ایک سول ملازم ۶۰ سال کی عمر کی تکمیل فارغ خدمت ہو جاتا ہے۔

۳۔ پیش مندروری خدمتی

(۱) پیش مندروری خدمتی ایسے سرکاری ملازم کی منظور کی جاتی ہے جسے ۲۵ سال کی

اہلیتی ملازمت کی تکمیل پر فارغ خدمت ہونے کی اجازت دی جاتی ہے۔ ایسی پیش مندروری ایسے سرکاری ملازم کو بھی دی جاتی ہے جسے حکومت ۲۳ سال یا زیادہ مدت کی اہلیتی ملازمت کی تکمیل کے بعد فارغ خدمت ہونے کی ہدایت کرے۔

(۲) لازمی خدمات (برقراری) ایکٹ ۱۹۵۲ء کی شرائط کے تابع ایک سرکاری ملازم کو سوائے اس سرکاری ملازم کے جس کے خلاف کوئی محکمہ کارروائی زیر التوا ہو، ۲۵ سال کی اہلیتی ملازمت کی تکمیل پر ملازمت سے فارغ خدمت ہونے کا حق ہے۔ اب سرکاری ملازم اس تاریخ سے جس تاریخ پر وہ فارغ خدمت ہونا چاہتا ہے کم از کم تین ماہ پہلے، اس حاکم مجاز کو جو اسامی کو پر کرنے کی مجاز ہے جس پر وہ فارغ ہے، تحریری طور پر اطلاع دے گا اور اس تاریخ سے مطلع کرے گا جس پر وہ رٹائر ہونے کا ارادہ رکھتا ہے۔ ایسی اطلاع ایک بار پیش ہونے پر قطعی ہوگی اور اس میں ترمیم کرنے یا اسے واپس لینے کی اجازت نہیں ہوگی۔ تاہم درخواست کے باضابطہ منظور ہونے سے قبل پر وہ اگر چاہے تو قبل از وقت فارغ خدمتی کے لیے اپنی درخواست واپس لے سکتا ہے۔

(۳) حکومت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ کسی سرکاری ملازم کو اس کی ۲۵ سال کی اہلیتی ملازمت کی تکمیل پر فارغ خدمت کر دے۔ (وزارت مالیات یا دداشت نمبر اور بی۔ ۳۲/۴۳۔ اے۔ پی۔ (۱) مورخہ ۸ اگست ۱۹۶۶ء بشمول سول ملازمین ایکٹ ۱۹۷۳)

(۴) سول ملازمین ایکٹ ۱۹۷۳ء کی دفعہ ۱۹ میں مستعمل فارغ خدمتی کی اصطلاح میں قواعد (اہلیت و انضباط) ۱۹۷۳ء کے تحت ”جبری فارغ خدمتی“ شامل ہے۔ اس صورت میں کامل طور پر تسلی بخش ملازمت کے تصدیق نامے کی ضرورت نہیں ہے۔

(۵) سرکاری ملازمین کی رضاکارانہ فارغ خدمتی کی صورت میں متعلقہ محکموں کے سربراہ اس امر کے ذمہ دار ہیں کہ وہ ۲۵ سال کی اہلیتی ملازمت کے بعد فارغ خدمتی کے لیے درخواست کی وصولی کی تاریخ سے ایک ماہ کے اندر محاسبہ کی

طرف اتصالی ملازمت کی تصدیق کو یقینی بنائیں۔ اگر اتصالی ملازمت ۲۵ سال سے کم ہو تو سرکاری ملازم کو ملازمت کی اس مدت کو مکمل کرنے کے وقت تک ملازمت جاری رکھنی پڑے گی۔ سربراہ محکمہ کو چاہیے کہ وہ تین ماہ کے نوٹس کی مدت کے اختتام سے پہلے اتصالی ملازمت میں کمی کے بارے میں متعلقہ سرکاری ملازم کو مطلع کرے۔

(vi) ۲۵ سال کی اتصالی ملازمت کی تکمیل پر رضاکارانہ فارغ خدمتی کے لیے درخواستیں مندرجہ ذیل حکام مجاز کو پیش کی جانی چاہئیں:-

افسروں کا گریڈ فارغ خدمتی کے لیے درخواست منظور کرنے کے مجاز حاکم گریڈ ۲۱ اور بالا وزیر اعظم۔ متعلقہ وزیر کی منظوری کے بعد خلاصہ (سری) عملہ ڈویژن کے توسط سے پیش کیا جائے گا۔

گریڈ ۱۷ تا ۲۰ وزارت، ڈویژن کا ممتد جو انتظامی طور پر اس کا ڈیریا محکمے کا نگران ہے جس سے اسامی متعلق ہے۔

گریڈ ۱۶ محکمے کا سربراہ
گریڈ ۱۵ محکمے کا سربراہ یا دفتر کا سربراہ

۵۔ اہلیتی ملازمت کی شرائط

(i) بجز اس کے کہ خاص قاعدہ یا معاہدہ کی رو سے برعکس شرط موجود ہو، ایک افسر کی ملازمت اس تاریخ سے قابل پیش شروع ہو جاتی ہے جب وہ اس اسامی کا چارج لیتا ہے جس پر اس کا اولاً تقرر ہوا ہو۔

(ii) ملازمت حکومت کے ماتحت ہونی لازمی ہے۔ ایک سرکاری ملازم کی ملازمت پیش کے لیے اس وقت تک اہل نہیں ہوتی جب تک کہ اس کا تقرر عمل میں نہ آیا ہو اور اس کے فرائض اور تنخواہ حکومت کی طرف سے منضبط نہ ہوتے ہوں۔ (ضوابط سول ملازمت دفعات ۳۱۱، ۳۲۳)

(iii) ملازمت اساسی اور مستقل ہو۔ (ضوابط سول ملازمت دفعات ۳۱۱، ۳۶۸)

(iv) ایک سرکاری ملازم جو اساسی مستقل حیثیت میں ملازمت میں نہ ہو، جو ۵ سال سے زیادہ مدت کی مسلسل عارضی ملازمت انجام دے چکا ہو، اس کی یہ ملازمت پیش یا انعامیہ غرض کے لیے شمار ہوگی لیکن اس میں اس انتظامی ملازمت کی مدتیں اگر کوئی ہوں، شامل نہیں ہیں جو اس نے پہلے انجام دی ہو۔ عارضی اور قائم مقامی ملازمت کی انتظامی ملازمت بھی جو بعد میں مستقل ہو جائے پیش یا انعامیہ کے لیے شمار ہوتی ہے لیکن اس میں عارضی یا قائم مقامی ملازمت کی انتظامی مدتیں نہیں ہوں گی اگر کوئی ہوں۔

(ضوابط سول ملازمت، دفعہ ۳۱۱۔ الف)

(v) صرف وہ ملازمت پیش کے لیے اہل ہوتی ہے جس کی تنخواہ عمومی محاصل سے ادا ہوتی ہو۔ ملازمت خارجہ بھی پیش کے لیے شمار ہوتی ہے بشرطیکہ قواعد کے بموجب پیش کا چندہ ادا کر دیا گیا ہو۔ ایک سرکاری ملازم کی طرف سے کسی خود مختار یا نیم خود مختار ادارے میں کسی ایسی اسامی پر انجام دادہ مؤثر ملازمت جس پر تقرری اور جس کی تنخواہ کا تعین از روئے قانون وفاقی حکومت یا کوئی صوبائی حکومت کرتی ہو، سرکاری ملازمت میں انجام دادہ مؤثر ملازمت تصور ہوتی ہے۔

(vi) باقاعدہ عملے میں لائے جانے سے قبل متبادل خرچ سے تنخواہ پانے والے عملے کی طرف سے انجام دادہ مسلسل ملازمت یکم اکتوبر ۱۹۵۷ء سے پیش کی غرض کے لیے پوری ملازمت شمار ہوگی اور تاریخ مذکور سے قبل کی مسلسل ملازمت نصف شمار ہوگی۔

(vii) وہ سول ملازمین جنہوں نے اپنی سول ملازمت سے پہلے تسلی بخش یا تنخواہ فرسٹی یا کمیشن یافتہ ملازمت بشمول کسی ملٹری ٹریننگ سکول میں بطور کیڈٹ، شاہی فوج میں ۳ ستمبر ۱۹۳۹ء اور ۳۱ مارچ ۱۹۳۶ء کے درمیان ایسی ملازمت انجام دی ہو جس کی انھیں پیش نہ ملی ہو اور جن کا تقرر ۱۸ جولائی ۱۹۳۹ء کو یا اس سے پہلے کی قابل پیش سول اساسی پر ہو گیا ہو، وہ ایسی ملازمت کے زیادہ سے زیادہ تکمیل

شده سال سول پنشن کی غرض سے شمار کرا سکتے ہیں۔

(vii) غیر معمولی رخصت کے سوا رخصت کی تمام مدتیں پنشن کے لیے بطور اہل ملازمت شمار ہوتی ہیں۔ (ضوابط سول ملازمت دفعہ ۳۰۷)

(ix) ایسی معطلی کی مدت جس کے بعد ملازمت بحال ہو جائے یا پیرانہ سالی کی عمر پوری ہو جائے، پنشن کے لیے بطور اتصالی ملازمت شمار ہوتی ہے۔

(x) اس صورت میں کہ ایک سرکاری ملازم کو قواعد (اہلیت و انضباط) سرکاری ملازمین ۱۹۷۳ء کے تحت معطل کیا گیا ہو، اس کی معطلی کی مدت کے بعد پورے طور پر فارغ خدمت کر دیا جائے، پنشن یا انعامیہ صرف انجام دادہ مدت ملازمت کے لیے قابل منظوری ہے جس میں معطلی کی مدت شامل نہیں ہوتی۔

(xi) سرکاری ملازمت کے استعفیٰ، موٹوئی یا برطرفی جو برہائے غلط طرز عمل، دیوالیہ پن یا نااہلیت یا کوئی امتحان پاس کرنے میں کوتاہی ہو، سابقہ ملازمت کی ضابطی پر مبنی ہوتی ہے۔ صدر کی طرف سے برہائے رحمہ کوئی حکم صادر کیے جانے کے تابع، ایسا سرکاری ملازم جسے برطرف یا موقوف کیا گیا ہو، کسی متعلقہ پنشن، انعامیہ یا کیس شرکتی کفالت فنڈ میں حکومت کے چندے (اعانے) سے حاصل ہونے والے فائدے کا مستحق نہیں ہو گا۔ ایک اسامی سے کسی دوسری قابل پنشن اسامی پر تقرری حاصل کرنے کے لیے دیا گیا استعفیٰ پنشن کی غرض کے لیے سرکاری ملازمت کے استعفیٰ نہیں ہے۔ (ضوابط سول ملازمت دفعہ ۳۱۸)

(xii) ایک افسر کی ملازمت میں کسی قسم کا اختطاع اس کی گزشتہ ملازمت کی ضابطی پر مبنی ہوتا ہے۔ غیر حاضری کی منظور شدہ رخصت ایسی معطلی کی مدت جو فوراً بعد خالی پر مبنی ہو جائے اور ایک اسامی سے دوسری اسامی پر جانے کا دوران راہ وقفہ اتصالی ملازمت کی غرض کے لیے اختطاع منظور نہیں ہوتا۔

(xiii) وہ حاکم مجاز جو پنشن کی منظوری دیتا ہے، بلا رخصت غیر حاضری کی مدتوں کو یہ اثر مابقی غیر معمولی رخصت میں تبدیل کر سکتا ہے (ضوابط سول ملازمت دفعہ

۳۲۱ اور بنیادی قاعدہ ۸۵ (ب)

۶۔ انقطعات اور ملازمت میں کمی کی معافی

(i) وہ حاکم مجاز جو معافی کی درخواست دیے جانے کے وقت متعلقہ سرکاری ملازم کی اسامی کو، اگر وہ اس اسامی کو خالی کر دے، پر کر سکتا ہے، ایسی شرائط پر جنہیں ہر معاملے میں مناسب خیال کرے، اس کی ملازمت کے تمام انقطعات کی معافی دے سکتا ہے بشرطیکہ ایسے انقطعات کی بناء پر سرکاری ملازم کا کوئی قصور دانستہ فعل مثلاً "غیر مجاز غیر حاضری" ملازمت سے استعفیٰ یا برطرفی نہ ہو، تاہم یہ اختیار اس عارضی اور قائم مقامی ملازمت کے انقطعات کو معاف کرنے کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا جنہیں ضوابط سول ملازمت کی دفعہ ۱۷۱-۱۷۳ ایف کے تحت خصوصی طور پر اتصالی ملازمت کے زمرے میں سے خارج کیا گیا ہے۔ کسی اسامی کے تنزل اور تخفیف کی بنا پر انقطعات کو معاف شدہ تصور کرنا چاہیے۔ (ضوابط سول ملازمت کی دفعہ ۳۲۲ بشمول مالیات ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ایف-۵ (۱) ریک - ۷۷۱۲۶ مورخہ ۲۳ فروری ۱۹۷۷)

(ii) سرکاری ملازم کی اہل ملازمت میں چھ ماہ تک کی کمی از خود معاف شدہ منظور ہو گی۔ وہ حاکم مجاز جو پنشن منظور کرنے کا مجاز ہے مندرجہ ذیل شرائط کے تابع چھ ماہ سے زیادہ لیکن ایک سال سے کم کمی کو معاف کر سکتا ہے۔

(الف) سرکاری ملازم دوران ملازمت وفات پا جائے یا اپنے اختیار سے باہر حالات یعنی موزوں یا اپنی اسامی کی منسوخی پر فارغ خدمت ہو جائے اور وہ اگر وفات نہ پاتا، فارغ خدمت نہ ہوتا تو اتصالی ملازمت کا ایک سال اور مکمل کر لیتا۔

(ب) اس کی طرف سے انجام دادہ وہ ملازمت قابل امتحان ہو۔

(c) ایک سالم سال یا اس سے زیادہ مدت کی کمی معاف نہیں کی جا سکتی (وزارت مالیات دفتری یادداشت نمبر او۔ پی ۳۲/۶۳-۱۸ اگست ۱۹۶۶)

(iv) ان شرائط کا اطلاق ان سرکاری ملازمین پر نہیں ہو گا جنہوں نے پانچ سال

سے کم مدت کی مسلسل ملازمت انجام دی ہو۔

۷۔ موافق جو پنشن کے لیے شمار ہوتے ہیں۔

”موافق“ سے وہ موافق مراد ہیں جو سرکاری ملازم اپنی فارغ خدمتی سے

عین قبل وصول کر رہا تھا اور اس میں مندرجہ ذیل شامل ہیں۔

(i) تنخواہ جس کی بنیادی قاعدہ ۹ (۲۱) ایف (i) میں تعریف کی گئی ہے۔

(ii) ذاتی تنخواہ۔

(iii) فنی تنخواہ۔

(iv) خصوصی تنخواہ۔

(v) منگائی الاؤنس۔

(vi) رخصت قبل فارغ خدمتی کے دوران ہونے والا اضافہ۔

(vii) اعلیٰ اسامی الاؤنس (اس کا اطلاق یکم مئی ۱۹۷۷ء کو یا اس کے بعد فارغ

خدمت ہونے والے افسروں پر ہو گا۔ ملاحظہ ہو مالیات ڈویژن دفتری یادداشت

نمبر ایف۔ (۶) مورخہ ۱۰ مئی ۱۹۷۷ء۔

(viii) تنخواہ میں کوئی اور اضافہ جسے صدر نے خصوصی طور پر پنشن کے لیے شمار

کرنے کے لیے موافق قرار دیا ہو (مالیات ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ایف ۳

(۳)۔ دیگر (۶) مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۷۲ء)

(ix) کسی ایسے سرکاری ملازم کی طرف سے موصول کئے جانے والے موافق یا

تنخواہ جس کا تبادلہ ملازمت خارجہ پر کسی خود مختار یا نیم خود مختار ادارے میں ایسی

اسامی پر جس کا تقرر اور جس کی تنخواہ کا تعین از روئے قانون وفاقی حکومت یا

کسی صوبائی حکومت کی طرف سے سرکاری ملازمت میں کسی اسامی پر حاصل کردہ

موافق یا تنخواہ تصور ہوتی ہے (ضوابط سول ملازمت دفعہ ۳۸۶ وزارت مالیات

اعلان نمبر ایف ۳ (۶) آر ایس۔ ۶۸ مورخہ ۳۰ جنوری ۱۹۷۱ء۔

(x) گزشتہ تین سال یا اس کے کسی حصے کے دوران میں بیرون ملک تقرر یا ب

کسی سول ملازم سے متعلق موافق محسوب کرنے کی اغراض کے لیے منگائی

الائونس یا اعلیٰ اسامی الاؤنس کو جو وہ پاکستان میں حاصل کرتا اگر اس کا تبادلہ

بیرون ملک نہ ہو جاتا، شمار کرنا چاہیے اور تصوری بنیاد پر موافق کی اصطلاح میں

شامل کرنا چاہیے۔

۸۔ اوسط یافت

(i) ان اوسط یافت کی اصطلاح سے مراد ہے ملازمت کے آخری ۳ ماہ کی ملازمت

پر محسوب کردہ اوسط۔ اگر کوئی سرکاری ملازم اپنی ملازمت کے آخری ۳ ماہ کے

دوران رخصت بالائونس پر ڈیوٹی سے غیر حاضر رہا ہو یا معطل کیے جانے کے بعد

ملازمت کی مضبوطی کے بغیر بحال ہو گیا ہو تو اوسط معلوم کرنے کی اغراض کے لیے

اس کے موافق اس طور سے شمار کرنے چاہئیں گویا کہ وہ ڈیوٹی سے معطل ہی

نہیں ہوا تھا۔ اگر اپنی ملازمت کے آخری ۳ ماہ کے دوران کوئی ملازم رخصت بلا

الائونس (پنشن کے لیے شمار نہ ہونے والے) پر ڈیوٹی سے غیر حاضر ہوا ہو تو اوسط

یافت کو محسوب کرتے وقت اس طرح سے گزاری ہوئی مدت کو نظر انداز کر دینا

چاہیے اور ۳ ماہ سے قبل کی مساوی مدت کو شامل کر لینا چاہیے۔ (دفعہ ۳۸۷

ضوابط سول ملازمت)

(ii) اگر اپنی ملازمت کے آخری تین سال کے دوران اس اسامی کے جس پر وہ

مامور ہو، بیانہ تنخواہ پر نظر ثانی یا اس کا درجہ بڑھانے کے نتیجے میں کسی افسر کی

تنخواہ یہ اثر مابقی دوبارہ متعین ہو لیکن گزشتہ مدت سے متعلق نہ تو بتایا جات ادا

کیے جاتے ہیں اور نہ بازنایاں کی جاتی ہیں تو اوسط یافت محسوب کرنے کی غرض

کے لیے اس کے موافق وہ لینے جانے چاہیں جو اس صورت میں ہوتے۔ اگر

بتایا جات کی اجازت دی جاتی اور بازنایاں کر لی جاتیں۔ (ضوابط سول ملازمت

دفعہ ۳۸۷۔ الف) بذریعہ مالیات ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ایف ۳ (۳)

ریگ (۶) مورخہ ۸ ستمبر ۱۹۷۲ء۔

(۸) جہاں قواعد (اہلیت و انضباط) سرکاری ملازمین ۱۹۷۳ء سے سے قطع نظر دیگر کسی وجہ سے کسی سرکاری ملازم کی تنخواہ میں تخفیف کر دی گئی ہو تو متعلقہ سرکاری ملازم کی مرضی سے پنشن کی غرض کے لیے اوسط کا شمار حاصل کردہ موابج کی بنیاد پر یا ان موابج کی بنیاد پر جو وہ ملازمت کے آخری تین سال کے دوران حاصل کرتا، کرنا چاہیے۔ (الف) ۶ (۹) ریگ (۶)۔ ۷۸ مورخہ ۲۱ جون ۱۹۷۹

۹۔ پنشن کی رقم

(الف) منظور ہونے والی پنشن کی رقم کا تعین ملازمت کی مدت یا بتا پر کیا جاتا ہے کسی سرکاری ملازم کے لیے قابل منظوری پنشن کا حساب لگاتے وقت سال کی کسوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ قواعد کے تحت قابل منظوری پوری پنشن بطور معمول نہیں دی جاتی۔ انجام دادہ ملازمت فی الواقع تسلی بخش قرار دی گئی ہونی چاہیے۔ اگر ملازمت مکمل طور پر تسلی بخش نہ رہی ہو تو پنشن منظور کنندہ حاکم مجاز پنشن کی رقم میں اس قدر تخفیف کر سکتا ہے جتنی وہ مناسب خیال کرے (ضوابط سول ملازمت ۱۹۷۰) ۳۷۰ شماره۔۔۔۔۔ اس دفعہ کے تحت کسی پنشن کی رقم میں اس وقت تک تخفیف نہیں کی جائے گی جب تک کہ پنشن کے مستحق شخص کو بذریعہ تحریری نوٹس مجوزہ تخفیف کے خلاف اظہار وجوہ کا موقع فراہم نہ کیا جائے۔

(ب) اگر کسی اسامی پر مستقل حیثیت سے قابل پنشن ملازمت میں کام کرنے والا کوئی سرکاری ملازم یا جو ۵ سال لیکن ۱۰ سال کی اتصالی ملازمت مکمل کرنے کے بعد فارغ خدمت ہو جائے یا اس کی مستقل اسامی کے منسوخ ہو جانے کی بنا پر اسے سبکدوش کرنے کا فیصلہ کیا جائے تو اسے اتصالی ملازمت کے ہر تکمیل شدہ سال کے لیے ایک ماہ کے موابج کے

مطلوبی انعامیہ منظور کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسے سرکاری ملازم نے فارغ خدمتی یا سبکدوشی کے وقت یا اس سے زیادہ مدت (جیسی صورت میں) اتصالی ملازمت مکمل کر لی ہو تو اسے معمول کی پنشن دی جا سکتی ہے۔

(ج)

عارضی سرکاری ملازمین جو معمول کے مطابق ملازمت سے فارغ خدمت ہوتے ہیں یعنی پیرانہ سال کی عمر کو پہنچنے پر یا مزید ملازمت کے لیے موزوں قرار دیے جانے پر یا جو ۲۵ سال کی اتصالی ملازمت مکمل کرنے پر فارغ خدمت ہونے کا انتخاب کرتے ہیں، انھیں مستقل سرکاری ملازمین کے مساوی تصور کیا جاتا ہے چنانچہ وہ (ب) بالا کے مطابق انعامیہ یا پنشن (جیسی صورت ہو، کے مستحق ہوتے ہیں) تاہم اگر یہ کسی سرکاری ملازم کو اس کی اسامی کے منسوخ یا اس کی جگہ کسی اہل امیدوار کا تقرر ہو جانے کی بنا پر ملازمت سے سبکدوش کر دیا جائے تو وہ ۲۵ یا اس سے زیادہ سال اتصالی ملازمت کی تکمیل پر معمول کی پنشن اور دس سال لیکن ۲۵ سال سے کم کی اتصالی ملازمت کی تکمیل شدہ سال کے لیے ایک ماہ کے موابج تک کے مساوی زیادہ سے زیادہ ۵۰۰۰۰ روپے تک کے تابع انعامیہ کا مستحق ہوتا ہے۔ ایسے عارضی سرکاری ملازم کو جو سبکدوشی کے وقت ۱۵ سال سے کم مدت کی ملازمت انجام دے چکا ہو، کوئی انعامیہ یا پنشن قابل منظوری نہیں ہے (وزارت مالیات و فنری یادداشت اولیٰ۔ ۲۳/۱۳۔ ۶۳۔ امپ (۱) مورخہ ۸ اگست ۱۹۶۶ اور وزارت مالیات نمبر ایف۔ ۸ (۲)۔ آر ۶ مورخہ ۲۵ نومبر ۱۹۶۸)۔

(د)

ایسے سرکاری ملازم کی پنشن کی رقم جس نے ۲۵ سال کی اتصالی ملازمت مکمل کر لی ہو اور فارغ خدمتی پر فارغ خدمت کا حق استعمال کر لیا ہو اس رقم سے کم نہیں ہونی چاہیے جس کا وہ اسی صورت میں مستحق ہوتا اگر اس نے اپنا حق استعمال کیا ہوتا۔ بلا لحاظ اس امر کے کہ اس کے موابج میں کم تر تنخواہ والی کی دوسری اسامی پر اس کے تقرر کی بنا پر بطور سزا کے سوا

تحفیف کی جاسکتی ہے۔

۱۰۔ پنشن کی شرح اور پیمانہ

(۱) پنشن ۳۰ سال کی اتصالی ملازمت مکمل ہونے پر اوسط یافت کے ۷۰ فی صد کی شرح سے محسوب ہوتی ہے۔ جہاں اتصالی ملازمت ۳۰ سال سے کم لیکن دس سال سے کم نہ ہو، فی صد میں متناسب تحفیف کی جاتی ہے۔ تمام چاروں ہمشوں یعنی حلالی پنشن، پیرانہ سالی پنشن، پنشن معذوری اور فارغ خدمتی پنشن کی جدول پنشن یہ ہے۔

اہلیتی ملازمت کے
تکمیل شدہ استعمال

پیمانہ پنشن اوسط یافت کی کسروں کے طور پر ظاہر کردہ	
۷۰/۳۰۰	۱۰
۷۷/۳۰۰	۱۱
۸۴/۳۰۰	۱۲
۹۱/۳۰۰	۱۳
۹۸/۳۰۰	۱۴
۱۰۵/۳۰۰	۱۵
۱۱۲/۳۰۰	۱۶
۱۱۹/۳۰۰	۱۷
۱۲۶/۳۰۰	۱۸
۱۳۳/۳۰۰	۱۹
۱۴۰/۳۰۰	۲۰
۱۴۷/۳۰۰	۲۱
۱۵۴/۳۰۰	۲۲
۱۶۱/۳۰۰	۲۳

۱۸۸/۳۰۰	۲۴
۱۷۵/۳۰۰	۲۵
۱۸۲/۳۰۰	۲۶
۱۸۹/۳۰۰	۲۷
۱۹۶/۳۰۰	۲۸
۲۰۳/۳۰۰	۲۹
۲۱۰/۳۰۰	۳۰ اور زائد

(۱) اگر ۳۰ سال یا اس سے زیادہ مدت کی اہل ملازمت کے پنشن یاب کے لیے ذیلی پارہ (۱) تحت محسوب کردہ پنشن کی رقم اس پنشن کی رقم سے (بشمول اضافہ جات منگائی) جو موجودہ قواعد کے تحت منظور ہوئی ہو، کم ہو جائے یا ۳۵ روپے تک سے متجاوز ہو جائے تو نظر ثانی شدہ فارمولے کے تحت رقم مذکور میں اس طرح اضافہ کیا جائے گا کہ یہ فرق ۳۵ روپے کے مساوی ہو جائے۔ جہاں اتصالی ملازمت ۳۰ سال سے کم لیکن ۱۰ سال سے کم نہ ہو تو مذکورہ بالا کم از کم اضافے کی رقم کا حساب لگاتے وقت ۳۰ سال سے کم مدت کے ہر سال کے لیے ۱۵۰ روپے کی شرح سے متناسب تحفیف کی جائے گی۔

(۲) یکم فروری ۱۹۷۷ء کو یا اس کے بعد فارغ خدمت ہونے والے اشخاص کی پنشن ذیلی پارہ (۱) یا (۱) کے تحت الگ الگ محسوب کرنی چاہیے تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ ان پنشن یاب کے لیے ان دونوں میں سے کون سی پنشن زیادہ فائدہ مند ہے۔

(۳) "یافت" کی اصطلاح یعنی قابل پنشن تنخواہ میں ذیلی پارہ (۱) کے تحت محاسب کی غرض کے لیے وقتاً فوقتاً منظور شدہ منگائی الاؤنس بھی شامل ہوں گے۔

(۴) ان احکام کے تحت منظور کردہ ہمشوں پر اسے اضافہ جات منگائی پنشن میں شامل نہیں ہوں گے جو یکم فروری سے پہلے منظور ہوئے تھے۔

(۵) کوئی پنشن یاب چاہے تو وہ فارغ خدمتی کی تاریخ سے ایک ماہ گزرنے

سے قبل کسی وقت اپنی مجموعی پنشن کے ۲۵ فیصد تک انعامیہ مع پنشن کی بقایا خاص رقم کے لیے درخواست کر سکتا ہے۔
(۷۶) قواعد نمونہ (کمپوٹیشن) سول پنشن کے تحت مجموعی پنشن کے مزید ۲۵ فی صد کے متبادل کی موجودہ گنجائش نافذ العمل رہے گی۔ تعویض مشروط طبی تصدیق نامہ نہیں ہے اگر فارغ خدمتی کی تاریخ سے ایک سال کے اندر طلب کیا جائے۔

۱۱۔ پنشن کتبہ

(۱) دوران ملازمت سرکاری ملازم کی موت کی صورت میں مجموعی پنشن کے ایک چوتھائی کے عوض موجودہ شرحوں پر انعامیہ دیا جائے گا۔ علاوہ ازیں اس کی بیوہ کو تاحیات یا اس وقت تک جب تک کہ شادی نہ کر لے پنشن کتبہ مجموعی پنشن کے ۵۰ فی صد کی شرح سے قابل منظوری ہوگی۔ بیوہ کی وفات کی صورت میں پنشن کتبہ بیٹوں کو ۱۱ کوئی ہوں۔ ۲۱ سال تک کی عمر کو پہنچنے تک اور غیر شادی شدہ بچیوں (اگر کوئی ہوں) کو جب تک کہ ان کی شادی نہ ہو جائے یا وہ ۲۱ سال کی عمر کو پہنچ جائیں، ان میں سے جو پہلے ہو، قابل منظور ہوگی۔ (وزارت مالیات دفتری نمبر ایف ۱۳ (۱۳) ریگ (۶) ۸۲ (۱) (۷) مورخہ ۱۸ اگست ۱۹۸۳)

۱۲۔ پنشن مع انعامیہ سکیم

۱۔ ایسے سرکاری ملازمین جو اپنی تنخواہ پنشن کے ایک چوتھائی سے دست بردار ہو جاتے ہیں، ان کی پنشن ر انعامیہ یا دونوں کی ادائیگی پنشن انعامیہ سکیم کی شرائط کے بموجب بطریق ذیل منضبط ہوگی۔

(۱) ایسے سرکاری ملازم کو جو ۵ سال یا زیادہ لیکن دس سال سے کم مدت کی اتصالی ملازمت انجام دے چکا ہو، تو اسے اہل ملازمت کے ہر تکمیل شدہ سال کے لیے ایک ماہ کی یافت کے مساوی انعامیہ دیا جائے گا۔ معذوری یا موت کی صورت میں یہ شرح ملازمت کے ہر تکمیل شدہ سال کے لیے ڈیڑھ ماہ کی تنخواہ

ہوگی۔ یہ رقم اسے فارغ خدمتی کے وقت یا دوران ملازمت موت کی صورت میں اس کے کنبے کو ادا کی جائے گی۔ اس صورت میں کوئی پنشن قابل منظوری نہیں ہے اور رقم کا ایک چوتھائی حصے سے دست بردار ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔

(۲) ایک سرکاری ملازم جس نے دس سال یا اس سے زائد ملازمت مکمل کر لی ہو۔ اپنی فارغ خدمتی کے وقت اپنی دست برداشتہ پنشن کے ہر روپے کے لیے مندرجہ ذیل شرحوں پر محسوب کردہ انعامیہ جمع کی قابل منظوری، ماہانہ پنشن کا ہتایا ۳/۴ لینے کا حق دار ہے۔

۔۔۔ اگر اہل ملازمت دس سال یا اس سے زائد

لیکن پندرہ سال سے کم ہے۔ = ۱۸۷/۱۸ روپے

۔۔۔ اگر اہل ملازمت پندرہ سال یا اس سے

زائد لیکن بیس سال سے کم ہے۔ = ۱۷۳/۱۷ روپے

۔۔۔ اگر اہل ملازمت بیس سال یا اس سے

زائد ہے۔ = ۱۶۰/۱۶ روپے

(۲) اس صورت میں کہ ایک سرکاری ملازم فارغ خدمتی سے قبل فوت ہو جاتا ہے تو اس کی پنشن یوم وفات کی آئندہ تاریخ سے اس طور سے محسوب کی جائے گی گویا کہ وہ پنشن معذوری پر فارغ خدمت ہو۔ اور اس کے کنبہ کو مذکورہ بالا (۱) کے اصول کی بنیاد پر محسوب کردہ انعامیہ ادا کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اس کے کنبہ کو سالم پنشن کی پیپاس فی صد ماہانہ پنشن کتبہ کے حصول کا حق بھی ہو گا۔ اس کی بیوہ کو تاحیات یا دوسری شادی تک پنشن لینے کا حق حاصل ہو گا۔ بیوی کے انتقال کی صورت میں پنشن کتبہ بیٹوں (غیر شادی شدہ اگر کوئی ہو) کے لیے قابل منظوری ہوگی جب تک کہ وہ اکیس سال کے نہیں ہو جاتے۔ بیٹوں کو جب تک ان کی شادی نہیں ہو جاتی یا وہ ۲۱ سال کی عمر کو نہیں پہنچ جاتیں۔ (جو بھی پہلے وقوع پذیر ہو) (وزارت مالیات دفتری یادداشت نمبر ایف ۱۳ (۱۳) ریگ (۶) ۸۲ (۱) (۷) مورخہ ۱۸ اگست ۱۹۸۳)۔

(iv) جہاں کوئی پنشن یاب اپنی فارغ خدمتی کے بعد فوت ہو جائے تو اس کی بیوہ یا مذکورہ بالا (۱۱) میں مذکورہ بیٹیوں یا بیٹوں کو پنشن (اضافی یا مجموعی) کے ۵۰ فی صد کی شرح سے پنشن کتبہ دی جائے گی۔

(v) سالم پنشن کے ہر ایک تعویض کی اجازت ہوگی اور اس نصف میں دست برداشتہ حصہ شامل ہو گا تاکہ غیر تعویض شدہ حصہ مجموعی پنشن کے نصف کے مساوی رہے۔

(vi) موت مع فارغ خدمتی انعامیہ کی ادائیگی کے مقصد کی خاطر سرکاری ملازم کے کتبے میں مندرجہ ذیل رشتہ دار شامل ہوتے ہیں:-

(الف) مرد سرکاری ملازم کی صورت میں بیوی یا بیویاں (جب تک کہ عدالتی طور پر علیحدگی نہ ہو، اس امر سے قطع نظر کہ بیوی اس کے ساتھ رہتی ہے یا نہیں، سرکاری ملازم کے کتبے کی رکن برقرار رہے گی۔)

(ب) خاتون سرکاری ملازم کی صورت میں خاوند۔ (ایک خاتون سرکاری ملازم اپنے خاوند کو کتبے کا رکن ہونے سے خارج کر سکتی ہے۔) وہ پنشن کتبہ کا صرف دس سال تک حق دار ہوگا۔

(ج) سرکاری ملازم کے جائز بیٹے۔

(د) سرکاری ملازم کے متوفی بیٹے کی بیویاں اور بیٹے۔

۲۔ پانچ سال کی اہل ملازمت کی تکمیل پر ہر سرکاری ملازم کو اپنی وفات کی صورت میں انعامیہ کی وصولی کا حق دینے کے لیے کسی ایک شخص یا ایک سے زائد اشخاص کی فارم اے، یا بی، میں نامزدگی کرنا چاہیے۔ اگر نامزدگی ایک سے زائد اشخاص سے متعلق ہے تو پھر ان کے نسبتی حصوں کی بھی تخصیص کی جائے۔ نامزدگی کو کسی بھی وقت منسوخ یا تبدیل کیا جاسکتا ہے۔ بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۱ اور اس کے بالا بنیادی پیمانہ کے تنخواہ کے ملازمین کی نامزدگی افسر محاسبہ کو ارسال کی جائے اور بنیادی پیمانہ تنخواہ ۱۵ تک کے اہلکاروں کی نامزدگیاں سربراہ دفتر سے ہوں۔

۳۔ جب انعامیہ کی رقم سرکاری ملازم کے کتبہ کو قابل ادا ہو تو ادائیگی مندرجہ

ذیل طریق کے مطابق کی جائے گی:-

(الف) انعامیہ کی رقم نامزد یا نامزدگان کو تصریح کردہ حصہ کے مطابق ادا کی جاتی ہے۔

(ب) جہاں جائیداد نامزدگی موجود نہ ہو یا نامزدگی پوری رقم پر محیط نہ ہو تو انعامیہ کی رقم کو (بجز ایسے بیٹوں، غیر شادی شدہ بیٹیوں، پوتوں و پوتیوں کے جن کے شوہر زندہ ہوں) ارکان کتبہ کے درمیان مساوی حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا تاہم متوفی پنشن کی بیوگان اور بچوں کا حصہ اس حد تک محدود ہو گا جو کہ اس بیٹے کے لیے اس صورت میں قابل منظوری ہوگا، اگر وہ فوت نہ ہوا تھا۔

۴۔ ان صورتوں میں جہاں سرکاری ملازم نے اپنے پیچھے کوئی کتبہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہو، انعامیہ کو اس کے بھائیوں اور غیر شادی شدہ بہنوں (جو ۲۱ سال سے کم عمر کی ہوں)، بیوہ بہنوں، والد، والدہ میں مساوی حصوں میں تقسیم کر دیا جائے گا۔ تاہم اگر سرکاری ملازم کوئی کتبہ یا مذکورہ بالا اہل زیر کفالت رشتہ نہیں چھوڑتا تو کوئی انعامیہ ادا نہیں کیا جائے گا۔

۵۔ پنشن کتبہ، سرکاری ملازم کی موت پر ارکان کتبہ یا اس کے زیر کفالت رشتہ داروں (متصل پارا-۱۱) میں مندرجہ ذیل ترتیب سے یعنی استحقاق اس وقت ایک سے دوسرے کو منتقل ہو جائے گا جب اول الذکر فوت ہو چکا ہو یا بصورت دیگر نااہل ہو جائے۔

(الف) اگر متوفی مرد سرکاری ملازم ہو تو مرحوم کی بیوہ کو یا اگر خاتون سرکاری ملازم ہو تو اس کے خاوند کو۔ اگر سرکاری ملازم کی ایک سے زائد بیویاں ہوں اور جی قائم بیواؤں اور بچوں کی تعداد چار سے زائد نہ ہو تو پنشن مساوی حصوں میں بیواؤں اور بچوں (یہ علاوہ ایسے بیٹے اور بیٹیوں کے جو ۲۱ برس سے اوپر ہوں اور شادی شدہ بیٹیاں) کے درمیان بانٹ دیا جائے گا۔ جہاں حیات بیواؤں اور بچوں کی تعداد چار سے زائد ہو تو وہاں پنشن کو اس طور سے تقسیم کیا جائے گا کہ حیات بیوہ کو پنشن کا ایک چوتھائی حصہ ملے اور بچوں کو (علاوہ

۳۔ تعویض قطعی ہو گی یعنی تعویض شدہ حصہ پیشنہ ----- کی وصولی کا حق اس تاریخ پر سوخت ہو جائے گا اور زر معاوضہ پیشنہ کا حق حاصل ہو جائے گا جس تاریخ پر میڈیکل بورڈ طبی تصدیق نامہ پر دستخط کر دے۔ اصل کارروائی کی تاریخ کچھ ہی کیوں نہ ہو، ادا شدہ رقم اور پیشنہ پر وہی اثرات مرتب ہوں گے گویا کہ زر معاوضہ پیشنہ اس تاریخ کو ادا کی گئی تھی جس پر کہ تعویض قطعی ہوئی تھی۔

۴۔ تعویض طبی تصدیق نامہ یا انتظامی منظوری کے تابع نہیں ہے بشرطیکہ اس کے لیے فارغ خدمتی کی تاریخ سے ایک سال کے اندر درخواست کی جائے۔ ایسی صورت میں فارغ خدمت سول ملازم کی درخواست کی تاریخ تعویض پیشنہ کے قطعی ہونے کی تاریخ ہو گی۔ جہاں فارغ خدمتی سے قبل تعویض کی درخواست کی گئی ہو تو تعویض فارغ خدمتی کی تاریخ پر قطعی ہو جائے گی۔

۵۔ پیشنہ کی صورت میں تعویض اس بنیاد پر مشروط طور پر منظور کی جا سکتی ہے جب پیشنہ کی حتمی منظوری دے دی گئی ہو تو حکم آخری ادائیگی کو تعویض نیز تمام دیگر مقاصد کی خاطر عارض حکم ادائیگی کے بدل قرار دیا جانا چاہیے۔ طبی وجوہ کی بنا پر قبل از وقت فارغ خدمتی کی صورت میں طبی معائنے کے تقاضوں سے دستبردار نہیں ہوا جائے گا۔

۱۳۔ جدول تعویض

۱۔ کیونٹیشن پر یک مشت ادائیگی مندرجہ ذیل جدول کے مطابق محسوب کی جائے گی۔

اگلے یوم پیدائش	تعداد سالانہ	اگلے یوم پیدائش	تعداد	اگلے یوم پیدائش	تعداد
پر عمر	خرید	پر عمر	سالانہ	پر عمر	پر عمر
۲۰	۵۰,۶۳۰۴	۳۱	۳۰,۸۰۰۷		
۲۱	۳۹,۶۶۷۶	۳۲	۲۹,۸۰۰۷	۳۳	

۳۳	۲۸,۹۸۰۰	۳۳	۲۸,۷۹۶۱	۳۳
۳۵	۲۸,۰۸۹۱	۳۴	۲۷,۷۳۶۷	۳۴
۳۶	۲۷,۱۹۹۰	۳۵	۲۶,۷۸۸۳	۳۵
۳۷	۲۶,۳۱۷۲	۳۶	۲۵,۸۴۳۳	۳۶
۳۸	۲۵,۴۳۳۳	۳۷	۲۴,۸۷۵۸	۳۷
۳۹	۲۴,۵۸۶۱	۳۸	۲۳,۹۳۱۵	۳۸
۴۰	۲۳,۷۳۰۹	۳۹	۲۳,۰۱۹۸	۳۹
۴۱	۲۲,۸۹۱۱	۴۰	۲۲,۰۹۷۹	۴۰
۴۲	۲۲,۰۶۵۸	۴۱	۲۱,۰۰۸۹	۴۱
۴۳	۲۱,۲۵۶۳	۴۲	۲۰,۱۲۱۸	۴۲
۴۴	۲۰,۴۶۳۸	۴۳	۱۹,۱۷۶۷	۴۳
۴۵	۱۹,۶۸۹۶	۴۴	۱۸,۲۳۳۶	۴۴
۴۶	۱۸,۹۳۳۸	۴۵	۱۷,۲۹۳۹	۴۵
۴۷	۱۸,۲۰۰۲	۴۶	۱۶,۳۵۵۱	۴۶
۴۸	۱۷,۴۸۶۰	۴۷	۱۵,۴۲۰۳	۴۷
۴۹	۱۶,۷۹۲۵	۴۸	۱۴,۴۸۸۵	۴۸
۵۰	۱۶,۱۱۹۱	۴۹	۱۳,۵۶۰۳	۴۹
	۱۵,۴۶۳۹	۵۰	۱۲,۶۳۶۱	۵۰
	۱۴,۸۲۹۰	۵۱	۱۱,۷۱۲۰	۵۱

۲۔ وزارتیں ریڈیو برن وغیرہ اس امر کو یقینی بنائیں کہ جب وہ طبی بورڈ کی تشکیل کے لیے طبی حکام سے رجوع کریں تو متعلقہ کالڈزات وغیرہ ہر پہلو سے مکمل صورت میں متعلقہ سرکاری ملازم کی اگلی تاریخ پیدائش سے کافی عرصہ پہلے ارسال کر دیے جائیں۔

(الف) جب کسی سرکاری ملازم کے پنشن کی حتمی تشخیص اور تصفیے سے قبل فارغ خدمت ہو جانے کا امکان ہو تو اس کے لیے متوقع پنشن کی منظوری کے لیے اقدامات کیے جاتے چاہئیں۔ اس مقصد کی خاطر حاکم مجاز منظوری متعلقہ افسر مجاز حسابہ کو فارغ خدمت ہونے والے سرکاری ملازم کی ملازمت کے تمام کوائف مہیا کرے۔ افسر حسابہ کو چاہیے کہ وہ بلا تاخیر بڑی احتیاط کے ساتھ سرسری تحقیقات کے بعد پنشن کی ادائیگی کی منظوری دے دے۔ جس کے بارے میں اسے یقین ہو کہ سرکاری ملازم اس کا حق دار ہے۔ ایسی ادائیگیاں فارغ خدمت ہونے والے سرکاری ملازم کے مندرجہ ذیل اقرار پر دستخط ہونے کے بعد ہی کی جائیں:-

ہر گاہ (بہاں پیشگی کی منظوری دینے والے افسر کا عہدہ لکھیں) نے عارضی طور پر میرے لیے مبلغ ----- روپے کی ماہانہ پنشن اور مبلغ ----- روپے کی یک مشمت انعامیہ کی رقم کی منظوری میری پنشن اور انعامیہ کی تعیین کے سلسلے میں ضروری سرکاری تحقیقات کی تکمیل کی توقع میں دی ہے۔ کہ اس پیشگی کو قبول کرتے ہوئے بذریعہ ہذا اقرار کرتا ہوں کہ میں اس امر سے پوری طرح باخبر ہوں کہ ضروری باضابطہ تحقیقات کی تکمیل پر میری پنشن انعامیہ پر نظر ثانی ہو نا اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ اگر مجھے عارضی پنشن انعامیہ اس پنشن انعامیہ سے جس کا میں آخری مستحق قرار پاؤں، متجاوز ہو تو مجھے ایسی نظر ثانی پر کوئی اعتراض نہیں ہو گا۔ میں مزید وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس پنشن اور انعامیہ سے زیادہ وصول شدہ رقم کو واپس کر دوں گا جس کا میں آخری مستحق ٹھہروں۔
(قواعد سول ملازمت دفعہ ۹۲)

(ب) اگر افسر حسابہ یہ کہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ سرکاری ملازم محض انعامیہ کا حق دار ہو گا تو ایسے امکانی انعامیہ کی اہل رقم کی ایسے ہی

اقرار پر رقم کے حتمی تصفیہ تک ماہوار ترسیل کرتا رہے۔

(ج) متوقع پنشن کی ادائیگی کا اس طور سے اہتمام کیا جائے کہ اس میں اس ماہ سے آئندہ کی یکم تاریخ سے زیادہ تاخیر نہ ہو جس ماہ میں کہ سرکاری ملازم فارغ خدمت ہونے والا ہو۔ (ضوابط ملازمت دیوانی، دفعہ ۹۲)

۱۶- پنشن زخم خوردگی، مضرت وغیر معمولی

۱- جہاں کوئی سرکاری ملازم سرکاری فرائض کی انجام دہی کے دوران زخمی ہو جائے، فوت ہو جائے یا زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ دے تو اسے اس کے کتبہ کو مندرجہ ذیل قواعد کے مطابق پنشن یا انعامیہ دیا جاسکتا ہے۔

۲- فرائض کی انجام دہی کے دوران یا ان کے نتیجہ میں مضرت پہنچنے یا موت واقع ہونے پر پنشن انعامیہ معذوریوں کی درجہ بندی اور معیار برائے تعیین نسبت پذیر کی بہ قواعد (پنشن قواعد غیر معمولی) مرکزی یا ملازمت ہائے سول جن کی کہ منسلک میں تفصیل دی گئی ہے، کے مطابق ہو گا۔ پنشن معذوری وفات اور انعامیہ کی شرح اور بیانہ مندرجہ ذیل ہو گا:-

پنشن اطفال

درجہ پنشن	انعامیہ	بچہ بلا اپنی ماں	بچہ مع اپنی ماں
(۱) تنخواہ کا ۲۰ فیصد	پنشن انعامیہ	تنخواہ کا ۵ فیصد	یا تنخواہ کا ۲۰ فیصد
فیصد یا زیادہ سے	معذوری چھ	زیادہ سے زیادہ ۱۰۰	زیادہ سے زیادہ
زیادہ ۶۰۰ روپے	ماہ کی تنخواہ	روپے اور کم سے	۵۰ روپے اور کم
اور کم سے کم		کم ۵۰ روپے ماہوار	کم ۲۵ روپے ماہوار
۱۰۰ روپے ماہوار		نی بچہ کے تابع	نی بچہ کے تابع

(نوٹ) وفات کے بعد ہر بیوہ کو ملے گی

تختواہ کا ۱۵ فیصد	ندارد	تختواہ کا ۳ فیصد	تختواہ کا ۲ فیصد زیادہ
زیادہ سے زیادہ		زیادہ سے زیادہ ۸۰	سے زیادہ ۳۰ روپے
۳۵۰ روپے اور کم		روپے اور کم سے	کم سے کم ۳۰ روپے
سے کم ۷۵ روپے		کم ۳۰ روپے فی	فی بچے کے تابع
فی ماہ کے تابع		ماہ کے تابع	
(ج) ایضاً	ندارد	ندارد	ندارد

پنشن ر انعامیہ (خصوصی کنبہ) وفات

تختواہ کا ۲۰ فیصد	تختواہ کا ۱۰ فیصد	تختواہ کا ۵ فیصد	تختواہ کا ۲ فیصد
زیادہ سے زیادہ	زیادہ سے زیادہ	زیادہ سے زیادہ	زیادہ سے زیادہ
۶۰۰ روپے اور کم	۱۰۰ روپے اور کم	۵۰ روپے اور کم	۵۰ روپے اور کم
سے کم ۱۰۰ روپے	سے کم ۵۰ روپے	سے کم ۲۵ روپے	سے کم ۲۵ روپے
ماہوار کے تابع	فی بچے کے تابع	ماہوار فی بچے کے	تابع ہوگی
ہوگی	ہوگی	تابع ہوگی	

۳- حسب حال، پارا ہذا میں مذکورہ پنشن ر انعامیہ معمول کے قواعد کے تحت قابل منظوری پنشن اور انعامیہ کے علاوہ ہوں گے۔

۴- قواعد ہذا کا ان سرکاری ملازمین پر بدستور اطلاق ہو گا جن کا اندرون پاکستان ملازمت خارجہ میں تبادلہ ہو گیا۔ اس ضمن میں کسی بھی مطالبہ کی ذمہ داری خارجی آجر پر ہوگی۔

(مالیات ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ایف ۲ (۳) ریگ ۷، ۷۳، سورہہ ۳۱ مئی

(۱۹۷۳)

منسلک

حصہ (i)

اقسام معذوری

قسم "الف"

۱- ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کا ضیاع یا دو یا دو سے زائد اعضاء کے استعمال سے

محرومی۔

۲- بینائی کا مکمل ضیاع۔

۳- قوت گویائی کا مکمل ضیاع۔

۴- دونوں کانوں کا مکمل بہرہ بین۔

۵- آدھے دھڑ یا نصف جانب کا فالج۔

۶- دیوانگی (جنون)۔

۷- چہرے کا بری طرح مسخ ہو جانا۔

۸- ناقابل علاج مرض کی انتہائی صورتیں۔

۹- زخم، مضرت یا بیماریاں جو کہ ایسی ناتوازی پر منتج ہوں کہ جن کے باعث ایک

شخص معذور ہو جائے۔

۱۰- آختگی (مخنیٹ)۔

اشارہ: اگر کوئی زخم، مضرت یا بیماری اعضاء، اعصاب، جوڑے یا عضلات کے

ضیاع پر منتج ہو اور اس کی وجہ سے عضو مکمل طور پر ناکارہ ہو جائے تو یہ اس

عضو کا ضیاع متصور ہو گا۔ ایسے معاملات جن میں جزوی کارکردگی برقرار رہے،

اس قسم میں شامل نہ ہوں گے تاہم اگر ٹانگ کی صورت میں جزوی کارکردگی کی

برقراری سے چلنے میں مدد نہ ملتی ہو یا جزوی استعداد کے باوجود کسی چیز کو تھامنا نہ

جاسکتا ہو تو اسے کارکردگی کا مکمل ضیاع تصور کیا جائے گا۔ ایسے معاملات کو بھی

اس قسم میں شامل کیا جائے گا جس میں معذوری کی وجہ سے سول ملازم کسی

صلاحیت سے مکمل طور پر محروم ہو جائے۔

قسم "ب"

۱- انگوٹھے یا کم سے کم تین انگلیوں کا ضیاع۔

۲- نچنے کے نیچے ایک یا دونوں پاؤں کا جزوی ضیاع۔

۳- ایک آنکھ کی بینائی کا ضیاع۔

۴- ایک یا دونوں پاؤں کی تمام انگلیوں کا ضیاع۔

۱۔ مضرت کی وجہ سے جوڑوں کی محدود حرکت۔

۲۔ ایک عضو کی بیماری جو فرائض کی بجا آوری کو محدود کر دے۔

اشارہ: تاگر کوئی زخم، مضرت یا بیماری جو معذوری کا موجب ہو اور وہ جدول بالا میں مذکور ہو تو معذوری کی تشخیص مذکور بالا اقسام کے پیش نظر طبی بورڈ کرے گا۔

حصہ (ii)

معذوری منسوب بہ ملازمت کے تعین کے اصول اور ضابطہ کار

(الف)۔ زخم یا مضرت کے باعث حادثات

۱۔ ایسی صورتوں میں یہ ثابت کرنا ہو گا کہ حادثہ فرائض منصبی کی انجام دہی کے نتیجے میں پیش آیا تھا۔

۲۔ جہاں مضرت، ملازمت میں مضر خطرے کا نتیجہ ہو تو نسبت پذیری تو موصولہ مضرت کو متعلقہ بہ ملازمت تسلیم کیا جائے گا لیکن اگر وہ سیر کے لیے باہر نکلا ہو اور پاس سے گزرتے ہوئے ٹرک سے ٹکرا کر زخمی ہو جاتا ہے تو اس کی رعایت کا مستحق نہ ہو گا۔

(ب) بیماریوں کے باعث حادثات

۱۔ کسی بیماری کے نتیجے میں پیدا ہونے والی معذوری کو صرف اس وقت متعلق بہ ملازمت تصور کیا جائے گا جب یہ براہ راست ان خطرات کی وجہ سے ہو جو کہ ملازمت میں فریضے سے متعلق خاص حالات سے منسوب ہوں۔ ایسے معاملات میں اس کے متعلق یہ ملازمت ہونے کا تعین کرتے وقت اس طرف خاص توجہ درکار ہے کہ آیا کس خاص علاقہ میں یا خاص نوعیت ملازمت سے کسی مرض میں

بتلا ہونے یا اس کے لگ جانے کے غیر معمولی خطرے کا امکان تھا نیز یہ بھی دیکھا جائے کہ کیا احوال واقعی سے اس کی تائید ہوئی ہے؟

۲۔ اگر مرض فرائض کی فی الواقع بجا آوری کے عرصے میں لاحق ہوا ہو لیکن متعلقہ طبی افسر مجاز کی رائے میں اس کے لاحق ہونے کی وجہ سے وہ خطرات نہ ہوں جنہیں ایسی سرکاری ڈیوٹی سے تسلیم کیا جاسکتا ہو تو اس کے متعلق یہ بہ ملازمت ہونے کو تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

۳۔ جہاں مرض یا اس میں شدت کے فریضے میں مضر خطرے کے نتیجے میں پیدا ہونی ہو تو نسبت پذیری شدت کو تسلیم کیا جائے گا۔

۴۔ تپ، دق، شعی، درمہ کے تمام معاملات صرف اس صورت میں متعلق بہ ملازمت تسلیم کیے جائیں گے جب کہ لمبی رائے سے اس کی تائید ہوئی ہو، تسلیم کر لیا جائے گا۔

۵۔ کوئی فرد دن بھر ۲۴ گھنٹے ڈیوٹی پر شمار ہوتا ہے۔ بجز اس کے کہ وہ اتفاقاً رخصت کے سوا کسی دیگر رخصت پر ہو۔

۶۔ ایک شخص کو اس وقت ادائیگی فرائض پر مامور تصور کیا جائے گا جب۔۔۔۔۔

(i) وہ اپنے صدر مقام پر اتفاقاً موجود ہو۔

(ii) وہ رخصت کے دوران سرکاری خرچ پر سفر کر رہا ہو۔

(iii) وہ فریضے پر جائے یا وہاں سے واپس جانے کے لیے سفر کر رہا ہو (یعنی رہائش گاہ سے فریضے کی جگہ پر آنے اور وہاں سے واپس جانے کے لیے) لیکن اس وقت نہیں جب وہ اپنی رہائش گاہ پر ہو۔

(iv) وہ فریضے پر ہے۔۔۔۔۔ سفر کر رہا ہو یعنی جہاں یہ ثابت ہو جائے کہ اگر فریضے کا تقاضا نہ ہوتا تو وہ ہرگز غزنہ کر رہا ہوتا۔

۷۔ جو معذوری قطعی طور پر ذاتی فعل کا نتیجہ ہو مثلاً "شیو کرنا یا ایسے ہی نجی کاموں کے نتیجے میں پیدا ہونے والی معذوری کو عموماً" متعلق بہ ملازمت نہیں سمجھا جائے گا۔

نہیں جو بوجہ ناجائز استعمال سرکاری فنڈ یا حکومت کو پہنچائے گئے نقصان اس کے ذمہ ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ان بتایا جات کی وصول کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں نیز اگر ملازم کے خلاف کوئی ضابطے کی کارروائی درکار ہے تو اس کا بھی فوری تصفیہ کیا جائے تاکہ فارغ خدمتی کی تاریخ سے پہلے یہ سارے معاملات طے پا جائیں تاکہ پنشن کی تیاری کے سلسلے میں کسی قسم کی رکاوٹ آئے نہ آئے۔

(د) درخواست میں ایس۔ آر۔ ۹۰۷ کی شرائط کے مطابق ہر ملازم کو اپنے مفاد کے پیش نظر میں ایس۔ آر۔ ۲۰ کے حصہ ۱ میں فارغ خدمتی کی اصل یا متوقع تاریخ سے ۶ ماہ قبل ایک محکمہ درخواست پیش کرے۔

(۱) اگر فارغ خدمت ہونے کی اصل تاریخ کا ۶ ماہ قبل اندازہ لگانا ممکن نہیں تو جوں ہی تاریخ خدمتی کی تاریخ کا معاملہ طے ہو جائے فوراً درخواست برائے پنشن پیش کی جائے۔

(۲) اگر کوئی آفیسر چھ ماہ سے زیادہ رخصت یا قبل فارغ خدمتی پر جا رہا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ اس طرح کی رخصت پر جانے سے قبل ہی درخواست پنشن مع تین نمونے دستخط ۳ فوٹو اور انگوٹھے اور انگلی کے نشانات کے دو سیٹ پیش کرے۔ البت سکیل ۲۱ اور اوپر کے افسران کے لیے فوٹو اور نشانات انگوٹھا کی ضرورت نہیں۔

(۳) کاپی کارروائی کے حصہ ایک اور اس کی شق ۱ تا ۵ کو درخواست دہندہ کی دستخط شدہ وصول کردہ کاپی سے نقل کر کے بھرا جائے۔ نیز حصہ دوم کے حصہ دوم کی شق کو بھی پُر کیا جائے۔

(۴) پنشن فارم اور حصہ دوم کی شق (۶) کو پُر کرنے کے بعد اس کی ایک کاپی دفتر میں رکھنے کے بعد اسے حاکم مجاز کو بھیجا جائے۔

(۵) درخواست پنشن کے ساتھ ایسے تمام سرٹیفکیٹس جو تاریخ فارغ خدمتی سے پہلے حاصل ہو سکتے ہیں لگائے جائیں اور اس کے ساتھ تصدیق ناموں

۸۔ ادائیگی فرائض کے دوران تشدد کے نتیجے میں پیدا ہونے والی معذوری کو متعلق بہ ملازمت سمجھا جائے گا۔ بجز اس کے قرائن کسی مختلف نتیجے کی نشاندہی کریں۔

۹۔ اگر حالات ایسے ہیں کہ معذوری میں ملازمت کو کوئی دخل نہ ہو تو نسبت پذیری تسلیم نہیں کی جائے گی۔

مثال:۔۔۔۔۔۔ اگر ایک شخص فرینے کے دوران موٹر سائیکل چلاتے ہوئے ٹرک سے ٹکرا جائے۔

۱۰۔ کانڈنٹ پنشن کی تیاری اور پنشن کی منظوری

فارغ خدمت ہونے والے سرکاری ملازم کی پنشن کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنانے کے لیے متعلقہ حکام کو درج ذیل طریق کار اپنانا چاہیے۔

(الف) سربراہان محکمہ جات (سکیل ۱۲ اور اس سے اوپر کے افسران کی صورت میں) اور سربراہان افسران ملازمین (سکیل ۱ تا ۵ کی صورت میں) متعلقہ ملازم کی تحریری درخواست جو کہ فارغ خدمتی سے ۶ ماہ پیشتر پیش کی جاتی ہے، کی انتظار کیے بغیر فارغ خدمتی کی متوقع تاریخ سے ایک سال قبل فارم سی ایس آر۔ ۲۵ (نظر ثانی شدہ)۔ کانڈنٹ پنشن کی تیاری شروع کر دیں۔۔۔۔۔۔ (خزانہ ڈویژن دفتر پی ایچ ڈی نمبر ۱۵) آر ای کی (۶) ۷۷۷ مورخہ ۲۳ فروری ۱۹۷۷

(ب) سربراہ محکمہ افسر متعلقہ دفتر سی ایس آر۔ ۲۵ (نظر ثانی شدہ) حصہ دوم کی شق ۲ تا ۵ جس میں اہل ملازمت، جمہوری پنشن، اوسط یافتہ یا یافتہ انعامیہ کو تفصیل موجود ہے، کو فارغ خدمتی سے ایک سال قبل بھرتا شروع کر دے۔

(ج) کانڈنٹ پنشن کی تیاری کے ساتھ ہی ساتھ حاکم مجاز محکمہ متعلقہ ملازم کا ریکارڈ دیکھے اور یہ معلوم کرے کہ آیا اس کے ذمہ کوئی ادائیگیاں تو باقی

رکافذات کی فہرست لگائی جائے۔ تمام دستاویزات کے ساتھ الف، ب، ج کے نشانات لگائے جائیں۔ پیش مندرجہ کی صورت میں تصدیق نامہ منظوری (اصل) ساتھ منسلک کیا جائے اور وہ دستاویزات کو فارغ خدمتی سے پہلے حاصل نہیں کیے جاسکتے، کی فہرست ملحقہ بعد میں ارسال کی جائے۔

(ج) حاکم مجاز منظوری فارم کے حصہ دوم کی شق (۷) کو پر کرے۔ قواعد کے مطابق اس وقت تک مجموعی پیش کی منظوری نہیں دی جاسکتی جب تک کی گئی اصل ملازمت کی منظوری نہیں ہو جاتی۔ اگر انجام دی گئی ہو، ملازمت سے کٹوتیاں کر سکتا ہے۔ البتہ یہ کٹوتیاں اس وقت نہیں کی جاسکتیں جب کہ متعلقہ سرکاری ملازم کو تحریری طور سے ان کٹوتیوں کا نوٹس نہیں دیا جاتا۔

(فنانس ڈویژن اعلان نمبر ایس آر او ۳۸۲/۳ کے ف ۱۰ (۷) آر ای جی (۶) مورخہ ۳۰ مارچ ۱۹۷۲)

(ط) فارم کے حصہ دوم کی شق (۷) کو مکمل کرنے کے بعد حاکم مجاز منظوری کو چاہیے کہ وہ اس دفتری حساب کو مع مرسلہ بھیج دے۔ ایسے ملازمین جو دوسرے محکموں میں ادھار پر فرائض انجام دے رہے ہوں ان کی پیش سے پہلے میں افسر محاسب عارضی ملازمین کی صورت میں ان کے موجودہ محکمہ وزارتہ ڈویژن کی وساطت سے ان کی پیش کو حتمی شکل دے گا اور مستقل ملازم کی صورت میں اس اصل محکمہ وزارتہ ڈویژن کی وساطت سے، اس کی بنیادی تقرری کی بنیاد پر پیش کو آخری شکل دے گا۔

(ق) افسر محاسبہ حصہ اول اور حصہ دوم کی پوری طرح جانچ پڑتال کے بعد ملازم کی اہلیتی ملازمت کے دو ایسے یا پیش کی رقم اور انعامیہ کی رقم کے متعلق اپنی حتمی رائے کو فارم کے حصہ ۱۱ میں درج کرے گا۔ افسر محاسبہ کو چاہیے کہ پیش سے متعلقہ تمام دستاویزات، معلومات کی موجودگی میں فارغ

خدمت کی تاریخ سے پندرہ روز پہلے حکم نامہ ادا ہوگی جاری کر دے۔

۱۸۔ پیش کے جلد تصفیہ کے لیے اقدامات

پیش کے جلد تصفیہ کے لیے اقدامات کی سلسلے میں فنانس ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ف-۶(۳)۱-۱۸، مورخہ ۲۳-۳-۱۹۸۱ کی وساطت سے تمام وزارتوں، ڈویژنوں، محکموں کو درج ذیل ہدایات جاری کی گئی تھیں۔

(الف) مواجب پیش

ضوابط سول ملازمین کی دفعہ ۳۸۶ کے مطابق مواجب پیش درج ذیل ہوں گے:-

(۱) تنخواہ جس کی بنیادی قاعدہ ۹ (۱۳) الف (۱) میں تعریف کی گئی ہے۔

(۱) مقدم اساسی الاؤنس

(۲) خصوصی تنخواہ

(۳) ذاتی تنخواہ

(۴) فنی تنخواہ

(۵) رخصت قبل از فارغ خدمتی کے دوران ہونے والا اضافہ

(۶) تنخواہ میں کوئی اور اضافہ جسے خصوصی طور پر پیش کے لیے شمار کرنے کے لیے مواجب قرار دیا گیا ہو۔

موجودہ تصفیہ طلب پیش معاملات جن میں تصدیق ملازمت اور تنخواہ کی یکمیشن وغیرہ کا اندراج نہیں ہے، کو نمٹانے کی خاطر پہلے سے موجودہ ریکارڈ پر انحصار کرنا پڑے گا۔

۱۔ ان احکامات کے اجرا کے ۱۳ ماہ کے اندر اندر تمام سرکاری ملازمین کی

ملازمت (قواعد کے مطابق) متعلقہ انتظامیہ اور حاکم مجاز حسابات مکمل کر لیں۔

۲۔ اگر گورنمنٹ ملازمین کے تنخواہ کے حسابات کمپیوٹ نہیں ہوئے تو ۱۳ ماہ کے اندر اندر ان کو کمپیوٹرائزڈ کیا جائے۔

۳۔ کمپیوٹر سلف میں کچھ اس طرح تبدیلی کی جائے کہ اس میں سرکاری ملازم کی کل اوسط ملازمت، ملازمت کی ٹنک یا عاری ہونا کی نشاندہی اور انعامیہ کے مقصد کے لیے نامزدگی کا بھی واضح اشارہ موجود ہو۔

۴۔ اگر کچھ حسابات تنخواہ کو جاری احکامات کے ۱۳ ماہ کے اندر کمپیوٹرائزڈ نہیں کیا جاسکتا تو پھر حاکم مجاز مجاہد کو چاہیے کہ وہ ہر سال سرکاری ملازمین کو اہل ملازمت کا سرٹیفکیٹ دیں، اور نامزدگی کے سلسلے میں کاغذات کو روکنے کا بھی سرٹیفکیٹ دیں جب تک کہ یہ سارا ریکارڈ تنخواہ سلف پر نہیں آجاتا۔

(ب) اگر کوئی سرکاری ملازم سفارتی ملازمت میں اندرون ملک یا بیرون ملک مستعار المحدثی پر ہو تو اس کی پنشن میں شراکت کو اس دوران یقینی بنایا جائے۔

(ج) متوقع پنشن

پنشن کی ادائیگی میں تاخیر سے بچنے کے لیے انتظامیہ اور حاکم مجاز مجاہد حسابات کو متوقع پنشن کے سلسلے میں اپنے اختیارات استعمال کرنے چاہئیں۔

(د) غیر طلبی تصدیق نامہ

آفس کی طرف سے غیر طلبی تصدیق نامہ کی عدم موجودگی میں پنشن کو نہیں روکنا چاہیے البتہ فارغ خدمتی سے چھ ماہ قبل آفس کو بتا دیا جائے کہ متعلقہ ملازم کے ذمہ کوئی واجبات ہیں تو اس کے مطابق پنشن سے وصولی کر لی جائے تاکہ وقت پر مشکل پیش نہ آئے۔

۱۹۔ تصدیق نامہ آخری تنخواہ

فارغ مدت ہونے پر سرکاری ملازم کا تصدیق نامہ آخری تنخواہ کا اجرا افسر

حسابات اور محاسبہ حاکم مجاز کے لیے عرصہ فارغ مدت کے پندرہ روز پہلے ضروری ہے۔

۲۰۔ قلعہ تناسب

پنشن کے سلسلے میں مقامی صوبائی محکموں کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہو تو اسے افسر محاسبہ اکاؤنٹس طے کریں۔ متعلقہ ملازم کی پنشن کے آرڈر کے اجرا میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔

(۱) جہاں تک تعویض پنشن کا تعلق ہے اس کا انحصار طبی امتحان پر ہوتا ہے۔ اگر تعویض معذوری پنشن کے لیے ہے تو فارغ خدمت ہونے والے ملازم اور ایک سال کے لیے فارغ خدمت ہونے والے ملازمین تعویض پنشن کے بعد مجوزہ فارم ایس۔ ۱۵۶ (الف) اور ۱۵۶ (ب) اور ۱۵۶ (ج) طبی حاکم مجاز فارغ خدمت ملازم کا معائنے کے بعد انہیں سفارشات دفتر محاسبہ کو بھیجیں گے۔

(وزارت خزانہ بشف۔ ۱۳-۳) آر۔ ۸۹/۶ مورخہ ۲۳-۱-۹۲

۲۱۔ منسلک جات

(الف) سرکاری ملازم کے فارغ خدمت ہونے پر پنشن کے لیے مطلوبہ

دستاویزات

- ۱۔ محکمہ مراسلہ برائے ترسیل
- ۲۔ کاغذات پنشن (فارم سی ایس آر۔ ۲۰ کے دو سیٹ)
- ۳۔ سروس بک (جہاں ضروری ہو)
- ۴۔ آخری تنخواہ
- ۵۔ محکمہ کی طرف سے عدم اعتراض سرٹیفکیٹ (دو کاپیاں)
- ۶۔ اس کی طرف سے عدم اعتراض سرٹیفکیٹ
- ۷۔ معاہدہ نامہ کہ زائد ادائیگی کی مدت میں وہ رقم واپس کرے گا۔
- ۸۔ تصدیق نامہ حصہ پنشن برائے دورانیہ

باقاعدہ وصول کر کے خزانہ سرکاری میں جمع کرا دیا گیا۔

۹۔ رضامندی برائے تفویض (دو کاپیاں)

۱۰۔ اعلان فارغ خدمتی ردفتری حکم نامہ

۱۱۔ فوٹو گراف (تین کاپیاں)

۱۲۔ تصدیق شدہ دستخط کے نمونے (تین کاپیاں)

۱۳۔ بنگ کا نام جہاں سے پنشن نکلوائی جائے گی۔

۱۴۔ اس امر کی تصدیق کہ میں فارغ خدمتی کے دو سال بعد تک سیاست

میں حصہ نہیں لوں گا (دو کاپیاں)

۱۵۔ فہرست ممبران کنبہ (دو کاپیاں)

۱۶۔ شناختی کارڈ کا تہر اور تین تصدیق شدہ شناختی کارڈ کی نقول

(ب) دوران ملازمت ملازم سرکاری ملازم کی وفات کی وفات کی صورت

میں بیوہ کی پنشن کے لیے مطلوبہ دستاویزات

۱۔ محکمہ کی جانب سے مراسلہ پیش روی

۲۔ کانڈنٹ پنشن (فارم سی ایس آر۔ ۲۵ کے دو سیٹ)

۳۔ سروس بک

۴۔ تصدیق نامہ آخری تنخواہ

۵۔ محکمہ کی طرف سے تصدیق نامہ عدم طلبی

۶۔ آفس سے تصدیق نامہ عدم طلبی

۷۔ اس امر کا وعدہ کہ اگر مجھے سرکار کسی طرف سے زائد رقم وصول

ہوئی یا میرے ذمہ جو بھی ادائیگیاں ہوں گی وہ ادا کروں گا۔ (دو کاپیاں)

۸۔ سرٹیفکیٹ کہ حصہ پنشن وصول کر لیا گیا ہے اور اسے سرکار میں جمع

کرا دیا گیا ہے۔

۹۔ اعلان فونگی ردفتری حکم نامہ

۱۰۔ تصدیق نامہ فونگی (اصل)

۱۱۔ افراد کنبہ کی فہرست مع عمر (دو کاپیاں)

۱۲۔ بیوہ کی طرف سے عدم علیحدگی دوبارہ شادی نہ کرنے کا تصدیق نامہ

(دو کاپیاں)

۱۳۔ بیوہ اور ممبران کنبہ کا کردار نامہ (دو کاپیاں)

۱۴۔ بیوہ کار نمونہ دستخط نشان انگوٹھا جو کہ تصدیق شدہ کی تین کاپیاں۔

۱۵۔ تصدیق شدہ فوٹو گراف کی تین کاپیاں

۱۶۔ بنگ کا نام جس سے پنشن وصول کی جائے گی

۱۷۔ انعامیہ کے لیے نامزدگی نہ ہونے صورت میں اگر کسی کو اختیار نامہ دیا

گیا ہو کہ وہ نابالغ بچے یا باغوں کا حصہ وصول کرے گا۔

(ج) جب سرکاری ملازم فارغ خدمتی کے بعد فوت ہو جائے

۱۔ محکمہ کی طرف سے پیش نامہ

۲۔ حکم نامہ سابقہ پنشن (پی پی او)

۳۔ تصدیق نامہ موت (اصل)

۴۔ اعلان موت ردفتری حکم نامہ

۵۔ براں کنبہ اور بیوہ کا برتاؤ

۶۔ نمونہ دستخط نشان انگوٹھا (تصدیق شدہ تین کاپیاں)

۷۔ تصدیق شدہ فوٹو (تین کاپیاں)

۸۔ سربران کنبہ مع عمر

۹۔ بیوہ کی طرف سے عدم علیحدگی دوبارہ شادی نہ کرنے کا تصدیق نامہ

(۲ کاپیاں)

۱۰۔ بنگ کا نام جس سے پنشن نکلوائی جائے گی۔

۱۱۔ انعامیہ کے لیے نامزدگی نہ ہونے کی صورت میں اگر کسی کو اختیار نامہ

دیا گیا ہو کہ وہ نابالغ بچے یا بچوں کا حصہ وصول کرے گا۔

وفاقی سیکرٹریٹ میں دفتری امور نمٹانے کے قواعد کار
۱۹۷۳ء کے قاعدہ ۵ (۱۵) کی تعمیل میں جاری کردہ ہدایات

۱- ہدایات معتمدی

۱- (الف) یہ ہدایات 'ہدایات معتمدی کے نام سے موسوم ہوں گی۔
(ب) یہ فوری طور پر نافذ العمل ہوں گی اور یہ کہ دفتری طریق کار سے متعلق
تمام سابقہ ہدایات و احکامات جو ان ہدایات سے مطابقت نہیں رکھتیں، منسوخ
تصور ہوں گی۔

۲- ان ہدایات میں بجز اس کے کہ متن میں درج کوئی امر اس کے متافی ہو،
قواعد کار کے قاعدہ دو میں دی گئی تعریفات کے درج ذیل معنی ہوں گے۔
(۱) "معلقہ محکمہ" سے مراد ایسا محکمہ ہے جس کا براہ راست تعلق ڈویژن سے ہو
اور اس کا اعلان وفاقی حکومت نے کیا ہو۔

(۲) بزنس (کاروبار کار) سے مراد وہ تمام کام جو وفاقی حکومت کے ذریعے ہو۔
(۳) سربراہ محکمہ سے مراد وہ آفیسر ہے جس کا اعلان حکومت بنیادی اور ضمنی
قواعد کے تحت کرتی ہے۔

- (iv) صدر سے مراد صدر پاکستان ہے۔
 (v) سینڈ (یکیشن) سے مراد ڈویژن میں کام کرنے کا بنیادی یونٹ۔
 (vi) افسر سینڈ سے مراد وہ افسر جو یکیشن کا براہ راست انچارج ہو۔
 (vii) ماتحت دفتر سے مراد وزارت ڈویژن یا ملحقہ محکمہ کے علاوہ وفاقی حکومت کا کوئی دفتر۔

۲۔ تقسیم کار

وزارت ڈویژن کے سربراہ کی حیثیت سے معتمد کی ذمہ داری اور فرائض:

۱۔ وزارت ڈویژن کا سرکاری سربراہ ہونے کی حیثیت سے معتمد اس کے موثر انتظام و انصرام اور نظم و ضبط کا ذمہ دار ہو گا۔ وہ قواعد کار کے قاعدہ تین کے تحت ڈویژن کو سپرد کیے گئے امور و طریق کار اور دی گئی ہدایات کے مطابق کام کی انجام دہی کا بھی ذمہ دار ہو گا۔

۲۔ معتمد کی یہ ذمہ داری ہو گی کہ وہ اس امر کو یقینی بنائے کہ متعلقہ موضوع پر معاملات، وزیر انچارج یا جہاں کہیں قواعد کے مطابق وزیر اعظم، صدر یا کابینہ کو پیش کرنے ہوں، وہ مکمل شکل میں پیش کیے جائیں۔

نوٹ:۔ دی گئی ہدایات کی پیروی میں وزارت ڈویژن میں موضوعات کی تقسیم قواعد کار کے مطابق ہوں۔

۳۔ (ایک) معتمد اپنے ماتحت کام کرنے والے افسران کے اختیارات کا تعین اور ان کو تفویض کردہ فرائض کے واضح احکامات جاری کرتا ہے اور معاملات کے تسوید کے طریقے کا تعین اور تسلی بھی کرتا ہے: کہ

(الف) کام کی تقسیم درست اور مساوی ہوئی ہے۔

(ب) معاملات کو پیش کرنے کا طریقہ عمودی ہے تاکہ افقی۔

(ج) کیس کو جن درجات سے گزرتا ہے وہ عام طور پر بشمول معتمد کے دو سے

زائد نہیں ہیں۔ اور

(د) معتمد رپورٹنگ سسٹم کے ذریعے معاملات کے درست تسوید کی غرض سے مختلف افسران کے اختیارات پر وقتاً فوقتاً سے نظر ثانی کرے گا۔

۴۔ اضافی معتمد یا شریک معتمد جب وہ وزارت ڈویژن کا انچارج نہ ہو، تو اسے ایک خاص حلقہ اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ کسی کیس کو احکامات کے لیے براہ راست وزیر کو بھیجے۔ یہ کیس انہیں معتمد کی وساطت سے واپس آئے گا۔ اب یہ معتمد کی صوابدید پر منحصر ہے کہ اگر وہ مناسب تصور کرے تو اس کیس پر بالمشافہ گفتگو کے لیے انہیں طلب کر سکتا ہے، ورنہ وہ اس کیس کو براہ راست وزیر کو بھیجے گا۔

۵۔ نائب معتمد کو ایسے تمام معاملات کو از خود نمٹانے کا اختیار ہو گا جن میں کسی اہم پالیسی کا مسئلہ درپیش نہ ہو اور اس سے متعلق واضح احکامات موجود ہوں۔

۶۔ افسر سینڈ ایسے تمام معاملات کو از خود نمٹانے کا مجاز ہو گا جن کی واضح نظیر موجود ہو اور احکامات بھی واضح ہوں۔ اگر کہیں شبہ ہو تو وہ اپنے سینئر افسر سے زبانی ہدایات لے سکتا ہے۔

۷۔ معاون اور مختصر نوٹس رائٹپ کار افسر سینڈ کے کام میں معاونت کریں گے۔

(i) معاون کے فرائض کار

۱۔ زیر غور معاملہ سے متعلقہ سابقہ کاغذات کو پیش کرنا۔

۲۔ مسلیں کھولنا اور ان کی نقل و حرکت کا ریکارڈ رکھنا۔

۳۔ تمام اہم احکامات اور فیصلوں کا نوٹ رکھنا۔

۴۔ مسلوں کا ریکارڈ انڈیکسنگ اور چھٹائی کرنا۔

۵۔ مسلوں پر ترجیح اور سیکورٹی کے لیبل لگانے کا، ضرورت کا خیال رکھنا اور افسر

سینڈ کو ان کے اتارنے کے وقت سے آگاہ کرنا، اور

۶۔ تفویض کردہ دفتری امور کے علاوہ ہلکی ٹاپنگ، ڈائری رجسٹر کو مکمل کرنا،

گوشوارے تیار کرنا اور معمول کے مراسلات یا دوہائی پیش کرنا جیسے امور سرانجام

(i) نائب قاصد کے فرائض کار

- ۱۔ دفتر کے اندر اور باہر سرکاری مسلوں اور کاغذات کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا اور واپس لے آنا۔
- ۲۔ دفتر کی صفائی کا عمومی انتظام، فرنیچر اور ریکارڈ کی جھاڑ پونجھ کرنا۔
- ۳۔ افسران کے ملاقاتیوں سے اچھے سلوک سے پیش آنا۔
- ۴۔ افسران اور عملہ کو پینے کا پانی مہیا کرنا۔
- ۵۔ خفیہ مسلوں پر مشتمل سیل کے صندوقوں کو ایک افسر سے دوسرے افسر تک لے جانا۔
- ۶۔ دفتر کے اندر ہلکے ہلکے فرنیچر، مثلاً "کرسیاں، سائیڈ ریکس، چھوٹے میز وغیرہ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانا۔
- ۷۔ دفتری اوقات میں متعلقہ آفیسر انچارج اس کے ذمہ جو کام لگائے اسے دیانتداری سے تکمیل تک پہنچانا۔

نوٹ:- دفتر کی صفائی عمومی طور پر دفتری اوقات سے پہلے یا بعد فراش کرتا ہے، لیکن اگر متعلقہ شعبہ میں فراش موجود نہ ہو تو پھر یہ کام نائب قاصد سرانجام دیتا ہے۔

- ۸۔ معتمد ارضانی معتمد صاحبان کے ذاتی معتمدین اور وفاقی سیکرٹریٹ میں کام کرنے والے ذاتی معاونین پر مختصر نوٹس درج ذیل امور سرانجام دیں گے۔

(ii) معتمد ارضانی معتمد صاحبان کے ذاتی معتمدین کے فرائض کار

- ۱۔ ٹیلیفون سننا اور ٹرنک کالوں کا ریکارڈ رکھنا۔
- ۲۔ ٹیلیفون کالوں اور ٹیلیفون کرنے والوں کی درست پہچان کرنا۔
- ۳۔ مصروفیات کو ترتیب دینا اور اس کی ڈائری تیار کرنا۔
- ۴۔ عمومی یا متفرق کاغذات کی احکامات کے مطابق درجہ وار حفاظت کرنا۔
- ۵۔ ملاقاتیوں کا استقبال کرنا اور افسر کی مصروفیات کی ڈائری کو مکمل رکھنا۔
- ۶۔ کتب حوالہ کو مکمل معلومات کی صورت میں رکھنا۔
- ۷۔ افسر کے دوروں سے متعلق تمام ریکارڈ رکھنا اور تمام متعلقہ جملہ امور انجام

- ۴۔ اجلاسوں اور انٹرویوز کے کاغذات تیار کرنا۔
- ۵۔ جو معاملات معتمدین ارضانی معتمدین کی توجہ کے مستحق ہوں انھیں بروقت مکمل شکل میں ان کے نوٹس میں لانا۔
- ۶۔ غیر سرکاری تنظیموں کے معاملات کا انڈیکس تیار کرنا۔
- ۷۔ معتمد کے کاغذات بشمول خفیہ اور اشد خفیہ کو وصول کرنا اور جہاں ضروری ہوں ان کو رجسٹر کرنا، ان کو ترتیب دینا اور ان کا انتظام کرنا۔
- ۸۔ التوا میں پڑے ہوئے معاملات کا ریکارڈ مناسب تاریخوں پر معتمد کو پیش کرنا۔

۹۔ کتب حوالہ جات کو تازہ ترین مکمل حالت میں رکھنا۔

۱۰۔ معتمد ارضانی معتمد کے دوروں اور متعلقہ کاموں کا خیال رکھنا۔

۱۱۔ معتمد کی ہدایت کے مطابق دفتری امور میں معاونت کرنا۔

۱۲۔ مسلوں اور دیگر مخصوص دستاویزات کی نقل و حرکت کا ریکارڈ رکھنا۔

۱۳۔ ملاقاتیوں کا خیر مقدم کرنا اور ان کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔

(iv) ذاتی معاونین پر مختصر نوٹس صاحبان کے فرائض:

۱۔ الملائین، نقل پیش کرنا اور ٹائپ کاری کا کام انجام دینا۔

۲۔ ٹیلیفون سننا اور ٹرنک کالوں کا ریکارڈ رکھنا۔

۳۔ مسلوں اور دوسرے کاغذات، رینیزان کی نقل و حرکت کا ریکارڈ رکھنا۔

۴۔ حسب الحکم التوا میں رکھے ہوئے امور کا ریکارڈ رکھنا اور انھیں

مقررہ مناسب اوقات پر پیش کرنا۔

۵۔ عمومی یا متفرق کاغذات کی احکامات کے مطابق درجہ وار حفاظت کرنا۔

۶۔ ملاقاتیوں کا استقبال کرنا اور افسر کی مصروفیات کی ڈائری کو مکمل رکھنا۔

۷۔ کتب حوالہ کو مکمل معلومات کی صورت میں رکھنا۔

۸۔ افسر کے دوروں سے متعلق تمام ریکارڈ رکھنا اور تمام متعلقہ جملہ امور انجام

دینا۔

۹۔ افسر کی جانب سے دیگر تفویض کردہ امور انجام دینا جن میں دستاویزات کا مہیا کرنا، دفتری سہولت کی اشیاء کا انتظام، خانہ کار کے چلنے کا ریکارڈ اور اہم ڈاک کو پی آئی اے وغیرہ سے وصول کرنا یا تقسیم کرنا شامل ہے۔

(v) افسر حسابات و مالیات کے فرائض و ذمہ داریاں:

ہر وزارت رڈیویشن میں ایک افسر حسابات و مالیات ہو گا، جو نائب معتمد یا افسر صنف، جسے بھی مناسب متصور کیا جائے، جو ہر قسم کے مالی و حسابی معاملات میں پرنسپل افسر حسابات کو مشورہ دے گا۔ اس کے پاس ماتحت افسران اور ضروری عملہ ہو گا اور وہ کھیتا اپنے کام پر توجہ مرکوز کرے گا۔ وہ مالیات ڈویژن کی طرف سے مقرر کردہ دوسرے فرائض کار اور ذمہ داریاں بھی نبھائے گا۔ وہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر کے ماتحت کام کرے گا اور اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر اس سے اگلے افسر اعلیٰ کے ماتحت کام کرے گا۔

(vi) مشیر مالیات کا کردار

مشیر مالیات کا مقصد متعلقہ وزارت رڈیویشن کے مقاصد کو (بجٹ کے اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے) حاصل کرنے میں معاونت کرنا۔ اسے انتظامی وزارت کے ابتدائی کام اور مقاصد کا علم ہونا چاہیے۔

۳۔ تصفیہ کار

۱۔ حکومت کا تمام کاروبار، قواعد کار اور اس کی ہدایات کے مطابق کیا جائے گا۔

۲۔ درج ذیل معاملات معتمد ڈویژن کو پیش کیے جائیں گے:

(الف) تمام معاملات، خلاصے اور رپورٹیں جنہیں صدر، وزیر اعظم اور کابینہ کو

پیش کرنا ہو۔

(ب) تمام معاملات جو بڑی پالیسی اور اہم انتظامی امور سے متعلق ہوں۔

(ج) تقریروں اور ترقیوں کے تمام معاملات جنہیں صدر، وزیر اعظم، انچارج وزیر، معتمد عملہ یا مجلس انتخاب کو بھیجنے ہوں۔

(د) بیرونی وفد اور بیرونی مستعار الحمد متی سے متعلقہ تمام معاملات۔

(ه) تمام ترقیاتی منصوبوں، سالانہ بجٹ اور زر مبادلہ سے متعلقہ اہم معاملات۔

(و) محکموں کے سربراہان کے تبادلوں اور ان کے فرائض سے متعلقہ تمام معاملات۔

(ز) صوبائی حکومتوں سے وصول ہونے والی تجاویز جسے نام منظور کرنے کی تجویز ہو۔

نوٹ:- جہاں ضروری ہو فہرست بالا کو شمار کیا جائے، لیکن ہدایت کے مطابق جہاں شریک معتمد یا معتمد اضافی براہ راست وزیر کو کیس پیش کرتا ہے، وہاں اس کا اطلاق نہیں ہو گا:

۳۔ دیگر تمام معاملات کا تصفیہ قواعد اور تفویض شدہ اختیارات کے مطابق افسران کریں گے۔ معتمد، معتمد اضافی یا شریک معتمد، تمام تازہ رسیدیں جو تحقیق اور تصفیہ کے لیے نیچے بھیجتے ہیں انہیں کو معتمد کو پیش نہیں کیا جاتا، تاوقتیکہ ان کی ہدایات کے مطابق معتمد کو دکھانا ہو یا اس کے لیے خصوصاً کہا گیا ہو:

۴۔ کوئی افسر ایسے کیس کو انجام نہیں دے گا جس کا تعلق اس کی اپنی ترقی، تبادلہ، تنخواہ، بھرتہ جات یا اس کے اپنے ذاتی طرز عمل سے ہو۔

۴۔ کیفیتوں کی ریکارڈنگ اور مسودہ جات کی تیاری

۱۔ ماسوائے جہاں ایک سے زائد صیغوں میں کیس پر مشورہ درکار ہو، قواعد کی رو سے کیس کی آخری سطح تک دو سے زائد افسران (ماسوائے معتمد) کیفیت نہیں لکھیں گے۔

۲۔ جب افسر اعلیٰ کو نوٹ یا سفارش سے اتفاق ہو تو وہ اس پر صرف دستخط کر

دے گا۔

- ۳۔ جن معاملات کو افسر صیغہ نمٹا سکتا ہے ان پر کسی بڑی کیفیت لکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
- ۴۔ ایسے معاملات میں جن کو صرف پڑھ کر اعلیٰ اتھارٹی فیصلہ دے سکتی ہو، ان پر عمل کرنے کے لیے تجاویز سے زائد، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔
- ۵۔ جس معاملہ میں رسمی کیفیت کی ضرورت ہے، یہ بیانی شکل میں ہونی چاہیے، جس میں اس کی تفصیل، اہمیت اور سطح کے مطابق ہو۔

(i) غور کرنے کا سوال

(ii) اس سے متعلقہ حالات

(iii) اس سلسلے میں قواعد و نظریں اور

(iv) تجاویز برائے کارروائی۔

- ۶۔ قواعد کے مطابق کمانڈ زیر غور یا اس کے بیروں کے خلاصہ جات کو کیفیت نویسی میں دوبارہ لکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے۔
- ۷۔ پیچیدہ اور طویل معاملات خصوصاً "ایسے کیسز جن میں دوسری ڈویژنوں سے حوالہ جات کا مسئلہ بھی ہو، افسر صیغہ ایک علیحدہ مسل پوش میں، ایک الگ خلاصہ (تین عدد) تیار کرے گا، جس میں تمام اہم فیصلے بھی شامل ہوں گے۔ خلاصے پر دستخط، مسل تیار کرنے والے افسر کے ہوں گے۔ اس صورت میں کیفیت میں حقائق کی تفصیل کو دہرانے کی ضرورت نہیں، البتہ خلاصہ کی ایک نقل ضرورت کے لیے رکھی جائے۔

۵۔ وفاقی سیکرٹریٹ کے دفتری عملہ کے فرائض

وفاقی سیکرٹریٹ کا دفتری عملہ ان فرائض کی بجا آوری سرانجام دیتا ہے، جو انھیں حاکم مجاز کی طرف سے تفویض کیے جاتے ہیں۔ اس ضمن میں مہتمم، کونسل کے معاونین، محرر کبیر اور محرر صغیر کے فرائض حسب ذیل ہیں:

(الف) مہتمم

- ۱۔ شعبہ صیغہ میں کام کرنے والے معاونین اور محرر صاحبان کے کام کی نگرانی۔
- ۲۔ اپنے اعلیٰ افسران کے معاملات کو مکمل اور درست شکل میں پیش کرنا۔
- ۳۔ شعبہ صیغہ میں نظم و ضبط اور صفائی کا خیال رکھنا۔
- ۴۔ دفتری قواعد و ضوابط کے مطابق تمام امور انجام دینا۔
- ۵۔ شعبے میں امن و امان برقرار رکھنے ہوئے تمام جملہ امور کی انجام دہی۔

(ب) معاون کونسل

- ۱۔ اسمبلی سوالات، قراردادوں، تحاریک التوا وغیرہ اور ان کے جوابات، بحث کی تاریخوں کا مکمل ریکارڈ رکھنا۔
- ۲۔ اسمبلی سوالات، سرکاری و غیر سرکاری قراردادوں، تحاریک التوا وغیرہ اور وزارت میں دوسری تحاریک جو مختلف شعبوں کے تحت لائی جاتی ہیں سے متعلقہ کام میں رابطہ پیدا کرنا۔
- ۳۔ سوالات اسمبلی کی مسلوں کی نقل و حمل کی نگرانی کرنا۔
- ۴۔ وزیر اور متعلقہ پارلیمانی سیکرٹری، وزارت، ڈویژن کے لیے جوابات کو درست شکل میں تیار کرنا۔
- ۵۔ اسمبلی کے اجلاس میں جانا اور اپنی وزارت سے متعلقہ سوالات اور ضمنی سوالات کو لکھنا اور اس میں مزید پیش رفت کو نوٹ کرنا۔
- ۶۔ اسمبلی سوالات، قرار دادوں اور تحاریک التوا سے متعلقہ کوئی دوسرا سونپا گیا کام۔

عرصہ کے لیے خالی ہوتی ہے لہذا اس عرصے کا کام مناسب وجوہات کی بنا پر ہونا ممکن نہ ہو تو ایسی اسامی کا عارضی طور پر وقتی چارج اس کیڈر میں اس ادارے کے مقدم ترین آفیسر کو جو اس عرصے کے لیے ترقی کی اہلیت بھی رکھتا ہو، کو دیا جاسکتا ہے۔

۲۔ کئی محکموں میں اس وقت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، جب وہاں پر کسی اعلیٰ عہدے پر مختصر مدت کی ترقی کے لیے بھی معمول کے تمام مراحل سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ وقت طلب ہے۔ اس معاملہ پر وزارت خزانہ کے مشورے سے غور کیا گیا اور اس شکل پر قابو پانے کے لیے صدر نے کرنٹ چارج پر تقرری کے لیے درج ذیل افسران کو اختیارات دیے ہیں:

(۱) معتدین رضائی معتدین

(۱۱) ملحقہ محکمہ جات کے سربراہان جو گریڈ ۲۱ سے کم نہ ہوں، بشمول چیئرمین فیڈرل پبلک سروس کمیشن اور چیئرمین فیڈرل انسپکشن کمیشن، اپنے افسران کی صورت میں (برائے گریڈ ۱۷ تا ۲۰)۔

(۱۲) آڈٹ ڈیپارٹمنٹ کے لیے ڈیپٹی جنرل آف پاکستان (گریڈ ۲۰ تک)۔

(۱۳) ملٹری اکاؤنٹس ڈیپارٹمنٹ کے لیے ملٹری اکاؤنٹس جنرل (گریڈ ۲۰ تک)۔

(۱۴) ریلوے آڈٹ ڈیپارٹمنٹ کے لیے ممبر فنانس، ریلوے ڈیپارٹمنٹ (گریڈ ۲۰ تک)۔

(۱۵) سربراہ ادارہ جو گریڈ ۲۰ سے کم نہ ہو، بمطابق ایس۔ آر۔ ۲ (۱۰)۔ (گریڈ ۱۷ اور ۱۸ کے لیے)۔

۳۔ تفویض کردہ اختیارات درج ذیل شرائط سے مشروط ہوں گے:

(۱) یہ انتظام ایک ماہ سے کم عرصہ یا تین ماہ سے زائد عرصہ کے لیے نہیں کیا جائے گا، البتہ یہ اعلیٰ اہلیت مجاز کی منظوری سے مزید تین ماہ کے لیے بڑھایا جاسکتا ہے۔

(۲) جو نئی کرنٹ چارج دیا جائے اس کے ایک ماہ کے اندر باقاعدہ تقرری کا

(ج) محرر کبیر

۱۔ ریکارڈنگ اور انڈیکسنگ کرنا۔

۲۔ رسید، اجرا اور جنرل برانچوں کی نگرانی جہاں پر ان برانچوں کا چارج محرر کو دیا جاتا ہے۔

۳۔ بوقت ضرورت رات کے وقت فرائض کی انجام دہی۔

۴۔ تنخواہ کے بلوں کی تیاری اور

۵۔ خازن کی ذمہ داریاں۔

(د) محرر صغیر

۱۔ مراسلات ٹائپ کرنا۔

۲۔ ڈاک ڈائری کرنا۔

۳۔ ڈاک کی وصولی اور اجراء کے فرائض انجام دینا۔

۴۔ مسلوں کی دیکھ بھال اور ان کا ریکارڈ رکھنا۔

۵۔ رجسٹری رسیدوں کی حفاظت کرنا۔

۶۔ مسلوں کو ترتیب سے رکھنا اور ان کی حفاظت کرنا۔

۶۔ وقتی رضائی چارج اور قائم مقام چارج پر تقرریاں

سلسلہ نمبر ۱۳

۱۔ موجودہ ہدایات کے مطابق بذریعہ ترقی اعلیٰ اسامیوں پر تقرریاں باقاعدہ انتخابی طریق کار، جس میں مرکزی سلیکشن بورڈر، محکمہ پدموشن، کمیٹی اور ہیٹ مجاز جو واقع ہونے والی اسامی پر تقرری کا مجاز ہو، کی منظوری شامل ہے، کے مطابق کی جاتی ہیں۔ البتہ، ایسے حالات جن میں کسی اعلیٰ عہدے کی اسامی جو دو ماہ سے کم

معاملہ اٹھایا جائے اور اسے ڈی پی سی ایس بی کو بھیجا جائے۔

(iii) کرنٹ چارج دینے کا انتظام کرتے وقت اس ادارے میں موجود اس مقدم ترین آفیسر جو اس اسامی پر ترقی کا اہل ہو، کو اس کے لیے موزوں تصور کیا جائے۔

۳۔ ایک آفیسر جس کی اعلیٰ عہدے پر کرنٹ چارج پر تقرری ہوتی ہے، وہ ایف۔ آر۔ ۳۵ اور سرکاری ملازمین ایکٹ ۱۹۷۳ء کی دفعہ ۱۷ کے مطابق اپنے گریڈ کی تنخواہ مع اضافی تنخواہ جو اس گریڈ کی تنخواہ کے دس فی صد کے برابر ہے، کا حقدار ٹھہرے گا۔ (سلسلہ نمبر ۱۳۸۔ ملاحظہ کیجیے)

۵۔ اس عنوان پر موجود احکامات میں درج بالا حد تک ترمیم کی گئی ہے۔

(اتھارٹیٹی: دفتری یادداشت نمبر ۷۶۸۳۔ اے آر۔ ۱ آر۔ ۱ مورخہ ۱۸ جون ۱۹۸۰ء جس میں دفتری یادداشت مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۸۱ء کے ذریعے ترمیم کی گئی)

سلسلہ نمبر ۱۳۸

حوالہ عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۷۶۸۱۔ اے آر۔ ۱ آر۔ ۱ مورخہ ۱۸ جون ۱۹۸۰ء (سلسلہ نمبر ۱۳۸) یہ وضاحت کی جاتی ہے کہ کرنٹ چارج کے انتظامات کرتے وقت مقررہ مدت ملازمت برائے ترقی پر اصرار نہ کیا جائے۔
(اتھارٹیٹی: عملہ ڈویژن او۔ ایم۔ نمبر ۸۴۳۔ آر۔ ۱ مورخہ ۳ جون ۱۹۸۳ء)

سلسلہ نمبر ۱۳۸ (اے)

اعلیٰ اسامی پر کرنٹ چارج کی صورت میں آفیسر کو ملنے والی خصوصی تنخواہ میں اضافہ:

موجودہ احکامات کے تحت اعلیٰ عہدے پر کرنٹ چارج کے ساتھ ساتھ اس آفیسر کے اپنے عہدے پر کام کرنے کی صورت میں اسے ایف۔ آر۔ ۳۵ اور سرکاری ملازمین ایکٹ ۱۹۷۳ء کی دفعہ ۱۷ کے تحت اس کی اپنی اسامی کی تنخواہ مع خصوصی

تنخواہ، جو اس کی تنخواہ کا ۱۰ فی صد کے برابر ہے، کے لینے کی حقدار قرار دیا گیا تھا۔ اس صورت پر نظر ثانی کی گئی ہے اور ان اعلیٰ ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے خدمات انجام دینے پر، حاکم مجاز کی منظوری سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اے آر۔ ۳۔ ۱۹۸۷ء سے اعلیٰ عہدوں پر کرنٹ چارج کی تقرری کی صورت میں اس کی تنخواہ کا ۲۰ فی صد مزید اس میں شامل کیا جائے، بشرطیکہ یہ رقم زیادہ سے زیادہ ۱۰۰ روپے ہو۔

۲۔ البتہ اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ اعلیٰ عہدے پر کرنٹ چارج دینے کے انتظامات حاکم مجاز کی منظوری سے عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۷۶۸۱۔ اے آر۔ ۱ آر۔ ۱ مورخہ ۱۸۔ ۶۔ ۱۹۸۰ء (سلسلہ نمبر ۱۳۷) میں دیے گئے احکامات کے مطابق کیے جائیں۔

(اتھارٹیٹی: فنانس ڈویژن او۔ ایم نمبر ایف۔ ۲ (۹)۔ آر۔ ۳۸۵ مورخہ ۱۵ مارچ ۱۹۸۷ء)

سلسلہ نمبر ۱۳۹

حوالہ عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۷۶۸۱۔ اے آر۔ ۱ آر۔ ۱ مورخہ ۱۸ جون ۱۹۸۰ء جس میں بتایا گیا ہے کہ کرنٹ چارج کی ذمہ داری، اسامی پر عارضی طور پر اس کیڈر کے مقدم ترین آفیسر جو ڈیوٹی کی جگہ پر موجود ہو یا اس ادارے، محلے میں موجود ہو، کو، جو اس اسامی پر تقرری کا اہل بھی ہو، باقاعدہ اس عہدے پر تقرری حاکم مجاز اتھارٹیٹی کی منظوری سے دی جاسکتی ہے۔ اس معاملے میں لفظ مقام (Place) اور آرگنائزیشن کی وضاحت کے لیے مندرجہ ذیل حوالہ جات موصول ہوئے ہیں۔

معاملہ زیر غور میں لفظ مقام سے مراد وہ علاقہ جس میں وہ دفتر واقع ہے اور جس میں وہ اسامی پیدا ہوئی ہے، مثلاً "راولپنڈی" اسلام آباد، کراچی وغیرہ۔ لفظ آرگنائزیشن سے مراد محلہ کا ایک باقاعدہ انتظامی یونٹ ہے۔ مثال کے طور پر ایک ڈویژن جو مختلف شعبوں میں تقسیم ہو اور ہر شعبے کا اپنا انتظام ہو۔

(اتھارٹیٹی: او۔ ایم۔ نمبر ۷۶۸۱۔ اے آر۔ ۱ آر۔ ۱ مورخہ ۱۳ مارچ ۱۹۸۱ء)

بحوالہ عملہ ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ۱۶۲۱/۷۶۔ اے آر۔ آر۔ مورخہ ۱۸ جون ۱۹۸۰ء جس میں عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت مورخہ ۱۰ اپریل ۱۹۸۱ء کے ذریعے ترمیم کی گئی تھی، یہ سوال اٹھایا گیا کہ کرنٹ چارج میں چھ ماہ کے بعد زائد اضافہ توسیع کرنے کا مجاز کون ہے؟

۲۔ عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۱۶۲۱/۷۶۔ اے آر۔ آر۔ مورخہ ۱۸ جون ۱۹۸۰ء جس میں عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت ۱۰ اپریل ۱۹۸۱ء کے ذریعے ترمیم کی گئی، یہ عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۷۰۲۲/۷۶۔ اے آر۔ مورخہ ۷ اگست ۱۹۷۰ء میں ترمیم ہے، اس میں دیے گئے اختیارات کے مطابق گریڈ ۱۷ تا ۱۹ تک کے کرنٹ چارج میں چھ ماہ سے اوپر کی توسیع معتمد عملہ ڈویژن کرے گا اور گریڈ ۲۰ اور اس سے اوپر کے گریڈوں میں کرنٹ چارج میں توسیع صدر پاکستان کرے گا۔

۳۔ کرنٹ چارج کا انتظام ایک عارضی اقدام ہے جو کہ اس اسامی پر باقاعدہ تقرری تک کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ توقع کی جاتی ہے کہ باقاعدہ تقرری کا معاملہ ساتھ ہی شروع کر دیا جائے اور چھ ماہ کے اندر باقاعدہ تقرری کا معاملہ حل ہو جائے، چونکہ چھ ماہ اس کام کے لیے کافی تصور کیے جاتے ہیں۔ عام طور پر چھ ماہ سے زائد توسیع کا معاملہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ ایسے معاملات میں جن میں کرنٹ چارج کو جاری رکھنا ضروری ہو تو اس معاملے کو عملہ ڈویژن کو بھیجا جاتا ہے۔ ایسے معاملات عموماً بہت کم ہوتے ہیں۔ ایسے معاملے کو گریڈ ۱۷ تا ۱۹ کی اسامیوں کی صورت میں خلاصہ برائے معتمد اور گریڈ ۲۰ اور اس سے اوپر کے گریڈ کی اسامیوں کی صورت میں خلاصہ برائے صدر کی شکل میں عملہ ڈویژن کو بھیجا جاتا ہے۔ خلاصہ میں اسامی پر باقاعدہ تقرری کے سلسلے میں کیے گئے اقدامات اور بروقت باقاعدہ تقرری نہ ہو سکے کی وجوہات اور مزید توسیع کا جواز پیش کیا گیا ہو۔

مزید توسیع ممکنہ حد تک کم ہو جس میں باقاعدہ انتظامات کرنے ضروری ہیں۔
۴۔ چھ ماہ سے زائد کی توسیع کی صورت میں اضافی تنخواہ کے لیے وزارت خزانہ کی منظوری درکار ہوگی۔ اس لیے اس معاملے کو عملہ ڈویژن بھیجنے سے پہلے وزارت خزانہ کی منظوری کے لیے بھیجا جائے۔

۵۔ یہ یادداشت وزارت خزانہ کے مشورے سے جاری کی گئی ہے۔
(اتھارٹی: دفتری یادداشت نمبر ۱۶۲۱/۷۶۔ اے آر۔ آر۔ مورخہ ۶ اپریل ۱۹۸۷ء۔)

۷۔ اعلیٰ اسامیوں کا وقتی چارج رکھنے والے افسران کا اصل عہدہ سلسلہ نمبر ۱۳۰۔ اے

قانون ڈویژن کے مشورے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اعلیٰ اسامی پر وقتی چارج رکھنے کی صورت میں اس اسامی کی ذمہ داریوں کے پیش نظر وہ آفیسر اس پوسٹ کے عہدہ کو استعمال کر سکتا ہے۔

(اتھارٹی: عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۸۲۳/۸۲۔ آر۔ مورخہ ۱۹ دسمبر ۱۹۸۲ء)

۸۔ اضافی چارج کی تقرریاں سلسلہ نمبر ۱۳۱

صدر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ:

(الف) ایف آر ۳۹ کی شرائط کے تابع تقرریاں عارضی اقدام کے طور پر کی جائیں اور یہ تقرریاں چھ ماہ سے زیادہ عرصہ کے لیے نہیں ہونی چاہئیں اور
(ب) ایف آر ۳۹ (الف) کے تحت جس تنخواہ کی اجازت دی گئی ہے، جہاں اس کا اطلاق ہو، اضافی اجرت آفیسر بشمول آفیسر قانون جو کہ گریڈ ۲۰ کے برابر ہو، اپنے کام کے علاوہ کوئی اضافی کام سونپا گیا ہو، کو ان اضافی ذمہ داریوں کی بنا پر اس کی اصل اسامی پر تنخواہ کا ۱۰ فی صد کے برابر ملے گا۔

۲۔ پیرا۔ ا۔ (الف) میں بتائے گئے فیصلے کے مطابق کل وقتی اسامی کے خالی ہونے کے ساتھ ہی اسے کل وقتی بنیاد پر کرنے کی کوشش شروع کر دی جائے اور اس پر چھ ماہ کے عرصہ کے اندر ہی تقرری ہو جانی چاہیے، لیکن اگر بعض صورتوں میں کرنٹ چارج اضافی چارج کو مزید جاری رکھنا ضروری ہو گیا ہو تو اس کیس کو مکمل صورت میں جس میں کل وقتی تقرری کے سلسلے میں کی جانے والی کاوشوں، ناکامی کی وجہ اور اضافی چارج کے جاری رکھنے کا مکمل جواز موجود ہو، کو وزارت خزانہ کو بھیجا جائے۔

۳۔ پیرا۔ ا۔ (ب) کے فیصلے پر عملدرآمد کے لیے تمام اسامیاں جن پر تنخواہ تین ہزار ہو یا مجوزہ سیکلوں پر دو ہزار تنخواہ کی صورت میں، ان کو شریک معتمد کے برابر تصور کیا جاتا ہے۔

۴۔ شریک معتمد سے نیچے کے عہدے کے افسران کی اضافی تنخواہ کی منظوری موجودہ احکامات کے تحت جاری رہے گی، جو کہ اصل تنخواہ کے ۲۰ فی صد سے زیادہ نہ ہو۔ پیرا۔ ا۔ (ب) میں بتائی گئی حد کی صورت میں اضافی تنخواہ شریک معتمد کو ملنے والی اضافی تنخواہ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔

(اتھارٹی: وزارت خزانہ دفتری یادداشت نمبر ایف۔ ۳ (۳۶)۔ آر۔ ۵۶ (۸) مورخہ ۲۶ اکتوبر ۱۹۶۷ء)

سلسلہ نمبر ۱۳۳

یہ سوال کہ اضافی چارج پر تقرری کا معاملہ مرکزی سلیکشن بورڈ کے دائرہ میں آتا ہے یا نہیں؟ یہ معاملہ عملہ ڈویژن میں زیر غور رہا ہے۔

۲۔ محتاط غور و خوض کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ ایک آفیسر جو برابر کے عہدے پر وزارت خزانہ کی دفتری یادداشت نمبر ۳ (۳۶) آر۔ ۵۶ (تین) مورخہ ۲۶ اکتوبر ۱۹۶۷ء کے مطابق اضافی چارج لیتا ہے تو اس کے لیے مرکزی سلیکشن بورڈ کی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ متعلقہ وزارت، وزارت خزانہ کے

مشورے سے ایسی تقرری کر سکتی ہے، لیکن اگر اعلیٰ اسامی پر کرنٹ چارج دو ماہ سے زائد عرصہ کے لیے ہو تو پھر اس کے لیے مرکزی سلیکشن بورڈ کی منظوری موجودہ احکامات کے تحت ضروری ہے۔

سلسلہ نمبر ۱۳۳

بحوالہ مالیات ڈویژن کے ہفتی مراسلہ ف۔ ۳ (۳)۔ آر۔ ۶۸ مورخہ ۹ ستمبر ۱۹۶۷ء، یہ موضوع بالا اہم اسامی پر اضافی چارج رکھنے والے آفیسر کو زیادہ مراعات دینے کی غرض سے اس معاملے پر نظر ثانی کی گئی ہے اور حاکم مجاز کی منظوری سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اضافی چارج کے انتظام میں بشرطیکہ درج ذیل شرائط پوری ہوں، پیش الاوانس جو بنیادی پیمانہ تنخواہ کا ۲۰ فی صد جو ۱۱۰۰ روپے سے تجاوز نہ کرے، لینے کی اجازت ہوگی:

(i) خالی اسامی کا کام ممکنہ حد تک اس وزارت ڈویژن رولنگ میں اس سطح کے ایک سے زائد موجود افسران میں تقسیم کیا جائے۔

(ii) جہاں پر اس اسامی کا کام ایک سے زائد افسران کو نہ بانٹا جاسکے تو پھر یہ سارا کام کسی دوسرے افسر کو سونپ دیا جائے۔ یہ انتظام ایک ماہ سے کم اور تین ماہ سے زائد عرصہ کے لیے نہیں ہونا چاہیے، اور یہ معتمدین اضافی معتمدین رملحقہ محکمہ جات کے سربراہان، سربراہان محکمہ جو گریڈ ۲۱ سے کم نہ ہوں، کی منظوری سے ہو گا۔ یہ عرصہ مزید تین ماہ کے لیے اس سے اعلیٰ اعلیٰ اتھارٹی کی منظوری سے بڑھایا جاسکتا ہے۔

(iii) مکمل اضافی چارج کا عرصہ چھ ماہ گزرنے کے فوراً بعد اس اسامی کو ختم تصور کیا جائے گا اور اس کا کام دیگر متعلقہ وزارت ڈویژن میں اس درجے کی اسامیوں میں خود بخود تقسیم ہو جائے گا اور اس ختم کی گئی اسامی کو متعلقہ مالیاتی مشیر کی منظوری کے بغیر بحال نہیں کیا جاسکتا۔

۲۔ فنانس ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۳ (۳۶)۔ آر۔ ۶۸ مورخہ ۹ ستمبر

۱۹۷۱ء کو یکم فروری ۱۹۸۷ء سے غیر موثر تصور کیا جائے۔

(خزانہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ایف۔ ۲ (۹)۔ آر۔ ۸۵/۳ مورخہ ۱۸ مارچ ۱۹۸۷ء)

سلسلہ نمبر ۱۳۵

بحوالہ اس ڈویژن کی حتمی دفتری یادداشت نمبر ایف۔ ۳ (۱۳) آر۔ ۶۸/۳ مورخہ ۹ ستمبر ۱۹۷۷ء یہ موضوع بالا۔

اوپر دیئے گئے حتمی مراسلہ کے تحت مختلف خصوص شرح پر خصوصی تنخواہ کی منظوری دی گئی ہے۔ اس کے مطابق اس کے پیرا۔ ۲ (۱) کے مطابق ایک ذاتی اسامی کا پورا چارج اس سطح اور اسی درجے کے اسی عہدے کے دوسرے آفیسر کو دیا جاتا ہے۔ ایک سوال اٹھایا گیا تھا کہ کیا اس طرح چارجز کے ملاپ سے جہاں پر متعلقہ آفیسر گریڈ پندرہ سے اوپر کا ہو گزرت میں اعلان ضروری ہے یا نہیں۔ اس معاملے پر عملہ ڈویژن کے مشورے سے غور کیا گیا۔ صورت حال یہ ہے کہ اوپر دیئے گئے درجے کے چارج کا ملاپ ان تقریروں کے ملاپ جیسا نہیں ہے جو ایف۔ آر۔ ۳۹ یا آزادی سے پہلے حکومت ہند کے فنانس ڈیپارٹمنٹ کی دفتری یادداشت نمبر ایف۔ ۷ (۳)۔ ای۔ ۸ مورخہ ۲۶ ستمبر ۱۹۳۶ء کے پیرا ۱ (۲) (س) کے تحت ہوتی ہیں۔ اس سے آفیسر کے مقام، قابلیت اور ذمہ داریوں پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ لہذا چارجز کے ان ملاپ کو جو اس مراسلہ کے پیرا ۲ (۱) کے تحت بتائے گئے ہیں، کی نوٹیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔

۳۔ درج بالا پیرا سے ظاہر ہوتا ہے کہ چارجز کے اس قسم کے ملاپ کی منظوری کا مراسلہ جو حاکم مجاز کی منظوری سے جاری ہوتا ہے، وہ اس مخصوص ادائیگی کے سلسلے میں محاسبہ اور حاکم مجاز کے لیے کافی ہوتا ہے۔

(اتھارٹیٹی: فنانس ڈویژن کی تیسری یادداشت نمبر ڈی۔ ۹۰۷۔ آر۔ ۷۶/۳۔

ایف۔ ۳ (۱۹) آر۔ ۷۶ مورخہ ۶ اکتوبر ۱۹۷۶ء)

۹۔ قائم مقامی چارج کی بنیاد پر تقرری

سلسلہ نمبر ۱۳۶

بحوالہ سول ملازمین (تقرری، ترقی اور تبادلہ) قوانین ۱۹۷۳ء کے قاعدہ

۸۔ اے، سرکاری ملازم جس کی قائم مقام چارج کی بنیاد پر تقرری ہوتی ہے وہ (الف) اس اسامی کے تمام کاموں کا ذمہ دار ہو گا اور قانونی، انتظامی اختیارات جو بھی اس اسامی کو تفویض کیے گئے کو استعمال کرے گا اور

(ب) وہ اس تقرری کے دوران کم سے کم اس اسامی پر گریڈ میں تعین کردہ تنخواہ کا حقدار ہو گا۔ قائم مقام چارج میں تعین کردہ تنخواہ کو سالانہ اضافہ کے مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا جائے گا، بلکہ سالانہ اضافہ اس کی بنیاد پر ہی ہو گا، تاکہ نچلے کے گریڈ میں پر جانے کی صورت میں اس کی تنخواہ کے تعین میں مشکل نہ ہو۔۔۔۔۔ مگر شرط یہ ہے کہ اگر قائم مقام چارج کے دوران مقرر کی گئی تنخواہ سے بنیادی تنخواہ بڑھ جائے تو پھر وہ بنیادی تنخواہ لینے کا حقدار ہو گا۔

۲۔ یہ معاملہ فنانس ڈویژن کی منظوری سے طے کیا گیا۔

(اتھارٹیٹی: او۔ ایم۔ نمبر ۸۰/۹۔ آر۔ ۱ (بی) مورخہ ۱۳ جنوری ۱۹۸۱ء جس کی ترمیم بمطابق۔ او۔ ایم نمبر ۸۱/۸۲۔ آر۔ ۱ مورخہ ۱۵ اگست ۱۹۹۳ء)

سلسلہ نمبر ۱۳۷

دفتری یادداشت نمبر ۸۲/۸۲۔ آر۔ ۱ مورخہ ۱۵ اگست ۱۹۸۳ء کے ذریعے ترمیم کردہ عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۸۰/۹۔ آر۔ ۱ (بی) مورخہ ۱۳ جنوری ۱۹۸۱ء کے ذیلی پیرا (بی) کی طرف مبذول کرائی جاتی ہے اور بتایا جاتا ہے کہ متذکرہ احکامات میں جزوی ترمیم سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سول ملازمین (تقرری، ترقی اور تبادلہ) قوانین ۱۹۷۳ء کے تحت قائم مقام چارج میں انجام دی گئی خدمات ملازمت کو بنیادی تنخواہ میں سالانہ اضافہ کے مقصد کے لیے شمار کیا جائے گا۔ بشرطیکہ درج ذیل لوازمات

پورے ہوں:

(۱) بی پی ایس۔ ۱۸ میں قائم مقام چارج کی صورت میں افسرنے گریڈ ۱۷ میں پانچ سال کی ملازمت مکمل کی ہو۔

(۲) گریڈ ۱۹ اور اوپر کے گریڈوں کے قائم مقام چارج کی صورت میں نیچے دیے گئے مقررہ عرصہ کی ملازمت مکمل کی ہو:

(الف) گریڈ ۱۹ کی اسامی پر:

بی پی ایس ۱۷ اور اوپر کے گریڈ میں

۱۲ سال کی ملازمت ہو۔

(ب) بی پی ایس ۲۰ کی اسامیوں پر:

۱۷ سال کی ملازمت سکیبل ۱۷

اور اوپر کے سکیبلوں میں ہو۔

(ج) بی پی ایس ۲۱ کے اسیکلوں

پر ۲۲ سال کی ملازمت سکیبل ۱۷

اور اوپر کے اسیکلوں میں

کی اسامیوں پر:

۲۔ اوپر بیان کیا گیا فیصلہ یکم جنوری ۱۹۸۵ء سے موثر ہو گا۔ البتہ ۱۳ جنوری ۱۹۸۱ء

تا ۳۱ دسمبر ۱۹۸۳ء کے دوران قائم مقام چارج کی تقرری کی صورت میں سالانہ

اضافے بحال کر دیے جائیں۔ البتہ یکم جنوری ۱۹۸۵ء سے پہلے کے بقایا جات

نہیں ملیں گے۔

۳۔ اس معاملے کی منظوری مالیات ڈویژن (ریگولیشن) سے لی گئی۔

(اتھارٹی: عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۸۳/۲۵-آر۔ ۱ مورخہ ۲۷۔

۳۔ مارچ ۱۹۸۵ء)

۱۰۔ دیگر مختصر دورانیہ کی تقرریاں

سلسلہ نمبر ۱۳۸

دو یا دو سے زیادہ ماہ کے لیے عارضی اسامیاں، عملہ ڈویژن کی (یادداشت نمبر

۵۳/۲۵-ایم ای مورخہ ۳۰ ستمبر ۱۹۵۳ اور ۱۳ نومبر ۱۹۵۳) کے مطابق:

(۱) چھ ماہ کے عرصہ کے لیے خالی اسامی کو پر نہ کیا جائے۔

(۱) عام طور پر چار ماہ سے زائد کی اسامیاں پر نہیں کی جاتیں لیکن انہیں سربراہان وزارت ڈویژنر محکمہ جات کے ذاتی احکامات پر پر کیا جاسکتا ہے۔

(۲) فنی شعبوں سے وابستہ عملے کے معاملے میں مذکورہ (۱) اور (۲) میں رعایت کی جاسکتی ہے۔

(ترجمہ: بذریعہ عملہ ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ۸۳/۲۵-آر۔ ۱ مورخہ ۲۷۔ مارچ ۱۹۸۶ء)

۲۔ مختصر دورانیہ کے لیے خالی اسامیوں کو پر کرنے کا معاملہ زیر غور لایا گیا اور

اس میں ابھی مذکورہ احکامات کو منسوخ کرتے ہوئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ:

(۱) دو ماہ تک کے لیے خالی اسامی کو پر نہ کیا جائے۔

(۲) دو ماہ سے زائد کی خالی اسامی کو بھی عام طور پر پر نہیں کیا جاتا لیکن سربراہان

وزارت ڈویژنر محکمہ جات کے ذاتی احکامات پر پر کی جاسکتی ہیں۔

(۳) ایسی صورت میں جب کام کی نوعیت اس طرح کی ہو کہ تھوڑی مدت کے

لیے اسامی پر تقرری ضروری ہو تو ایسی اسامیوں پر ترقی یا بھرتی کے لیے دو ماہ

سے کم عرصہ کی صورت میں بھی رعایت دی جاسکتی ہے اور ایسی اسامیوں کو

سربراہان وزارت ڈویژنر محکمہ جات کے ذاتی احکامات پر پر کیا جاتا ہے۔ البتہ

ایسی رعایات عملہ ڈویژن کے مشورے سے کی جاتی ہیں۔

(اتھارٹی: او۔ ایم۔ نمبر ۵۳/۲۵-ایم۔ ای مورخہ ۸ اپریل ۱۹۵۳ء جس

میں دفتری یادداشت نمبر ۸۳/۲۵-ایف (xv) مورخہ ۶ اپریل ۱۹۵۳ء سے ترجمہ

کی گئی)

(نوٹ: احکام بالا کا اطلاق معتدین حکومت پر نہیں ہوتا چونکہ ان کے لیے

علیحدہ احکامات موجود ہیں۔)

سلسلہ نمبر ۱۳۹

بیرون ملک مستعار الحد متی کی صورت اسامیوں کا پیدا ہونا:

ماضی میں بیرون ملک افسران کی مستعار الحد متنی کی صورت میں اسامیوں کے پیدا کرنے یا دوسری صورت میں اس کے نعم البدل انتظامات کے سلسلے میں تضاد رہا ہے۔ معاملہ کی تحقیق کی گئی اور وزارت ڈویژن وغیرہ کی رہنمائی کے لیے درج ذیل ہدایات جاری کی گئی ہیں:

(۱) جب آفیسر اس اسامی کا چارج چھوڑتا ہے: متعلقہ آفیسر خصوصی فرائض کی انجام دہی کے لیے مخصوص ہو جائے تو وہ اپنی اس اسامی سے الگ کر دیا جاتا ہے۔ ایسی صورت میں سپانسر کرنے والی وزارت میں او ایس ڈی کی اسامی پیدا کی جاتی ہے اور اس کی اپنی وزارت میں پیدا ہونے والے اسامی کو معمول کے مطابق پر کیا جاتا ہے۔

(۲) جب آفیسر اپنا چارج حوالے نہیں کرتا: آفیسر اپنی اسامی سے علیحدہ نہیں ہوتا اور اس کی غیر حاضری میں اس کی جگہ کوئی نعم البدل انتظام نہیں کیا جاتا۔ ایک نئی اسامی نچلے گریڈ پر حاکم مجاز کی منظوری سے پیدا کی جاتی ہے جو اس آفیسر کی غیر حاضری میں اس کی جگہ کام کرتا ہے۔

(۳) وزارت خزانہ کی دفتری یادداشت نمبر ۳۵۱۱- ای جی۔ ۱۱/۱۱ مورخہ ۱۳ جولائی ۱۹۵۱ء میں دی گئی ہدایات منسوخ کی جاتی ہیں۔

(اتھارٹی: وزارت خزانہ کی دفتری یادداشت نمبر ۳۰۰۵- ای جی۔ ۵۲/۱ مورخہ ۷ مئی ۱۹۵۲ء)۔

سلسلہ نمبر ۱۵۰

سرکاری ملازمین کی معطلی کے ذریعے خالی ہونے والی اسامیاں: یہ سوال کہ کیا سرکاری ملازمین کی معطلی کی صورت میں پیدا ہونے والی اسامیوں کو دیگر معمول کی اسامیوں کی طرح پر کیا جاسکتا ہے، اس معاملے کی وزارت خزانہ اور قانون ڈویژن کے مشورے سے جانچ پڑتال کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ بوجہ معطلی پیدا ہونے والی اسامی کو مستقل طور پر نہیں کیا جاسکتا البتہ اس کے لیے عارضی انتظام

کیا جاتا ہے۔ کوئی نئی اسامی پیدا نہیں کی جاتی۔

۲۔ یہ عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۱۳۲/۶۷- س، ش، مورخہ ۱۹ ستمبر ۱۹۶۸ء کو منسوخ کرتا ہے۔

(اتھارٹی: او۔ ایم نمبر ۱۲/۷۱- ڈی ۱ مورخہ ۲۰ ستمبر ۱۹۷۱ء)

۱۱۔ ایک سے زائد حقیقی اسامیوں کا چارج رکھنے پر اضافی الاؤنس کی منظوری حاکم مجاز نے اضافی چارج کے خصوصی الاؤنس کو بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے، جو بنیادی پیمانہ تنخواہ کا ۲۰ فی صد جو زیادہ سے زیادہ ۸۰۰ روپے ماہانہ تھا، فوری طور پر ۱۱۰۰ روپے ماہانہ ہو گا۔

(اتھارٹی: مالیات ڈویژن (ریگولیشن ونگ) دفتری یادداشت نمبر ایف۔ ۲(۲)۔ آر۔

۹۳/۳ مورخہ ۲۳-۳۰-۱۹۹۳ء)

پالیسی برائے ترقی

- ۱۔ ترقی کے لیے قانونی ڈھانچہ اور اس کا طریقہ کار
سول ملازمین ایکٹ ۱۹۷۳ء اور سول ملازمین (ترقی، تقرری اور تبادلہ) کے قواعد ۱۹۷۳ء میں بتایا گیا ہے کہ قانون اور قواعد از خود عملاً "ضروریات کو پورا نہیں کرتے اور اس لیے اس کے ساتھ جامع اور اصولی رہنما پالیسی بنائی جاتی ہے۔
 - ۲۔ اس لیے صدر پاکستان کی منظوری سے محکمہ ترقی کمیٹی مرکزی انتخابی بورڈ برائے ترقی کے لیے درج ذیل رہنما اصول بنائے گئے ہیں۔
 - ۳۔ پالیسی کے نمایاں خدو خال درج ذیل ہیں:
- (۱) خفیہ رپورٹوں کو بڑی اہمیت دی جائے گی، لیکن یہ نتیجہ اسامیوں پر ترقی کے لیے تنہا معیار تصور نہیں ہوں گی۔
 - (۲) خفیہ رپورٹوں میں ظاہر کردہ کارکردگی کا شمار منسلک رہنما اصولوں کے مطابق کیا جائے گا اور نسبتاً "نئی تقرریوں کو اہمیت دی جائے گی۔

(ii) سرکاری ملازم جس کی جگہ کوئی دوسرا ملازم ترقی پا جائے تو اس صورت میں وہ ایک مزید خفیہ رپورٹ حاصل کرنے کے بعد دوبارہ ترقی کے لیے قابل غور ہو گا۔

(iv) گریڈ ۱۹ کی ہر اسامی کی ترقی کے لیے دو افسران کا پینل ہونا چاہیے جبکہ گریڈ ۲۰ یا ۲۱ کے لیے تین افسران کا پینل ہونا چاہیے۔

(v) مختلف گریڈوں میں ترقی کے لیے مقررہ مدت ملازمت جاری رہے گی۔

(vi) سول ملازم کی ترقی صرف اس کے اپنے کیڈر میں ہوگی۔ اگر کسی افسر کی ایکس کیڈر پوسٹ پر تعیناتی ہوتی ہے تو اس کی ترقی اس کی اپنی باری پر ہوگی اور واپس اپنے کیڈر پر ترقی ہوگی اور نئی فارمولا بیرون ملک پاکستان مشن پر ایکس کیڈر کی اسامی پر کام کرنے والے ملازم پر بھی لاگو ہوگا۔

(vii) سول ملازم جو مستعار الحمد متی پر غیر ملکی حکومت، بین الاقوامی ایجنسی یا باہر کی پرائیویٹ آرگنائزیشن میں کام کر رہا ہو تو اس کی ترقی صرف واپسی پر ہوگی۔ اسے اپنی ترقی کے لیے واپس آنے کی اطلاع دی جاتی ہے۔ اگر وہ واپس نہیں آتا تو اس کی ترقی زیر غور نہیں لائی جائے گی۔ ایسے افسر کی واپسی پر ایک خفیہ رپورٹ حاصل کرنے کے بعد اس کا کیس ترقی کے لیے زیر غور لایا جاتا ہے۔ اگر ایسا افسر اپنی مستعار الحمد متی کا دورانیہ ختم ہونے پر بھی واپس نہیں آتا تو اس ترقی کے لیے پہلے حاصل کی گئی منظوری بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہے۔

(مستندی عملہ ڈویژن کا نیم سرکاری مراسلہ نمبر ۱۰ (۳) ۸۱، سی پی ا (بی بی) مورخہ ۳۱ اکتوبر ۱۹۸۲ء)

حکومت پاکستان

کابینہ سیکرٹریٹ

(عملہ ڈویژن)

سید اجلال حیدر زیدی

سیکرٹری اسٹیشنمنٹ

ٹیلیفون

نیم سرکاری مراسلہ نمبر ۱۰ (۱۰) ۷۵/سی پی۔ اے۔ راولپنڈی، ۱۵ مئی ۱۹۸۵

موضوع: پالیسی برائے ترقی

کمری

ترقی کے معاملات کو نمٹانے کے لیے تعین کیت کا تصور متعارف کرایا گیا لیکن اس کے وسیع استعمال سے بعض ناپسندیدہ نتائج سامنے آئے ہیں جن کی ذیل میں نشاندہی کی گئی ہے:

(i) اگرچہ اوسط سالانہ خفیہ رپورٹ (اے سی آر) تسلی بخش ہوتی ہے اور اس سے ہر شخص کا اعداد و شمار کے ذریعے ایک تحریری نقشہ سامنے آتا چاہیے۔ اوسط رپورٹ کو بغرض ترقی، چار نمبر دیے گئے ہیں اور غیر نتیجہ اساسیوں کی ترقی پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا کیونکہ اس کے لیے اہلیتی نمبر ۴۰ رکھے گئے ہیں۔ نتیجہ اساسیوں کے لیے اہلیتی نمبر زیادہ رکھے گئے تھے۔ تسلی بخش کارکردگی اعلیٰ سطح کے لیے کوئی اچھا تاثر قائم نہیں کرتی۔ یہ تاثر اب درست نہیں رہا جب کہ نظر ثانی رانضباطی معاملات اور بیرون ملک تعیناتی کے لیے تعین کیت کا دائرہ پھیلا دیا گیا ہے۔ ایسے معاملات میں اہلیت کو موجودہ سطح پر پرکھا جاتا ہے اور اس کی اوسط رپورٹ سے کوئی

مخالف تاثر نہیں لینا چاہیے۔

(i) دوسری قابل توجہ بات یہ ہے کہ رپورٹنگ میں گریڈنگ کو بڑھانے کا رجحان عام ہو گیا ہے چونکہ رپورٹنگ پر تائیدی دستخط کنندہ افسر کو بوقت خفیہ رپورٹ مزید اختیار کرنے کو کہا گیا ہے۔

۱۔ اس رجحان کی وجہ سے اوسط رپورٹ لینے والے افسران اچھی اور اچھی رپورٹ والے افسران کو بہت اچھی رپورٹ مل جاتی ہے۔ جس سے واقعی غیر معمولی اہلیت و قابلیت رکھنے والے افسران کی حق تلفی ہوتی ہے اور تیس سے چالیس فی صد افسران بہت اچھی رپورٹ حاصل کر لیتے ہیں۔

۲۔ ان مشکلات کو دور کرنے کے لیے درج ذیل اصولوں کو پیش نظر رکھا گیا تھا۔

(الف) بغیر عملہ ڈویژن کی مداخلت کے رپورٹنگ میں توازن کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے ایمانداری کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔

(ب) اس کے لیے موجودہ فارم میں معمولی تبدیلی کی ضرورت ہے۔

(ج) اور اس نئے طریقے کو پہلی خفیہ رپورٹوں تک پھیلا یا جاسکتا ہے۔

۳۔ لہذا درج ذیل فیصلے کیے گئے ہیں۔

(i) اوسط رپورٹ کے نمبر "۵" تک بڑھا دیے گئے ہیں جو کہ بیانہ کا درمیانی نقطہ ہے۔ غیر نتیجہ اساسیوں پر ترقی کے لیے جو بیانہ رکھا گیا ہے اس کے لیے ۵۰ نمبر رکھے گئے ہیں (گریڈ ۱۸ تک)۔ اس سے اعلیٰ اساسیوں پر ترقی کا بیانہ متاثر نہیں ہو گا۔

(ii) بہت اچھی رپورٹ پر نمبروں کو گھٹا کر ۸ کر دیا گیا ہے اور غیر معمولی رپورٹ کی صورت میں ۱۰ نمبروں کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ بہت کم معاملات میں جہاں خفیہ رپورٹیں لکھنے والے افسران متعلقہ افسران کو معاملات معمولی رپورٹ کے لیے اپنے ہاتھ سے فارم کے حصہ (vi) پر ایک خانہ بنا سکتے ہیں اور اس پر گریڈنگ کر سکتے ہیں۔

اس خانہ کے اوپر مختصر دستخط کر کے آؤٹ سینیڈنگ ممتاز رکھے فارم کے کالم (vi) الف اور (c) میں دی گئی گریڈنگ کا جواز پیش کرنا ہو گا۔ ورنہ اس رپورٹ کو "بہت اچھا ہی تصور" کیا جائے گا۔

(ii) پہلی رپورٹوں کو جو بہت اچھی ہوں، کو غیر معمولی رپورٹ تصور کیا جائے گا بشرطیکہ (i) تمام اندراج سوائے ایک یا دو کے حصہ دوم سے چار تک سال رواں کے خفیہ رپورٹ یا حصہ دوم پہلی خفیہ رپورٹ میں بہت اچھی یا (ii) ترقی قبل از وقت کی سفارش کی گئی ہو۔

۳۔ پالیسی برائے ترقی میں متعلقہ شعبے میں ڈال دی گئی ہیں اور نظر ثانی شدہ رہنما اصول اور ضمیمہ منسلک ہے جو یہ پہلے رہنما اصول اور ضمیمہ کی جگہ لے گا۔

آداب

آپ کا مخلص

(سید اجلال حیدر رضوی)

چیرمین انتخابی بورڈ

جملہ اضافی معتمدین رصوبائی اعلیٰ معتمدین

۲۔ حکیمانہ ترقی کے لیے رہنما اصول

۱۔ ڈی پی سی ایس بی، اہل سرکاری ملازمین کے تقدم کے پیش نظر ترقی کے لیے غور کرتی ہے اور۔

(الف) سول ملازم کی اعلیٰ اعلیٰ اسٹیج پر ترقی کے لیے سفارش کرتی ہے۔

یا

(ب) اس کی ترقی کی منسوخی کی سفارش کرنا۔

یا

(ج) سول ملازم کی ترقی کو التوا میں ڈالتی ہے۔ مگر اس اقدام کا صرف اس

صورت میں فیصلہ کیا جاتا ہے جب۔

- (i) سول ملازم کی خفیہ رپورٹ کی مسل اور دیگر مطلوبہ معلومات کی عدم دستیابی کے باعث متعلقہ ملازم کی اہلیت کا تعین کرنا مشکل ہو۔ یا
- (ii) متعلقہ ملازم کے خلاف محکمہ انضباطی کارروائی کا تا حال کوئی فیصلہ نہ ہوا ہو۔

- (a) سول ملازم غیر ملکی حکومت کے تحت پرائیویٹ آرگنائزیشن یا بین الاقوامی تنظیم میں مستعار الجھمتی پر ہو۔
- (iv) اس کی مدت ملازمت مطلوبہ ملازمت سے کم ہو یا
- (v) ترقی کے لیے مجوزہ تربیت نہ لی ہو یا محکمہ امتحان پاس نہ کیا ہو۔
- (vi) سول ملازم کی تقدم (سپاریٹی کی اہلیت) متنازعہ ہو۔

۲۔ اگر کوئی سول ملازم ترقی نہ پاسکے اور اس کی جگہ کوئی دوسرا ترقی پا جائے تو ترقی سے رہ جانے والے ملازم کا ترقی کا معاملہ دوبارہ اس وقت تک زیر غور نہیں لایا جائے گا جب تک وہ مزید ایک سال کی سالانہ خفیہ رپورٹ حاصل نہیں کر لیتا۔

۳۔ سول ملازم جس کی ترقی کو التوا میں رکھا گیا ہے، التوا میں رکھے جانے کی وجوہات کے دور ہونے پر اس کی ترقی کے معاملہ پر دوبارہ غور ہو گا اور مستعار الجھمتی پر (غیر ملکی حکومت پر ایویٹ ایجنسی) ہونے کی صورت میں سول ملازم کی مستعار الجھمتی کے دورانیہ کی تکمیل پر اس کی محکمہ میں واپسی پر غور ہو گا اور اگر وہ اس دورانیہ کے ختم ہونے کے بعد ملازم واپس نہیں آتا تو پھر اس سول ملازم کی ترقی پر صرف اس وقت غور ہو گا جب وہ واپس آنے کے بعد ایک سال کی خفیہ رپورٹ حاصل کرے گا۔

۳۔ ڈی پی سی ایس بی کو غور کے لیے سالانہ خفیہ رپورٹوں کو ضمیمہ میں دیے گئے فارمولہ کے مطابق نمبر دینے ہوں گے، جو ملازم مطلوبہ سکور حاصل نہیں کرتا اس کی ترقی زیر غور نہیں لائی جائے گی۔ اس معاملہ میں رعایت کے لیے ڈی پی سی ایس بی کو حاکم مجاز کے منظوری کے لیے تمام وجوہات ریکارڈ

کرنا ہوں گی۔

۳۔ تقدم اہلیت کی بنیاد پر ترقی

۱۔ سکیل ۱۸ اور اس سے نیچے کی اسامیاں غیر منتخبہ اسامیاں کہلاتی ہیں۔ ان اسامیوں پر ترقی کے لیے محکمہ کیٹیاں برائے ترقی تقدم اور اہلیت کی بنیاد پر کارروائی کرتی ہیں۔ اہلیت کا تعین سول ملازم کی نیچے والی اسامی کے کام کو مد نظر رکھتے ہوئے کیا جاتا ہے۔

۲۔ البتہ سکیل ۱۸ پر ترقی کے لیے سول ملازم درج ذیل اضافی شرائط رکھتا ہو۔

(الف) اہل ملازمت، عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۳۰۸/۳۰۔ ر۔ نمبر ۱۹۸۳ کے مطابق بطور آفیسر ۵ سال کی ملازمت۔

(ب) ترقی کے لیے مقررہ اہلیت۔ ضمیمہ میں دیے گئے فارمولہ کے مطابق خفیہ رپورٹوں کے کم از کم ۵۰ نمبروں کا حاصل کرنا۔

۳۔ اگر سکیل ۱۷ میں صرف دو یا کم خفیہ رپورٹیں حاصل کی گئی ہیں تو اس سے نچلے سکیل میں اس کی رپورٹوں کو تعین کیت کے لیے شامل کر لیا جائے۔

۳۔ درجہ خاص کی اسامیوں پر ترقی

۱۔ بنیادی بیانہ تنخواہ سکیل ۱۹ اور اس سے اوپر کی اسامیوں کو منتخبہ اسامیاں کہا جاتا ہے اور ان اسامیوں پر ترقی کے لیے مرکزی سلیکشن بورڈ کے ذریعے کارروائی کی جاتی ہے۔

۲۔ ان بورڈوں کے ذریعے درست انتخاب کو یقینی بنانے کی غرض سے عملہ ڈویژن ان بورڈوں کے سامنے اہل افسران کا ایک بڑا پینل رکھیں گے۔ ایک کیڈر میں ترقی کے اہل افسران کی موجودگی میں درج ذیل تعداد کو پینل میں شامل کیا جائے گا۔

(الف) مگر ان اسامیوں پر ترقی کے لیے ہر خالی اسامی کے لیے کم از کم

دو افسران

(ب) درمیانی اور اعلیٰ انتظامی
ہر اسامی کے لیے کم از کم
تین افسران

۳۔ نتیجہ اسامیوں کے لیے بطور آفسر سول ملازم کی رپورٹوں میں کام اور اس کے معیار اور اس کی ایمانداری کے اندراجات کو دیے گئے فارمولے کے مطابق نمبر دیے جائیں گے اور ان نمبروں کو ترقی کے لیے میرٹ تیار کرنے میں بڑی اہمیت حاصل ہوگی۔

۴۔ سکیل ۱۹ کی اسامیاں عام طور پر نگران اسامیاں کہلاتی ہیں۔ نگرانی اس صورت میں موثر ہو سکتی ہے جب نگران کو متعلقہ تجربہ ہو۔ ان افسران سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ پالیسی سازی میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے۔ لہذا ایک سول ملازم کے لیے لوازمات درج ذیل لوازمات کا حامل ہونا ضروری ہے۔

(الف) اہل ملازمت۔ بطور آفسر عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۹ ر ۸۰۔ (ب) (الف) کے مطابق ۱۲ سال کی ملازمت رکھتا ہو۔

(ب) تعین اہلیت۔ دیے گئے فارمولہ کے مطابق رپورٹوں میں کم از کم ۶۰ نمبر حاصل کرے۔

(ج) تعلیمی قابلیت۔ جیسے کہ متعلقہ قواعد بھرتی میں مقرر کی گئی ہو۔

(د) متعلقہ تجربہ۔ متعلقہ اسامی پر ترقی کے لیے متعلقہ تجربہ رکھتا ہو۔

(ه) کام کی مقدار، معیار اور ایمانداری کے اندراج کے حاصل کردہ نمبر مقابلے کے لیے تیار کردہ میرٹ میں بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔

۵۔ بنیادی پیمانہ سکیل ۲۰ کی اسامیاں نڈل درجے کی انتظامی اسامیاں ہیں اور عموماً 'فیلڈ' میں واقع دفاتر کے سربراہ اس گریڈ کے ہوتے ہیں اس لیے ان افسران کے لیے متعلقہ تجربہ کے علاوہ اور مختلف تجربات کا حامل ہونا ضروری ہے اور۔

(۱) ان اداروں میں ہونے والے تمام امور پر مکمل دسترس رکھتا ہو تاکہ

حکومت کے تمام مقاصد سرگرمیوں کو موثر اور متوازی انداز میں چلایا جا سکے۔

(۱) انھیں سیکرٹریٹ کی سطح پر پالیسی بنانے کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ گونا گوں تجربات میں 'فیلڈ' کارپوریشنوں، ملحقہ محکموں، مختلف وزارتوں، ڈویژنوں اور ہمارے بیرون ملک مشن کے تجربات پر مشتمل ہیں۔

سول ملازم کو نڈل انتظامی اسامیوں پر ترقی کے لیے درج ذیل لوازمات کا ہونا ضروری ہے۔

(الف) اہل ملازمت۔ عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۸۰ ر ۸۰۔ (ب) (الف) مورخہ ۶-۲-۱۹۸۳ کے مطابق بحیثیت افسر کے سترہ سال کی ملازمت رکھتا ہو۔

(ب) تعین اہلیت۔ دیے گئے فارمولہ کے مطابق خفیہ رپورٹوں سے حاصل کردہ کم از کم نمبر ۷۰ ہوں۔

(ج) تعلیمی قابلیت۔ متعلقہ قواعد بھرتی میں مقررہ قابلیت۔

(د) تجربہ۔ متعلقہ اسامی کے لیے مذکورہ شرائط کے مطابق تجربے کا ہونا ضروری ہے۔

(ه) آفسر کے مقابلے کے لیے میرٹ کے تعین میں آفسر کی رپورٹ میں کام کے معیار اور ایمانداری کے نمبروں کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔

(۱) مختلف نوعیت کے تجربات۔ مرکزی سلیکشن بورڈ آفسر کے کام کی نوعیت، دورانے اور جگہ کا بوقت غور خیال رکھتا ہے۔ کشش نہ رکھنے والے علاقوں میں کی گئی ملازمت کے تجربہ کو ترجیح دی جاتی ہے۔ کارپوریشن، خود مختار ادارے، یا ایس کیڈر پوسٹ پر کام کرنے کو مستقبل میں بہتر شمار کیا جاتا ہے۔

(۲) ٹریننگ۔ نیپا میں کورس کی کامیاب تکمیل یا اس کے برابر کے انسٹی ٹیوشن میں باقاعدہ تربیت مکمل کی ہو۔ یہ شرط ایسے افسران کے لیے ہٹائی جا

سکتی ہے جو:-

- (i) کم از کم ایک سال کے لیے ٹریننگ انسٹی ٹیوشن کا سربراہ رہا ہو یا
- (ii) کم از کم دو سال کے لیے بحیثیت تدریسی شاف ملازمت کی ہو۔
- (iii) شاف کالج ر این ڈی سی میں باقاعدہ کورس میں شمولیت کی ہو۔
- (iv) عمر چھپن سال سے تجاوز کر گئی ہو۔

۶۔ سکیل ۲۱ اعلیٰ درجے کی انتظامی اسامی شمار ہوتی ہے۔ نہایت اہم پالیسیوں کا بنانا اور وسیع انتظامی اختیارات اس اسامی میں آتے ہیں۔ اعلیٰ انتظامی صلاحیتیں، وسعت نظری، پختہ مزاجی جیسی خصوصیات کا حامل۔ یہ صلاحیتیں حساب داری کے فارمولہ سے نہیں پیمانی جا سکتی ہیں۔ ان کی صلاحیتوں اور اہلیت کا تعین کرنے کے لیے سلیکشن بورڈ کو بڑے محتاط انداز سے مجموعی کارکردگی وغیرہ پر نظر رکھنی پڑتی ہے۔ سول ملازم کو اعلیٰ انتظامی اسامیوں پر ترقی کے لیے درج ذیل شرائط پر پورا اترنا ضروری ہے:-

- (الف) اہل ملازمت:- عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۸۰۹/۸۰-۱۔
- (ایف) مورخہ ۲-۶-۱۹۸۳ کے مطابق بطور افسر ۲۳ سال کی ملازمت۔
- (ب) تعین اہلیت:- دیے گئے فارمولہ کے مطابق رپورٹوں کے کم از کم ۷۵ نمبر۔
- (ج) تعلیمی قابلیت:- متعلقہ قواعد بھرتی میں مقرر کردہ۔
- (د) تجربہ:- بذریعہ ترقی سے پر ہونے والی اسامی کا تجربہ
- (e) کام کی مقدار اور معیار اور ایمانداری کے نمبر مقابلے کی میرٹ کے لیے بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔

(و) گوناگوں تجربات:- منجملہ بورڈ بوقت غور، افسر کے کام کی نوعیت، دورانیہ اور ڈیوٹی کی جگہ کو خاص طور پر دیکھتی ہے اور خصوصاً "سیکرٹریٹ میں کام کی نوعیت، سخت یا عام، زیادہ وزن یا ہلکے نوعیت کے کام کے تجربہ کا خیال رکھا جاتا ہے۔

(ز) تربیت:- پاکستان ایڈمنسٹریٹو شاف کالج ٹریننگل ڈیفنس کالج کا باقاعدہ

کورس مکمل کیا ہو۔ یہ شرط ایسے افسران کے لیے ہٹائی جا سکتی ہے جو:-

(i) کم از کم ایک سال کے لیے ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ کا سربراہ رہا ہو۔

(ii) اس کی عمر ۵۶ سال سے تجاوز کر گئی ہو۔

(iii) تربیتی ادارے میں کم از کم دو سال ڈائریکٹنگ شاف میں کام کیا ہو۔

(ح) اعلیٰ انتظامی صلاحیت:- اس مقام پر ترقی پانے کے بعد وہ تمام

وزارتہ ڈویژن یا سربراہ کارپوریشن کے فرائض سنبھالنے کا اہل ہو۔ بورڈ

اپنی سفارش سے پہلے اس بات کا اطمینان کر لیتا ہے کہ آفسر ایک پختہ اور

متوازن انتظامی صلاحیتوں کا مالک ہے اور وہ مختصر نوٹس پر مذکورہ انتظامی ذمہ

داریاں سنبھال سکتا ہے۔

۵۔ چار خصوصی کیڈرز

حصہ (i) اور (ii) میں دیے گئے رہنما اصولوں کا خصوصی کیڈرز پر پوری طرح

اطلاق نہیں ہوتا۔ جسے ڈاکٹروں، اساتذہ اور پروفیسروں، ریسرچ سائنسدانوں اور ایسے

افسران جو خالصتاً فنی نوعیت کی اسامیوں پر کام کر رہے ہوں، ان کی ترقی اپنے

خصوصی شعبہ میں ہی ہوتی ہے۔ ان کی ترقی ان کی فنی مہارت اور تجربے کی بنیاد پر

ہوتی ہے۔

۶۔ خفیہ رپورٹوں کی کمیٹ (Quantifying)

۱۔ مجموعی تعین

بطور آفیسر کے لکھی جانے والی تمام خفیہ رپورٹیں سکیل ۱۸ تا ۲۱ یا اس کے برابر

میں ترقی کے لیے دیکھی جاتی ہیں۔

۲۔ (الف) خفیہ رپورٹوں کی مجموعی درجہ بندی کو درج ذیل نمبر دیے گئے

ہیں:-

نمبر	مجموعی درجہ بندی
۱۰	(۱) غیر معمولی
۰۸	(۲) بہت اچھی
۰۷	(۳) اچھی
۰۵	(۴) اوسط
۰۴	(۵) اوسط سے نیچے
۰۰	(۶) کمزور (اہلیت)

(ب) اب غیر معمولی رپورٹ کے لیے الگ درجہ بندی متعارف کرائی گئی ہے لیکن پہلے کی رپورٹوں میں بہت اچھی رپورٹ کو بھی غیر معمولی رپورٹ تصور کیا جائے گا اور اس کو دس (۱۰) نمبر دیے جائیں گے بشرطیکہ موجودہ (۱) اے سی آر فارم کے حصہ دو تا چار میں سوائے ایک یا دو اندراج کے بہت اچھی ہوں۔ (۱) جلد ترقی کی سفارش کی گئی ہو۔

(ج) اگر مجموعی درجہ بندی مبہم ہو مثال کے طور پر اچھی اور اوسط کے درمیان ہو تو اس کو نمبر نیچلے درجے کے حساب سے ملیں گے۔

(د) اگر افسر مجاز رپورٹ سے اختلاف کرتے ہوئے اپنی طرف سے درجہ بندی کا تعین کرتا ہے تو پھر مجموعی درجہ بندی ان کی رپورٹ کے پیش نظر کی جائے گی۔

(۱) جب ایک ہی سال میں دو یا دو سے زائد خفیہ رپورٹیں لکھی گئی ہوں تو پھر حسابی طریق کار سے تعین کیا جاتا ہے اور ان رپورٹوں کو خود مختار رپورٹیں متصور کیا جاتا ہے۔

۳- ایک بنیادی تنخواہ سکیل کی ہر سطح کی اسامیوں کے حامل افسران کی رپورٹوں کے نمبر علیحدہ شمار کیے جائیں گے اور ان کو درجہ ذیل طریقہ سے اکٹھا کیا جائے گا۔

(۱) پہلا مرحلہ

ایک کینڈر سال میں دو یا دو سے زیادہ رپورٹوں کی صورت میں سکور درجہ ذیل حساب سے نکالا جائے گا۔

$$M = \frac{M_1}{N_1}$$

تقریبی سال کی ہر رپورٹ کے پیرا (الف) M =

سال میں رپورٹوں کی تعداد = N_1

اور ع برائے میزان

(۱) دو سرا مرحلہ

ہر سطح پر نمبروں کا شمار درجہ ذیل فارمولہ کے مطابق ہو گا۔

$$\frac{M}{T} = \text{اوسط نمبر}$$

M = پیرا - ۲ - (ج) کے مطابق سالانہ خفیہ رپورٹوں کے نمبر اور

T = اس سطح کی اسامیوں پر خفیہ رپورٹوں کے کل نمبر

(۱) تیسرا مرحلہ

ہر سطح کی اسامیوں کو درجہ ذیل یکساں ۱۰۰ نمبروں کے سکیل برائے ترقی کی بنیاد پر دیا جائے گا۔

(۱) سکیل ۱۸ کی اسامیوں پر ۱۰ x الف

(۲) سکیل ۱۹ کی اسامیوں پر (الف x ۳) + (ب x ۶)

(۳) سکیل ۲۰ کی اسامیوں پر (الف x ۲) + (ب x ۳) + (ج x ۵)

(۴) سکیل ۲۱ کی اسامیوں پر (الف + ب) + (ج x ۳) + (د x ۵)

(الف) = سکیل ۱۷ میں رپورٹوں کے اوسط نمبر

(ب) = سکیل ۱۸ میں رپورٹوں کے اوسط نمبر

(ج) = سکیل ۱۹ میں رپورٹوں کے اوسط نمبر

(د) = سکیل ۲۰ میں رپورٹوں کے اوسط نمبر

(iv) چوتھا مرحلہ

تیسرے مرحلے میں حاصل کیے گئے کل نمبروں میں درج ذیل اضافے کنوٹیاں کی جائیں گی۔

الف۔ اضافے:

کسی ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ میں دو یا دو سے زائد سال کام کرنے پر = ۲ نمبر

(ب) کنوٹیاں:

(۱) قواعد (اہلیت و انضباط) سرکاری ملازمین مجریہ ۱۹۷۳ کے تحت

ہر بڑی سزا پر = ۵ نمبر

(۲) قواعد (اہلیت و انضباط) سرکاری ملازمین مجریہ ۱۹۷۳ کے تحت ہر چھوٹی

سزا پر = ۳ نمبر

(۳) ہر منفی رپورٹ پر (صرف اس صورت میں جب منفی رپورٹ انفر کو دکھائی

گئی ہو۔ اور اس کی طرف سے جواب پر مخالفت میں لکھی گئی رپورٹ خارج نہ

کی گئی ہو یا اس نے جواب نہ دیا ہو)

مثال نمبر

ایک سول ملازم کی سکیل ۲۰ پر ترقی کے لیے غور کیا جا رہا ہے۔ اس نے

اپنی ملازمت میں اپنی اسامیوں پر درج ذیل گریڈنگ حاصل کی ہے۔

سکیل ۱۷ میں: چار اچھی اور ایک اوسط

سکیل ۱۸ میں: دو بہت اچھی، چھ اچھی اور ایک اوسط اور دو اچھی

رپورٹیں ایک تقویمی سال میں حاصل کیں۔

سکیل ۱۹ میں: ایک غیر معمولی اور چار اچھی۔ اس نے تین سال ایک

ترقی ادارے میں ملازمت کی۔ اس کی خفیہ رپورٹوں کے نمبروں کا شمار

درج ذیل طریقے سے ہو گا۔

(i) پہلا مرحلہ:

اوسط حسابی، برائے دو اچھی اور ایک اوسط (ایک تقویمی سال میں)

$$\frac{(۷ \times ۲) + (۵ \times ۱)}{۳} = ۶۳$$

(ii) دوسرا مرحلہ:

سکیل ۱۷ میں اوسط نمبر

$$\frac{(۷ \times ۲) + (۵ \times ۱)}{۵} = ۶۶$$

سکیل ۱۸ میں اوسط نمبر

$$\frac{(۸ \times ۲) + (۷ \times ۲) + ۶۳}{۳} = ۷۱$$

سکیل ۱۹ میں اوسط نمبر

$$\frac{(۱۰ \times ۱) + (۷ \times ۲)}{۵} = ۷۶$$

(iii) تیسرا مرحلہ:

$$(۵ \times ۷۶) + (۳ \times ۷۱) + (۲ \times ۶۶) = ۷۲۵$$

(iv) چوتھا مرحلہ:

○ خفیہ رپورٹوں کے نمبر = ۷۲۵

○ ٹریننگ انسٹی ٹیوٹ میں ملازمت = ۲۶۰

○ اس کے خفیہ رپورٹوں کا مجموعی سکور = ۷۲۵

مثال-۲

ایک سول ملازم کی سکیل ۱۹ کے لیے ترقی پر غور ہو رہا ہے۔ اس نے دوران

ملازمت اپنی اسامیوں پر سالانہ خفیہ رپورٹوں میں درج ذیل گریڈ تک حاصل کی۔

○ کیل ۱۷ میں = تین اچھی اور دو اوسط

○ کیل ۱۸ میں = پانچ اچھی اور دو اوسط

اس پر قواعد (اہلیت و انضباط) سرکاری ملازمین مجریہ ۱۹۷۳ء کے تحت ایک چھوٹی سزا عائد کی گئی اور اس نے دو رپورٹوں میں منفی ریکارڈ بھی حاصل کیے۔ اس کی رپورٹوں پر درج ذیل نمبر شمار کیے جائیں گے۔

(i) پہلا مرحلہ

$$\frac{(۷ \times ۳) + (۵ \times ۲)}{۵} = ۶۶۲ = \text{اوسط نمبر}$$

$$\frac{(۷ \times ۵) + (۵ \times ۲)}{۷} = ۶۶۳ = \text{اوسط نمبر}$$

(ii) دوسرا مرحلہ

$$(۶ \times ۶۶۲) + (۳ \times ۶۶۳) = ۶۳۶۲$$

(iii) تیسرا مرحلہ

○ خفیہ رپورٹوں کے نمبر = ۶۳۶۲

○ چھوٹی سزا کے لیے = ۳۶۰

○ مخالف نمبروں کے لیے = ۲۶۰

میزان = ۵۸۶۲

اس کی خفیہ رپورٹوں کا مجموعی سکور = ۵۸۶۲ ہو گا

دوسرے مرحلہ پر پیرا تین کو بدلا جائے گا اور سطحوں کی تعداد کے مطابق نمبر

لگائے جائیں گے جبکہ

(i) آفیسر نے براہ راست کیل ۱۸ یا اوپر کے گریڈ میں سرکاری ملازمت میں

شمولت اختیار کی ہو۔

(۲) آفیسر نے کسی درمیانی کیل میں کام نہ کیا ہو۔

مثال- ۳

ایک سول ملازم جو کہ کیل ۱۹ میں ہے اور اس کا معاملہ کیل ۲۰ میں ترقی کے لیے زیر غور لایا جا رہا ہے۔ اس نے اپنی ملازمت میں مختلف اسامیوں پر درج ذیل درجہ بندی حاصل کی ہے۔

○ کیل ۱۸ میں = دو بہت اچھی، تین اچھی اور دو اوسط

○ کیل ۱۹ میں = دو بہت اچھی اور تین اچھی

اس کی خفیہ رپورٹوں کے نمبر درج ذیل ہوں گے۔

(i) پہلا مرحلہ

کیل ۱۸ پر اوسط نمبر

$$\frac{(۸ \times ۲) + (۷ \times ۳) + (۵ \times ۲)}{۵} = ۶۶۷$$

$$\frac{(۸ \times ۲) + (۷ \times ۳)}{۵} = ۷۶۳$$

(ii) دوسرا مرحلہ

$$(۶ \times ۷۶۳) + (۳ \times ۶۶۷) = ۷۱۶۲$$

(iii) تیسرا مرحلہ

○ خفیہ رپورٹوں کے نمبر = ۷۱۶۲

○ خفیہ رپورٹوں پر اس کا اجتماعی سکور = ۷۱۶۲

مثال-۴

ایک سول ملازم کی سکیل ۱۹ پر ترقی نہ کر لیے غور ہو رہا ہے جب کہ اس کیڈر میں سکیل ۱۸ کی اسامی نہیں ہے۔ اس نے اپنے موجودہ سکیل-۱۷ میں ایک بہت اچھی، سات اچھی، پانچ اوسط اور ایک منفی رپورٹ حاصل کی ہے۔ اس کی خفیہ رپورٹوں کے نمبر درج ذیل ہوں گے:-

(i) پہلا مرحلہ

$$\frac{(8 \times 1) + (4 \times 4) + (5 \times 5) + (1 \times 1)}{13} = \text{سکیل ۱۷ پر اوسط نمبر ۵۶۹}$$

(ii) دوسرا مرحلہ

$$(10 \times 569) = 569$$

(iii) تیسرا مرحلہ

خفیہ رپورٹوں کے نمبر = ۵۹

مختلف نمبروں کی کٹوتی = -1

مہران = ۵۸

اس کی خفیہ رپورٹوں کا مجموعی سکور ۵۸ ہو گا۔

جب خصوصی بیانہ تنخواہ کے سکیل میں صرف دو یا کم خفیہ رپورٹیں موجود ہوں تو اس صورت میں اس کی نئی سکیل پر حاصل کی گئی رپورٹوں کے نمبر اس میں جمع کر لیے جاتے ہیں اور پیرا چار کے مطابق اس کی کیت کا اندازہ لگایا جاتا ہے۔

مثال-۵

ایک سول ملازم کی سکیل ۲۰ میں ترقی پر غور ہو رہا ہے۔ اس نے اپنی

ملازمت کے مختلف سکیلوں میں درج ذیل خفیہ رپورٹیں حاصل کی تھیں۔
سکیل ۱۷ = چار بہت اچھی، چار اچھی اور دو اوسط
سکیل ۱۸ = ایک اوسط اور ایک اوسط سے نیچے (منفی رپورٹ)
سکیل ۱۹ = دو بہت اچھی، پانچ اچھی اور ایک اوسط
اس کی خفیہ رپورٹوں کے نمبر اس طرح نکالے جائیں گے۔

(i) پہلا مرحلہ

سکیل ۱۷ میں اوسط نمبر

$$\frac{(8 \times 3) + (4 \times 3) + (5 \times 3) + (5 \times 1) + (5 \times 1) + (1 \times 1)}{13} = 4.3$$

$$\text{سکیل ۱۹ میں اوسط نمبر} = 40 = (8 \times 3) + (4 \times 5) + (5 \times 1)$$

(ii) دوسرا مرحلہ

$$(3 \times 4) + (3 \times 40) = 144$$

(iii) تیسرا مرحلہ

$$\text{خفیہ رپورٹوں کے نمبر} = 144$$

اس کی خفیہ رپورٹوں کا مجموعی سکور = ۱۴۴ ہو گا۔

نوٹ: سکیل ۱۸ میں اس کی علیحدہ کیت کا اندازہ کرنے کی صورت میں اس کا سکور کم ہو کر ۵۸ رہ جائے گا۔

ایک آفیسر جو کہ اعلیٰ عہدے پر قائم مقام کے طور پر کام کر رہا ہے اور اس اسامی پر ریگولر ہونے کے لیے اس کی ترقی زیر غور ہے۔ اس نے جو اپنے قائم مقام چارج کے دوران خفیہ رپورٹیں حاصل کی ہیں ان کو اس کی نئی سکیل پر کام کرنے کے دوران کی خفیہ رپورٹوں میں جمع کیا جائے گا۔

مثال-۶

ایک سول ملازم کو سکیل ۱۸ میں ترقی دی جا رہی ہے اس نے موجودہ سکیل میں دو رپورٹیں حاصل کیں لیکن سکیل ۲۱ میں اس نے ۶ رپورٹیں حاصل کی ہوئی ہیں۔ اس کی خفیہ رپورٹوں کے گریڈنگ حسب ذیل ہیں۔

○ سکیل ۱۷ = دو اچھی

○ سکیل ۲۱ = چار اچھی اور دو اوسط

اس کی رپورٹوں کے نمبروں کا اندازہ اس طرح کیا جائے گا:-

پہلا مرحلہ

$$\frac{(۷ \times ۲) + (۷ \times ۳) + (۵ \times ۲)}{۸} = ۶۶۷$$

دوسرا مرحلہ

$$(۱۰ \times ۶۶۵) = ۶۶۵۰$$

تیسرا مرحلہ: خفیہ رپورٹوں کے نمبر ۶۵

اس کی خفیہ رپورٹوں کا کل سکور ۶۵ ہو گا۔

اعلیٰ عہدے پر قائم مقام چارج پر کام کرنے والے آفیسر کو اس اسامی پر ریگولر کرنے کے لیے معاملہ زیر غور ہے۔ اس کی دوران قائم مقام کے طور پر حاصل کی گئی رپورٹوں کو اس کے نچلے سکیل میں حاصل کردہ رپورٹوں میں جمع کیا جائے گا۔

مثال-۷

ایک سول ملازم جس کی تقرری سکیل ۱۹ میں قائم مقام چارج کی بنیاد پر

ہوئی ہے، اس کو اس اسامی پر ریگولر ترقی دینے پر غور کیا جاتا ہے۔ اس قائم مقام چارج پر دو اچھی رپورٹیں حاصل کی ہیں اور پہلے سکیلوں پر درج ذیل رپورٹیں حاصل کی ہیں۔

○ سکیل ۱۷ = تین اچھی اور دو اوسط

○ سکیل ۱۸ = دو بہت اچھی، چار اچھی اور دو اوسط

اس کی رپورٹوں پر حاصل کردہ نمبر درج ذیل ہوں گے:-

(i) پہلا مرحلہ

$$\frac{(۷ \times ۳) + (۵ \times ۲)}{۵} = ۶۶۲$$

$$\frac{(۸ \times ۲) + (۷ \times ۳) + (۵ \times ۲) + (۷ \times ۲)}{۱۰} = ۶۶۸$$

(ii) دوسرا مرحلہ

$$(۶ \times ۶۶۸) + (۳ \times ۶۶۲) = ۶۵۶۲$$

(iii) تیسرا مرحلہ

○ خفیہ رپورٹوں کے نمبر = ۶۵۶۱

○ اس کی خفیہ رپورٹوں کا حتمی سکور ۶۵۶۶ ہو گا

۲- کام کا معیار و مقدار

(i) اوپر پیرا گراف ایک اور دو میں بتایا گیا ہے کہ گنتی کا طریقہ کام کے

معیار اور مقدار کے سلسلے میں درجہ بندی پر لاگو ہو گا۔

(ii) کام کے معیار و مقدار کا جمع کردہ سکور درج ذیل ہو گا:-

مجموعی سکور = خفیہ رپورٹوں کی کل تعداد (نمبر x متعلقہ درجہ بندی میں حاصل کردہ خفیہ رپورٹیں) $\times 10$

مثال-۸

سرکاری ملازم کی نفا خفیہ رپورٹوں میں کام کی مقدار و معیار پر حاصل کی گئی درجہ بندی درج ذیل ہے:-

○ بہت اچھی = ۵

○ اچھی = ۸

○ اوسط = ۳

اس کے مجموعی کام کے معیار اور مقدار پر کل سکور درج ذیل ہو گا۔

$$\frac{(10 \times 5) + (4 \times 8) + (5 + 3) \times 10}{12} = 43.33 = \text{مجموعی سکور}$$

بیانت

اسی طرح بیانت کا سکور درج ذیل ہو گا۔

مجموعی سکور = (نمبر x درجہ بندی کی کل رپورٹیں)

(کل خفیہ رپورٹوں کی تعداد)

مثال-۹

ایک سرکاری ملازم نے اپنی ۲۲ رپورٹوں میں بیانت کے اندراج پر درج

ذیل درجہ بندی حاصل کی:-

بہت اچھی اچھی اوسط

۴ ۳ ۶

اخلاقی

ذہانت

اس کا ذہانت میں حاصل کیا گیا سکور درج ذیل ہو گا۔

$$\text{اخلاق} = 40 = \frac{(10 \times 3) + (4 \times 3) + (5 \times 2) \times 10}{22}$$

$$\text{ذہانت} = 46.36 = \frac{(10 \times 5) + (4 \times 3) + (5 \times 5) \times 10}{22}$$

عملہ ڈویژن کے نیم سرکاری مراسلہ میں جاری کی گئی ترقی پالیسی کا حوالہ دیا جاتا ہے اور یہ بتایا جاتا ہے کہ کیت یافتہ معیار و مقدار اور بیانت کے متعلق سوال کیا گیا ہے۔ یہ واضح کیا جاتا ہے کہ امتیازی پالیسی کا اطلاق صرف خفیہ رپورٹ کے حصہ ۵ پر ہوتا ہے جہاں تک کام کے معیار یا مقدار اور بیانت کا تعلق ہے تو اس کے اندراج وہی رہیں گے ماسوائے اوسط کے جس کے نمبر ۵ تک بڑھا دیے گئے ہیں۔ ان دو اندراج کے نمبر درج ذیل ہوں گے:-

نمبر	اندراج
۱۰	الف-۱
۴	الف
۵	ب
۱	ج
۰	د

۲- مثال ۸ اور ۹ میں بہت اچھی رپورٹ کے غلطی سے ۸ نمبر لگے ہیں ان کو ۱۰

تصور کیا جائے اور اس کے مطابق ان کی درجہ بندی کی جائے۔

۳- یہ ہدایات تمام متعلقین کے علم میں لائی جائیں۔

(حاکم مجاز عملہ ڈویژن او۔ ایم نمبر ۱۰) ۸۵ سی پی مورخہ ۱۱ اگست ۱۹۸۵ء)

قواعد (طرز عمل) سرکاری ملازمین بحریہ ۱۹۶۳ء

۱۔ مختصر تعارف

صدر نے آئین کی دفعہ ۱۷۸ کی شق (۲) کے پیرا (الف) اور دفعہ ۱۷۹ کی شق (۱) کے بموجب اور اس سلسلے میں اسے مجاز کرنے والے تمام اختیارات استعمال کرتے ہوئے، مندرجہ ذیل ضوابط جاری کیے ہیں:

۲۔ مختصر نام اور آغاز

- (۱) یہ قواعد "قواعد (طرز عمل) سرکاری ملازمین بحریہ ۱۹۶۳ء"۔
- (۲) یہ قواعد فی الفور نافذ العمل ہوں گے۔

۳۔ وسعت اور اطلاق

- (۱) ان قواعد کا اطلاق ہر اس شخص پر ہو گا جو سرکاری حیثیت سے مرکزی معاملات

کے سلسلے میں خدمات انجام دے رہا ہے، چاہے وہ ڈیوٹی پر ہو یا رخصت پر، اور پاکستان سروس کے ممبران، صوبائی حکومتوں کے تحت یا کسی دوسری حکومت، انجمنی ادارے یا خود مختار ادارے میں دوران ملازمت مستعار المحدثی پر ہوں۔

بشرطیکہ

(۱) وفاقی حکومت سرکاری گزٹ میں اعلان کے ذریعے سرکاری ملازمین کی کسی کلاس کو ان تمام یا ان میں سے بعض ضوابط سے مستثنیٰ قرار دے۔

۳- تعریفات

ان قواعد میں آؤقتیکہ کوئی امر موضوع یا متن کے متانی نہ ہو۔

(الف) حکومت سے مراد وفاقی حکومت اور پاکستان سروس کے افسران جو صوبے یا صوبائی حکومت میں ملازمت کر رہے ہیں۔

(ب) سرکاری ملازم سے مراد وہ شخص ہے جس پر یہ قواعد لاگو ہوتے ہیں اور

(ج) سرکاری ملازم کے کنبہ کا کون ممبر شمار ہو گا۔

(د) اس کی بیوی، بیٹے، سوتیلے بچے چاہے سرکاری ملازم کے ساتھ رہائش پذیر ہو یا نہیں، اور

(۱) سرکاری ملازم یا اس کی بیوی کا کوئی دوسرا رشتہ دار جو اس کے ساتھ رہائش پذیر ہو اور وہ کلی طور پر سرکاری ملازم پر انحصار کرتا ہو، لیکن اس میں وہ بیوی شمار نہیں ہوگی جس نے قانونی طور پر طہیحگی اختیار کر لی ہو یا بچہ سوتیلے بچہ جس کی نگرانی سے سرکاری ملازم کو قانونی طور پر محروم کر دیا گیا ہو۔

(۲) خاتون سرکاری ملازم کی صورت میں ذیلی دفعہ (۱) کی شق (س) میں بیوی سے نسبت کی جگہ شوہر سے نسبت منظور ہو گا۔

۵- سابقہ قواعد کی منسوخی

حکومت ہند کے ایکٹ کی دفعہ ۹۶- بی اور متحدہ ریاست کے قواعد (طرز عمل) ۱۹۳۲ء جو کہ حکومت ہند ایکٹ ۱۹۳۵ء کی دفعات ۲۷۸ (۱) ۲۵۰ اور ۲۶۹ کے تحت بنائے گئے تھے اور ان کا اطلاق جن اشخاص پر ہوتا تھا، کو بذریعہ ہذا منسوخ کیا جاتا ہے۔ البتہ ان قواعد کے مطابق کیے گئے فیصلے اس منسوخی سے متاثر نہیں ہوں گے۔

۶- تخائف

(۱) بموجب اعلان نمبر ۸۰۷ (۱) ۷۹، مورخہ ۳-۹-۷۹، اس قاعدہ کی رو سے کوئی گورنمنٹ ملازم، سوائے پہلے منظوری کے کسی شخص سے کوئی تخف نہ خود لے سکتا ہے اور نہ ہی اپنے کنبہ کے کسی فرد کو اس کی اجازت دے سکتا ہے، جس کی وصولی سے وہ تخفہ دہندہ کا دفتری لحاظ سے احسان مند ہو۔ اگر مخصوص وجوہات کی بنا پر تخفہ لینے سے انکار نہ کیا جاسکتا ہو، تو پھر کابینہ ڈویژن کو اطلاع دے کر اس تخفہ کو محکمہ یا آرگنائزیشن جس میں وہ کام کر رہا ہو، میں دفتری استعمال کے لیے رکھ سکتا ہے۔

(۲) اگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ تخفہ قبول کرنے پر دفتری معاملے میں تخفہ دینے والے پر رعایت ہوئی ہے، تو اس سلسلے میں حکومت کا فیصلہ حتمی ہو گا۔

(۳) اگر کسی بیرونی ریاست کا سربراہ یا نمائندہ کوئی تخفہ پیش کرتا ہے تو متعلقہ سرکاری ملازم کو چاہیے کہ وہ ممکنہ حد تک کوشش کرے کہ اسے قبول نہ کرے، اگر ایسا ممکن نہ ہو، تو پھر وہ تخفہ قبول کر لے اور اس کی وصولی کی اطلاع برائے احکام و تسویہ کابینہ ڈویژن کو دے۔

(۴) پاکستان میں ٹھہرے ہوئے غیر ملکی سیاست دان، قونصلر یا ان کے ملازمین سے کسی قسم کا تخفہ لینے سے سرکاری ملازمین کو منع کیا گیا ہے، البتہ

اگر بعض مخصوص وجوہات کی بنا پر تحفہ لینے سے انکار ممکن نہ ہو، تو پھر اسے ہر حال میں توشہ خانہ میں جمع کرایا جائے۔

(v) ماسوائے سکیل آتا ۴ کے ملازمین کے، تمام دیگر ملازمین کو دورے پر آئی ہوئی غیر ملکی شخصیات سے نقد انعام لینے سے منع کیا گیا ہے۔ ہر صورت اگر ایسا ممکن نہ ہو تو پھر یہ رقم قبول کی جاسکتی ہے، لیکن اسے فوراً "خزانہ سرکار کی متعلقہ مد میں جمع کرایا جائے۔"

(vi) تحفہ وصول کرنے والے سرکاری ملازم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ بلا لحاظ قیمت تحفہ کی رپورٹ کابینہ ڈویژن کے توشہ خانہ میں کرے، البتہ غیر ملکی اعلیٰ عہدیداران یا دفنہ جو پاکستان آتے ہیں، ان سے وصول کردہ تحائف اور وصول کنندگان کی فہرست کابینہ ڈویژن کو مہیا کرنے کی ذمہ داری چیف پروٹوکول یا اس کے نمائندے پر عائد ہوتی ہے، جنہیں ان کے ساتھ لگایا جاتا ہے اور اگر پاکستانی دفنہ جب باہر جائیں تو اس صورت میں تحائف اور وصول کنندگان کی فہرست کابینہ ڈویژن اور دفتر خارجہ متعلقہ سفارت کار کی ذمہ داری ہے۔

(vi) تحائف کی مالیت کا تعین کابینہ ڈویژن کرے گی اور درج ذیل مالی حدود و شرائط پر وصول کنندہ تحائف کو اپنے پاس رکھ سکتا ہے:

(الف) ہزار روپے کی مالیت تک کے تحائف وصول کنندہ اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔

(ب) تحائف کی مالیت ایک ہزار اور پانچ ہزار کے درمیان ہو تو وصول کنندہ ایک ہزار سے اوپر کی قیمت کا ۲۵ فی صد ادا کر کے اسے اپنے پاس رکھ سکتا ہے، اور

(ج) پانچ ہزار سے زیادہ کی مالیت کے تحائف اس صورت میں وصول کنندہ رکھ سکتا ہے جب وہ ایک ہزار سے اوپر کی ملکیت کا ۲۵ فی صد ادا کرے، لیکن اگر یہ رقم پانچ ہزار سے زیادہ ہو تو پھر پانچ ہزار سے اوپر کی مالیت کا ۱۵

فی صد جمع کرائے۔

۷۔ غیر ملکی اعزازات کی قبولیت

کوئی سرکاری ملازم صدر کی منظوری کے بغیر غیر ملکی تمغہ، خطاب یا اعزازی نشان قبول نہیں کر سکتا۔

وضاحت:

اس قاعدہ کی تصریح کے لیے صدر کی منظوری سے مراد عام نوعیت کے معاملہ میں پیشگی منظوری ہے اور جہاں پیشگی منظوری کے لیے وقت نہیں ہوتا تو اس صورت میں بعد میں منظوری لی جاسکتی ہے۔

۸۔ سرکاری ملازمین کے اعزاز میں اجلاس منعقد کرنا

۱۔ کوئی سرکاری ملازم اپنے اعزاز میں اجلاس منعقد کرنے یا خطاب کرنے، جس کا بڑا مقصد اس کی تعریف کرنا ہو، کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا۔

۲۔ ذیلی قاعدہ ۳۳ میں بتائی گئی چیزوں کے علاوہ:

(الف) سرکاری ملازم اپنے سے مقدم آفسیر کی اجازت سے مفاد عامہ یا خیراتی مقاصد میں خرچ کرنے کے لیے فنڈز کے بڑھانے میں حصہ لے سکتا ہے۔

(ب) سرکاری ملازم حکومت کی منظوری سے پبلک فنڈز یا خیراتی مقاصد کے فنڈ میں اضافہ کے لیے، اس کا تعلق کسی دوسرے سرکاری ملازم سے ہو یا کسی ایسے شخص سے جس نے ابھی سرکاری نوکری چھوڑی ہو، حصہ لے سکتا ہے۔

(ج) بیرون ملک پاکستان مشن کے سربراہ اپنے اعزاز میں منعقدہ کسی بھی اجلاس یا تفریحی پروگرام میں حصہ لے سکتا ہے۔

- ۳۔ جب ایک سرکاری ملازم ذیلی قاعدہ ۲ کی شق (الف) اور (ب) کے مطابق فنڈ بڑھانے کے پروگرام میں حصہ لیتا ہے، تو اسے اس رقم کا حساب کتاب رکھنا ہو گا اور اسے اپنے اعلیٰ افسر کے سامنے محاسبہ کے لیے پیش کرنا ہو گا۔
- ۴۔ ذیلی قاعدہ ۲ کی شق (الف) اور (ب) کا اطلاق پاکستان پولیس سروس اور پاکستان ٹیکسٹائل سروس کے ملازمین پر نہیں ہوتا۔

۹۔ افسران طب کو تحفہ

محکمہ قواعد کی رو سے اگر ایک افسر طب (میڈیکل افسر) کو اس کی پیشہ وارانہ خدمات اور مہارت کے پیش نظر اچھی نیت سے کوئی جدید طرز کا تحفہ دیا جائے، تو وہ شخص یا اشخاص سے قبول کر سکتا ہے۔

۱۰۔ چندے

بشرط قاعدہ ۷، کوئی سرکاری ملازم حکومت کی بیچگی منظوری کے بغیر کسی بھی مالی امداد یا کسی ایسے مقصد کے لیے نہ تو چندہ مانگ سکتا ہے، قبول کر سکتا ہے اور نہ ہی چندہ بڑھانے کے لیے حصہ لے سکتا ہے۔

۱۱۔ ادھار کالین دین

(i) کوئی سرکاری ملازم اپنے دائرہ اختیار کی حدود میں نہ تو کسی کو رقم ادھار دے گا اور نہ ہی کسی سے کوئی رقم بطور ادھار لے گا۔ جس سے وہ احسان مند ہونے کی صورت میں دفتری کاروبار میں نقص کا باعث ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ اس قاعدہ کا اطلاق عام نوعیت کے کاروباری معاملات پر جو مشترکہ شاک، کپنی، بک یا فرم کے ساتھ ہوں، نہیں ہو گا۔

(ii) جب ایک سرکاری ملازم کی تقرری یا تبادلہ ایسی نوعیت کی اسامی پر ہو کہ ایسا شخص جس سے اس نے ادھار کالین دین کیا ہو اور اس کی مالی

احسان مندی دفتری اختیارات کے تابع ہو یا وہ وہاں رہے گا، ناقابل انتقال جائیداد رکھتا ہے، یا وہ اس علاقے میں کاروبار جاری رکھے ہوئے ہے، تو فوری طور پر ان تمام حالات کا اعلان و وضاحت معمول کے طریقے سے حکومت کو کرے گا۔

(iii) غیر جریدی سرکاری ملازم ذیلی قاعدہ (۲) میں مذکور اعلان اپنے دفتر کے سربراہ سے کرے گا۔

(iv) اس انجمن امداد باہمی کو جو کہ انجمن امداد باہمی کے قانون ۱۹۱۳ء عارضی یا ریزولوشن سے متعلقہ عارضی قانون کے تحت انجمن امداد باہمی سے قرض کے لین دین کو بھی اس قاعدے کے معنوں میں شمار کیا جائے، بشرطیکہ کوئی عام یا خاص پابندیاں یا رعایتیں یا حکومت کی طرف سے اس قسم کی اجازت دی گئی ہو۔

۱۲۔ منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کی خرید و فروخت

سرکاری ملازم جو کسی ایسی منقولہ یا غیر منقولہ جائیداد جس کی مالیت ۲۵ ہزار سے زیادہ ہو، کو بیچتا، خریدتا یا اس کا تسویہ کسی دوسرے طریقے سے کرنا چاہتا ہے، تو اسے محکمہ کے سربراہ یا معتمد سے اجازت لینا ہو گی اور اگر معتمد بذات خود منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کالین دین کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ معتمد وزارت یا معتمد عملہ ڈویژن سے اجازت لے گا، اور حکومت کے فیصلے کے مطابق جائیداد کی خرید و فروخت کرے گا، لیکن اگر یہ تمام خرید و فروخت سرکاری ملازم کے اپنے ماتحت کے ساتھ ہے تو پھر اپنے اعلیٰ افسر کو رپورٹ کرنا ہو گی۔

تشریح

اس ضابطے میں لفظ جائیداد کی اصطلاح سے مراد زرعی یا شہری زمین، بانڈز، حصص، تمسکات ہیں، تاکہ ایسا پلاٹ شامل نہیں ہے جو بغرض تعمیر مکان کو اپریٹو ہاؤسنگ

سوسائٹی یا گورنمنٹ ہاؤسنگ سکیم سے خرید گیا ہو۔
۲۔ ۲۵ ہزار کی مالیت تک کے بانڈز، سیونگ سرٹیفکیٹس اور تسکات کی خرید و فروخت کے سلسلے میں پیشگی منظوری کی ضرورت نہیں ہے۔ البتہ متعلقہ سرکاری ملازم کو ہر سال کے آخر میں اس قسم کے لین دین کا فارم گوشوارہ میں اندراج ضرور کرنا ہو گا۔

۱۳۔ مکان کی تعمیر وغیرہ

کوئی سرکاری ملازم عمارت کی تعمیر نہیں کرے گا خواہ وہ رہائشی یا تجارتی مقاصد کے لیے ہو، سوائے پیشگی حکومت کے منظوری کہ جو وہ بذریعہ درخواست حاصل کرے گا، جس میں تعمیر کے لیے سرمایہ کے حصول کا ذریعہ بھی بتایا جائے گا۔

۱۴۔ اعلان جائیداد

۱۔ ہر سرکاری ملازم سرکاری ملازمت میں داخلے کے وقت معمول کے طریق کار کے مطابق حکومت کو اپنی اور اپنے کنبہ کے ارکان کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد بشمول حصص، سرٹیفکیٹس، تسکات، بیمہ پالیسیاں اور زیورات جن کی کل مالیت ۵۰ ہزار یا اس سے زائد ہو، کی تفصیل پیش کرے گا اور اس طرح اعلان میں یہ بتایا جائے گا کہ:

- (۱) یہ جائیداد کس ضلع میں ہے۔
- (۲) ۵۰ ہزار سے زائد کی مالیت کے زیورات کی مالیت کے ساتھ پوری تفصیل دی جائے گی اور

(۳) حکومت کی طرف سے مزید مطلوبہ اطلاع بھی درج کی جائے گی۔
۲۔ ہر سرکاری ملازم ہر سال دسمبر میں پچھلے سال کے گوشوارہ میں درج کی گئی جائیداد میں کسی بھی قسم کی کمی و بیشی سے متعلق معمول کے طریق کار کے مطابق جائیداد کا گوشوارہ پیش کرے گا۔

۱۵۔ منقولہ و غیر منقولہ اور مائع جائیداد (Liquid Property) ظاہر کرنا حکومت کی جانب سے حکم یا خصوصی حکم پر سرکاری ملازمین کو مطلوبہ معلومات بابت منقولہ و غیر منقولہ جائیداد بشمول مائع (Liquid Property)، حصص، سرٹیفکیٹس، بیمہ پالیسیاں، زیورات، ظاہر کرنا ہو گا۔

۱۶۔ قیاسی تجارت اور بیوپار میں لگائی ہوئی رقم

۱۔ سرکاری ملازم بیوپار میں قیاسی تجارت نہیں کرے گا۔ اس قاعدے کی رو سے تسکات کے ناجائز آمد چڑھاؤ پر خرید و فروخت کو قیاسی تجارت شمار کیا جائے گا۔

۲۔ کوئی سرکاری ملازم ایسی تجارت نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنے کنبہ کے ارکان کو اس کی اجازت دے گا، جس سے اس کے سرکاری فرائض کی بجا آوری میں خلل پیدا ہوتا ہو۔۔۔ یا کوئی مشکل پیش آئے۔

۳۔ کوئی سرکاری ملازم ایسا کاروبار نہیں کرے گا، جس سے اس کی مالیت محض اس وجہ سے بڑھنے کا امکان ہو کہ اس کاروبار سے متعلق سرکاری ملازم کے پاس ایسی معلومات ہیں جو عام پبلک کو نہیں۔

۴۔ اگر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ آیا کوئی سیکورٹی یا سرمایہ کاری درج بالا قاعدے میں درج نوعیت سے تعلق رکھتی ہے یا نہیں تو اس سلسلے میں حتمی فیصلہ حکومت کا ہو گا۔

۱۷۔ کمپنیوں کا انتظام اور ترقی

سوائے پیشگی منظوری کے کوئی سرکاری ملازم کسی بینک یا کمپنی کے انتظام، ترقی اور رجسٹریشن کے سلسلے میں حصہ نہیں لے گا، مگر شرط یہ ہے کہ سرکاری ملازم حکومت کے عام یا خصوصی حکم پر، انجمن امداد باہمی جو کہ باقاعدہ انجمن امداد باہمی

ایکٹ ۱۹۱۳ء یا کسی ایسے ہی قانون کے تحت رجسٹرڈ ہو، کی ترقی و انتظام میں حصہ لے سکتا ہے۔

۱۸۔ پرائیویٹ تجارت، نوکری یا کام

۱۔ سرکاری ملازم کسی بھی ماسوائے پیشگی منظوری کے کسی ٹریڈ، ملازمت یا ایسے کام میں اپنے آپ کو مصروف نہیں کر سکتا، جن کا تعلق سرکاری فرائض کی بجا آوری سے نہ ہو۔ مگر شرط یہ ہے کہ وہ بہتر منظوری کے، اعزازی کام بسلسلہ مذہبی، سوشل یا خیراتی یا پیش آمدہ وقتی کام بسلسلہ فن کارانہ خواندگی کر سکتا ہے، لیکن اگر ان معاملات میں اس کی دفتری حیثیت پر کوئی آج نہیں آنی چاہیے تاہم اگر ایسی سرگرمی پر بھی حکومت منع کرتی ہے تو پھر اسے ترک کرنا ہو گا۔ اگر سرکاری ملازم کو کسی کام کے معاہدے کی صحت پر شک ہو تو وہ اسے حکومت کو پیش کر سکتا ہے۔ مزید شرط یہ ہے کہ غیر جریدی سرکاری ملازم کوئی بھی کام کر سکتا ہے جس میں اس کے کنبہ کی مزدوری جذب ہو سکے، لیکن جب وہ ایسا کرے تو اس کو گوشوارہ جائیداد کی تفصیل دینا ہو گی۔

۲۔ ذیلی قاعدہ "۲" میں دی گئی چیزوں کے علاوہ کوئی سرکاری ملازم اپنے آپ کو کسی پرائیویٹ ٹرسٹ، فاؤنڈیشن یا اسی طرح کے دوسرے ادارہ جو حکومت کی وساطت سے نہ چل رہا ہو، سے میل ملاپ نہیں رکھ سکتا۔

۳۔ اس ضابطہ کا اطلاق کھیلوں کی سرگرمیوں اور تفریحی کلبوں کی ممبرشپ پر نہیں ہوتا۔

(الف) حکومت کی طرف سے الاٹ شدہ رہائش کو آگے کرائے پر دینا

سربراہ ادارہ کی اجازت کے بغیر کوئی سرکاری ملازم حکومت کی طرف سے الاٹ شدہ رہائش کو کسی اور شخص یا خاندان کو کرایہ پر نہیں دے گا۔

(ب) سرکاری ملازم اپنے وسائل سے ماورا نہیں رہے گا
سرکاری ملازم اپنے وسائل سے بڑھ کر شادی اور دوسری تقریبات وغیرہ میں نمود و نمائش سے گریز کرے گا۔

۱۹۔ دیوالیہ پن اور عادی مقروض

سرکاری ملازم عادتاً قرض لینے سے گریز کرے گا۔ اگر ایک سرکاری ملازم مفلس قرار دیا گیا ہو یا اس کی تنخواہ کا پورا یا کچھ حصہ قرض کی ادائیگی کے طور پر کٹ لیا جاتا ہو اور یہ سلسلہ دو سال تک جاری رہے اور وہ ملازم اپنی کٹوتی کے باوجود دو سال تک قرض اتارنے کے قابل نہ رہے تو ایسی صورت میں اس کو مفلس تصور کیا جائے گا اور یہ اس قاعدے کی خلاف ورزی ہے، تاہم وہ سرکاری ملازم یہ ثابت نہ کر دے کہ وہ قرض لینے کا عادی نہیں ہے اور یہ حالات اس کی دسترس سے باہر ہیں۔ اور یہ صورت اس کی فضول خرچی اور غلط عادات کی بنا پر نہیں ہوئی بلکہ ان حالات میں باوجود کوشش کے وہ اپنے حالات سدھار نہیں سکا۔ سرکاری ملازم کو جب کڑکال قرار دیا جائے، تو وہ فوراً متعلقہ ادارے کے سربراہ، معتمد جو بھی صورت ہو، کو اس کی رپورٹ کرے گا۔

۲۰۔ جرم میں ملوث ہونے اور سزا دہی کی اطلاع

اگر کوئی سرکاری ملازم کسی جرم میں بطور ملزم ملوث کر لیا جاتا ہے، تو اسے اس کیس میں ملوث کرنے یا ملزم ہونے کے متعلق پورے متعلقہ پورے متعلقہ فوراً طور پر سربراہ ادارہ کے نوٹس میں لانے چاہئیں اور اگر وہ گرفتار ہو جائے تو ضمانت پر رہائی کے فوراً بعد اسے اس کی اطلاع دینا چاہیے۔

۲۱۔ دفتری دستاویزات یا معلومات کی غیر مجاز خبر رسانی

غیر مجاز ماسوائے حکومت کے خصوصی حکم کے کوئی سرکاری ملازم، عام شخص یا

پریس کو کوئی سرکاری دستاویز نہیں دے گا اور نہ ہی کوئی اطلاع افشاء کرنے گا۔

۲۲۔ ممبران اسمبلی تک رسائی

کوئی سرکاری ملازم براہ راست یا بالواسطہ ممبر قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی یا کسی غیر سرکاری شخصیت تک رسائی نہیں کرے گا، کہ وہ اس کے لیے کسی معاملے میں مداخلت کرے۔

۲۳۔ اخبارات اور رسالہ جات کا انتظام وغیرہ

کوئی سرکاری ملازم سوائے حکومت کی منظوری کے کسی اخبار، رسالہ کا نہ تو مالک بن سکتا ہے اور نہ ہی اس کی ادارت یا انتظامات وغیرہ میں حصہ لے سکتا ہے۔

۲۴۔ ریڈیو کی نشریات یا ٹیلیویژن پروگرام اور پریس کی خبر رسائی

حکومت کی یا کسی دوسرے متعلقہ حاکم مجاز کی منظوری کے بغیر سرکاری ملازم جو اپنی اصل ڈیوٹی پر ہو۔ ریڈیو نشریات، ٹیلی ویژن پروگرام، مضامین وغیرہ یا خط لکھنے اپنے نام یا کسی دوسرے کے نام پر یا فرضی نام سے بھی لکھنے کا مجاز نہیں۔ ایسی منظوریوں صرف اس صورت میں دی جاسکتی ہیں جب یہ نشریات، ٹیلیویژن پروگرام یا خطوں وغیرہ سے ملکی سالمیت، دوست ممالک سے تعلقات یا پبلک کی گمراہی، اخلاقیات، بدنامی، بری شہرت اور پبلک کو آکسانے وغیرہ کا کام نہ کریں، البتہ نشریات، ٹیلیویژن پروگرام میں حصہ لینے یا خطوط جن کا تعلق خالصتاً ادبی، فنی، ثقافتی یا سائنسی نوعیت کا ہو، میں حصہ لے سکتا ہے۔

۲۵۔ اطلاع یا تقریر کی اشاعت جو حکومت کے لیے باعث پریشانی ہو

۱۔ کسی سرکاری ملازم کو ایسی دستاویز کی اشاعت نہیں کرے گا یا پریس کے ساتھ اپنے نام خط و کتابت، پبلک تقریر یا ریڈیو، ٹیلیویژن پر کوئی ایسا بیان یا رائے جو حکومت

کے لیے پریشانی کا موجب ہو، کی اجازت نہیں ہے۔

۲۔ مگر شرط یہ ہے کہ ٹیکنیکل سٹاف ٹیکنیکل موضوع پر تحقیقی مقالہ طبع کر سکتا ہے، لیکن ایسے مقالات میں سیاسی نظریات اور حکومت کی پالیسی ایسی مخصوص نوعیت کی معلومات افشاء نہیں کی جائیں گی۔

۳۔ جب کوئی سرکاری ملازم ایک ادبی، فنون لطیفہ یا سائنسی مضمون یا کتاب کے مسودہ کو اشاعت کی منظوری کے لیے پیش کرتا ہے تو اسے تین ماہ کے اندر اندر اس کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اس کے متعلق کیا حکم ہے، لیکن اگر اس دوران یہ میں اسے منظوری یا نامنظوری کی کوئی اطلاع نہ دی جائے تو پھر یہ تصور کر لیا جائے گا کہ اس کی درخواست منظور کر لی گئی ہے۔

۲۶۔ کمیٹیوں کے روبرو شہادت

۱۔ حکومت کی منظوری کے بغیر کوئی سرکاری ملازم کسی پبلک کمیٹی کے سامنے شہادت نہیں دے گا۔

۲۔ اس طرح کی شہادت دیتے ہوئے سرکاری ملازم مرکزی یا صوبائی حکومت کی پالیسی یا فیصلوں پر نقطہ چینی نہیں کرے گا۔

۳۔ اس ناعدہ کا عدالتی انکوائری اور قانونی کمیٹی جسے سوال و جواب اور حاضری پر مجبور کرنے کا اختیار حاصل ہے، اطلاق نہیں ہو گا۔

۲۷۔ انتخابات اور سیاست میں حصہ لینا

۱۔ کوئی سرکاری ملازم پاکستان میں کسی سیاسی تحریک یا پاکستانی معاملات کے متعلق کسی بھی تحریک میں کسی قسم کا حصہ نہیں لے گا۔

۲۔ سرکاری ملازم اپنے افراد کنبہ یا زیر کفالت انفراد جن کی نگرانی کی ذمہ داری اس پر ہو، کو اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ کسی بھی ایسی تحریک یا سرگرمی میں حصہ لے جس کا مقصد قانونی حکومت کو براہ راست یا بالواسطہ

نقصان پہنچانا ہو۔

۳۔ سرکاری ملازم قانون ساز ادارے کے انتخابات کے سلسلے میں چاہے وہ پاکستان میں ہوں یا کہیں اور، کسی قسم کی مدد یا مداخلت نہیں کرے گا، مگر شرط یہ ہے کہ سرکاری ملازم کو جہاں ووٹ کا حق ہے وہاں پر اپنا ووٹ دے، لیکن اس صورت میں اپنی رائے کا اظہار نہیں کرے گا۔

۴۔ ذیلی قاعدہ ۳ کے مطابق سرکاری ملازم نہ تو خود سیاسی پارٹی بنائے یا اس کا ممبر بنے اور نہ ہی اپنے کنبہ کے ممبرانہ زیر کفالت افراد کو ایسا کرنے کی اجازت دے گا۔

۵۔ سرکاری ملازم چناؤ کرنے والوں سے، خطاب کے ذریعے یا کسی دوسرے ذریعے سے یہ باور کراتا ہے کہ وہ قانون ساز ادارے کے لیے انتخاب میں امیدوار یا متوقع امیدوار ہے تو اس کا یہ عمل کسی ایسے ادارے کے انتخاب میں حصہ لینے کی ذیلی قاعدہ ۳ کے مترادف ہو گا۔

۶۔ ذیلی قاعدہ ۳ اور ۵ کا ہر صورت میں لوکل اتھارٹیز یا باڈیز کے انتخابات پر اطلاق ہوتا ہے، اگر حکومت ضروری سمجھتی ہے تو فی الوقتی قواعد یا احکامات یا خصوصی اجازت کے ذریعے سرکاری ملازم امیدوار بن سکتا ہے۔

۷۔ اگر کسی سرگرمی یا تحریک کے معاملے میں یہ سوال پیدا ہو کہ آیا یہ اس ضابطہ کے تحت آتی ہیں یا نہیں تو اس معاملے میں حکومت کا فیصلہ حتمی ہو گا۔

(الف) سرکاری ملازم نظریہ پاکستان کے خلاف اپنے تاثرات کا اظہار نہیں کرے گا

کوئی سرکاری ملازم پاکستان کے نظریہ اور سلامتی کے خلاف تاثرات کا اظہار نہیں کرے گا۔

(ب) عوام کی طرف حکومت کے فیصلوں کے خلاف اظہار میں سرکاری

ملازم حصہ دار نہیں بنے گا، نہ ہی ان کی مدد کرے گا

کوئی سرکاری ملازم حکومت کے فیصلوں کے خلاف عوام کے احتجاج میں حصہ نہیں لے گا اور نہ ہی مدد کرے گا اور نہ ہی اپنے ممبرانہ کنبہ اور زیر کفالت افراد کو اس کی اجازت دے گا۔

۲۸۔ اقربا پروری، جانب داری اور ظلم وغیرہ

سرکاری ملازم، صوبائی تعصب، مقامی تعصب، جانبداری، ظلم و زیادتی اور عمداً دفتر کی بدنامی کا باعث نہیں ہو گا۔

۲۹۔ سرکاری ملازمین کی طرف سے عوامی کردار کی پشت پناہی

کوئی سرکاری ملازم حکومت کی پیشگی اجازت کے بغیر عوامی کردار کے دفاع میں کسی عدالت یا پریس سے رجوع نہ کرے۔ منظوری کے بعد حکومت، بد عمومی اخراجات برداشت کرتی ہے اور دوسری صورت میں سرکاری ملازم پر چھوڑ دیا جاتا ہے کہ وہ خود کارروائی کے اخراجات برداشت کرے۔ دوسری صورت میں اگر سرکاری ملازم اپنے حق میں فیصلہ کرانے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو حکومت کل اخراجات یا اس کا کچھ حصہ اسے واپس کر سکتی ہے۔ اس قاعدہ کی رو سے اس کے ذاتی کردار کا تحفظ و دفاع متاثر نہیں ہو گا۔

۳۰۔ سروس انجمنوں کی رکنیت

کوئی سرکاری ملازم کسی سروس ایوشن کا رکن، عہدیدار بننے کی تمنا نہیں کرے گا، جب تک کہ وہ تنظیم درج ذیل شرائط پوری نہیں کرتی۔

(الف) ایوشن ایوشن کے دفتری عہدیدار اور رکنیت ملازمین کی مخصوص کلاس تک محدود ہوگی۔ اس تنظیم کا ہر سرکاری ملازم جو اس درجے سے تعلق رکھتا ہے، اس کا رکن بن سکے گا۔

(ب) تنظیم کسی ایسی دوسری تنظیم سے الحاق نہیں کرے گی جو شرط

(الف) پر پوری نہ اترتی ہو۔

(ج) تنظیم کا کسی سیاسی پارٹی، تنظیم سے تعلق نہیں ہو گا اور وہ سیاسی

سرگرمیوں میں ملوث نہیں ہوگی۔

(د) ایسوسی ایشن درج ذیل امور انجام نہیں دے گی:

(i) حکومت کے خصوصی حکم کے مطابق کسی رسالہ کی اشاعت یا اس کا

انتظام نہیں کرے گی۔

(ii) حکومت کی منظوری کے بغیر اپنی یا ارکان کی جانب سے نمائندگی کی

اشاعت نہیں کی جائے گی۔

(e) تنظیم پاکستان یا پاکستان سے باہر کسی قانون ساز تنظیم یا مقامی ادارے

کے انتخابات میں کسی قسم کا حصہ نہیں لے گی۔

(i) انتظامیہ میں کسی امیدوار کی مالی اعانت نہیں کرے گی۔

(ii) کسی فرائض سے امیدوار کی اعانت نہیں کرے گی۔

(B) ایسے انتخابات میں درخواست دہندگان کی رجسٹریشن یا امیدوار کے

انتخاب کے سلسلے میں کوئی معاہدہ نہیں کیا جائے گا۔

(د) ایسوسی ایشن درج ذیل امور انجام نہیں دے گی:

(i) پاکستان میں یا کہیں بھی کسی قانون ساز تنظیم یا مقامی ادارے کی رکنیت

سازی کے انتظام میں کوئی حصہ نہیں لے گی۔

(ii) وہ کسی ایسی تجارتی یونین میں رقم یا حصہ نہیں ڈالے گی جو ٹریڈ یونین

ایکٹ ۱۹۳۶ء کی دفعہ ۲۱ کے تحت بنائی گئی ہو۔

۳۱۔ غیر سیاسی تنظیموں کی رکنیت

سرکاری ملازم کسی ایسی غیر سیاسی تنظیموں کا ممبر نہیں بنے گا جس کے

مقاصد، نوعیت اور سرگرمیوں سے عوام واقف نہ ہوں۔

۳۲۔ سیاسی یا دوسرے اثر و رسوخ کا استعمال

سرکاری ملازم اپنے کسی دعویٰ کی ممانعت اور ملازمت کے سلسلے میں حکومت

پر یا کسی سرکاری ملازم پر کسی قسم کا سیاسی یا دوسرا دباؤ و اثر بالواسطہ یا بلاواسطہ نہیں

ڈالے گا۔

۳۳۔ غیر ملکی مشنوں اور امداد دینے والی ایجنسیوں تک رسائی

سرکاری ملازم بیرون ملک دورے کی دعوت یا تربیت کی سہولت کے حصول کے

سلسلے میں پاکستان میں آئے ہوئے غیر ملکی مشن یا امداد دہندہ ایجنسی سے رابطہ نہیں

کرے گا۔

۳۴۔ تفویض اختیار

ضوابط کی حدود میں رہتے ہوئے حکومت کسی بھی ماتحت افسر کو بذریعہ حکم کالی یا

کچھ اختیارات تفویض کر سکتی ہے اور رپورٹ پیش کرنے کا طریقہ بھی بنا سکتی ہے۔

۳۵۔ ضوابط کسی بھی قانون کی تحقیر نہیں کرتے

۱۔ یہ ضوابط سرکاری ملازمین سے متعلقہ کسی بھی قانون کی بے حرمتی نہیں کرتے۔

”ضوابط سرکاری ملازمین ۱۹۶۳ء“ کے تحت معتدین حکومت کو تفویض

کیے گئے اختیارات

نمبر شمار۔ ۲

”قواعد (طرز عمل) سرکاری ملازمین ۱۹۶۳ء کے قواعد ۲۳ اور ۲۷ میں معتدین حکومت

کو دیے گئے اختیارات کا حکم منسلک ہے۔

۲۔ مرکزی حکومت معتدین حکومت کو مذکورہ قواعد پر قاعدہ ۲۱ کے تحت ان کے

زیر انتظام سرکاری ملازمین سے متعلق مرکزی حکومت کے اختیارات تفویض کرتی ہے۔

۳۔ وزارتوں، ڈویژنوں سے درخواست ہے کہ ازراہ کرم بتائیں کہ آیا درج بالا اختیارات ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں؟ اگر ان کے خیال میں مزید اختیارات کی ضرورت ہے تو متعلقہ معتمد صاحبان کی وساطت سے منظور شدہ تجاویز اس ڈویژن کو ارسال کریں۔
(اتحادی: دفتری یادداشت نمبر ۳۰/۶۵-ڈ۔و۔ مورخہ ۱۹ جولائی ۱۹۶۵ء)

باب ۲۱

بھرتی کی پالیسی (حکمت عملی)

۱۔ وفاقی حکومت، خود مختار اور نیم خود مختار اداروں کے تحت سول اسامیوں کی بھرتی کے لیے صوبائی اور علاقائی کوئٹہ

ملازمتوں میں امتیاز کے خلاف تحفظ۔

دفعہ ۲۷ (۱) پاکستان سروس میں اہلیت کے برعکس کسی شہری کے ساتھ کسی ایسی تقرری جو صرف نسل، مذہب، ذات، جنس، سکونت یا ڈویسائن کی بنیاد پر ہو، کوئی امتیاز نہیں کیا جائے گا۔

مگر شرط یہ ہے کہ اس کے آغاز کے دس سال کے اندر (دس سال سے زیادہ نہ ہو) کسی طبقہ یا علاقہ کے افراد کی پاکستان سروس میں معقول نمائندگی کے لیے، اسامیاں مخصوص کی جائیں۔

مزید شرط یہ ہے کہ مذکورہ ملازمت کی بہتری کے لیے کسی دوسری صنف کے ممبران کے لیے اسامیاں یا ملازمتیں مخصوص کی جائیں اگر ایسی ملازمتوں پر مخصوص قسم کی ڈیوٹی، جو اس کے علاوہ دوسری صنف کے ممبران بہتر طور پر انجام نہیں دے سکتے۔

(۲) شق (۱) کسی صوبائی حکومت یا کوئی مقامی یا صوبے میں دوسری اتھارٹی کو کسی ایسی یا کلاس کی سروس کو سکونتی شرائط کو مقرر کرنے سے مانع نہیں ہوگا، مگر یہ دورانیہ تقرری سے پیشتر اس حکومت یا اتھارٹی کے تحت تین سال سے زائد نہ ہو۔
(اقتباس آئین ۱۹۷۳ء، حصہ دوم، باب اول، بنیادی حقوق)

۲۔ وفاقی حکومت کے تحت سول اسمیوں پر بھرتی کے لیے صوبائی علاقائی کوٹہ

(الف) وفاقی حکومت میں سول اسمیوں پر بھرتی کے لیے صوبائی علاقائی کوٹہ کا سوال حکومت کے زیر غور رہا ہے۔ وفاقی حکومت کے تحت پورے پاکستان کی بنیاد پر براہ راست بھرتی کے لیے کوٹہ مخصوص کیا گیا ہے:

میرٹھ کوٹہ	۱۰ فی صد
پنجاب (بشمول اسلام آباد کا وفاقی علاقہ)	۵۰ فی صد
سندھ (بشمول کراچی)	۱۹ فی صد
سندھ کے حصے کی مزید ذیلی تقسیم درج ذیل تناسب سے کی گئی ہے:	
شری علاقے (کراچی، حیدر آباد اور سکھر)	۱۹ کا ۴۰ فی صد
	یا ۶۶ فی صد
دیہی علاقہ جات، سندھ کا باقی حصہ	۱۹ کا ۶۰ فی صد
سوائے کراچی، حیدر آباد اور سکھر	یا
	۱۱.۳ فی صد
	۱۱.۵ فی صد
	۳.۵ فی صد
سرحد	
بلوچستان	
شمالی علاقے اور مرکزی انتظامی کنٹرول	
کے تحت قبائلی علاقہ جات	۲۴ فی صد

آزاد کشمیر
۲ فی صد
(عملہ ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ۸۸/۷۲ فی آر دی، مورخہ ۳۱-۸-۱۹۷۳)
(ب) زیر دستخطی کو عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۸۸/۷۲-۷۲ فی آر دی۔
مورخہ ۳۱ اگست، ۱۹۷۳ء بہ موضوع بالا کا حوالہ دینے اور درج ذیل وضاحتیں کرنے کی ہدایت کی گئی ہے:

- ۱۔ مقررہ میرٹھ اور صوبائی علاقائی کوٹہ کی تقسیم کی غرض سے ہر گریڈ کی اسمیوں کو الگ تصور کیا جائے گا۔
- ۲۔ بذریعہ ترقی پر کی جانے والی اسمیوں پر صوبائی علاقائی کوٹہ کا اطلاق نہیں ہوگا۔ یہ براہ راست بھرتی مع داخلہ اطراف (لیٹل انٹری) پر موثر ہیں۔
- ۳۔ اگر صوبے علاقے کے لیے مختص کوٹہ کی اسمیاں پر نہ کی جاسکیں تو وہ قائم رہنی چاہئیں اور بعد کی تاریخ میں اس کا دوبارہ اشتہار دیا جائے۔
- ۴۔ وزارتہم ڈویژن کی اسمیوں کا ملحقہ محکموں اور ماتحت دفاتر سے علیحدہ تعین کیا جاتا ہے۔
- ۵۔ صوبائی علاقائی کوٹہ ایسی اسمیوں میں شمار نہیں ہو تا جو بذریعہ سرکاری ملازمین کی برابر کے گریڈ پر ٹرانسفر کے ذریعے پر کی جاتی ہیں یا پھر فوجی افسران کی صورت میں دوسرے منصب پر فائز کرنے کی صورت میں۔
(عملہ ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ۸۸-۷۳/۷۲ فی آر دی، مورخہ ۲۸ نومبر ۱۹۷۳ء)
سلسلہ نمبر ۳

۳۔ وفاقی حکومت کے تحت خواتین کی بھرتی کے لیے ۵ فی صد کوٹہ کا تعین

(الف) زیر دستخطی کو یہ کہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر وفاقی حکومت کے دفاتر میں براہ راست پر کی جانے والے تمام اسمیوں کا ۵ فی صد خواتین کے لیے

مخصوص کیا جاتا ہے۔ یہ اسٹی صوبائی تعین کے حصہ میں شامل ہو گا، جیسے کہ عملہ ڈویژن کے او۔ ایم نمبر ۴۸۸۸۸۸۸۸ نی آر وی آر۔ ۱، مورخہ ۳۱-۸-۱۹۷۳ اور اس کا شمار متعلقہ خاتون امیدوار کے صوبہ میں ہو گا۔

۲۔ مذکورہ بالا اسٹی درج ذیل پر موثر نہیں ہو گا۔

(الف) میرٹ کی بنیاد پر کی جانے والی اسامیاں۔

(ب) متعلقہ قواعد کی رو سے بذریعہ ترقی اور ٹرانسفر پر کی جانے والی بھرتی

پر۔

(ج) مختصر مدت کی اسامیاں جو چھ ماہ سے کم مدت کے لیے ہوں۔

(د) جدا کردہ پوشیں جو گاہے گاہے پیدا ہوتی ہیں۔

(۵) خواتین کے لیے مختص کردہ وہ اسامیاں جن پر کوئی اہل خاتون امیدوار نہ مل رہی ہو، اسامیوں کو غیر اسٹی تصور کرتے ہوئے میرٹ پر پر کیا جائے گا۔

۳۔ وزارتوں رڈویژنوں سے درخواست ہے کہ وہ آئندہ بھرتی کرتے وقت درج بالا تعین کوٹہ برائے خواتین کو سامنے رکھیں اور اس پر سختی سے عمل کریں۔

۴۔ یہ احکام گریڈ ۱۷ اور اس کے برابر کے گریڈ کی اسامیوں کو پر کرنے پر ایسے خود مختار اور نیم خود مختار اداروں پر بھی ہو گا جو وفاقی حکومت کے زیر انتظام ہیں۔

(عملہ ڈویژن او۔ ایم نمبر ۴۸۸۸۸۸۸۸ آر۔ ۱، مورخہ ۳۱- ستمبر ۱۹۸۹)

سلسلہ نمبر ۳

(ب) یہ تسلسل عملہ ڈویژن اسٹی مراسلہ او۔ ایم یہ موضوع بالا، مورخہ ۳۱ ستمبر ۱۹۸۹، زیر دستخطی کو یہ کہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ ایسا اشتہار جس میں خواتین کے مخصوص پانچ فی صد کوٹہ کی نشاندہی کی گئی ہو یا اسے اس ریجن کے اخبارات میں ~~شمار~~ کے لیے اس کوٹہ کا تعین کیا گیا ہے نہ کہ قومی روزناموں میں۔ تمام اشتہارات میں درخواستیں طلب کرتے ہوئے اس ریجن میں خواتین کی

اسامیوں کی تعداد کی واضح طور پر نشاندہی کی جائے۔

۲۔ تمام وزارتیں، رڈویژن درج بالا ہدایات کو تمام متعلقہ دفاتر کے نوٹس میں لائیں۔

(عملہ ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ۴۸۸۸۸۸۸۸ آر۔ ۱، مورخہ ۳۱- نومبر ۱۹۸۹)

سلسلہ نمبر ۵

۳۔ خود مختار نیم خود مختار اداروں میں اسامیوں پر بھرتی کے لیے

صوبائی ر علاقائی کوٹہ

زیر دستخطی کو عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۴۸۸۸۸۸۸۸ نی آر وی، مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۷۳ میں جاری کردہ ہدایات بابت سول پوشوں کے لیے صوبائی ریجنل کوٹہ، کا حوالہ دینے اور یہ کہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ یہ کوٹہ وفاقی حکومت کے زیر انتظام خود مختار نیم خود مختار اداروں میں اعلیٰ تقریروں (گریڈ ۱۷ کے برابر اور اوپر) پر بھی لاگو ہوں گے۔

۴۔ وزارتوں رڈویژنوں سے درخواست ہے کہ وہ اپنے زیر انتظام تمام خود مختار نیم خود مختار اداروں کو مناسب ہدایات جاری کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان ہدایات کی روشنی میں کوٹہ پر سختی سے عمل کیا جا رہا ہے۔

(عملہ ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ۴۸۸۸۸۸۸۸ نی آر وی، مورخہ ۲۹- ستمبر ۱۹۸۹)

سلسلہ نمبر ۶

۵۔ بھرتی کی پالیسی

۱۔ جدولی اقوام کے لیے ۶ فی صد کے تناسب سے اسامیاں محفوظ کی جاتی ہیں اور یہ صوبائی ریجن کے لیے الاٹ کیے گئے کوٹہ کا حصہ شمار ہوتی ہیں۔ اگر کوئی ایسی ایسی جدولی قوم کے موزوں امیدوار کے نہ ملنے کی وجہ سے پر نہ کی جاسکی ہو تو اسے متعلقہ صوبہ ریجن کے دیگر امیدواروں میں سے میرٹ کی بنیاد پر پر کر لیا

- جاتا ہے۔
- ۲۔ خاص طبقہ یا صوبہ ریجن کے امیدواروں سے پر کی جانے والی اسامیوں کو ان اہل ملازمت امیدواروں میں سے میرٹ کی بنیاد پر پر کیا جاتا ہے۔
- ۳۔ اگر ان محفوظ شدہ اسامیوں کو پیرا ۲ میں دی گئی شرائط کے مطابق بوجہ امیدواروں کی امتحان میں ناکامی وغیرہ کے، پر نہ کیا جاسکے تو پھر وہ اسامیاں جن کی توں رہتی ہیں اور اگلے سال کے امتحان کے نتیجہ کی بنا پر ان امیدواروں سے جن کے لیے یہ اسامیاں محفوظ کی گئی ہیں، پر کی جاتی ہیں۔
- ۴۔ جب تک امیدوار اس اسامی پر رپورٹ نہیں کرتا، اسے خالی تصور کیا جاتا ہے۔ اگر ایک امیدوار اپنی اسامی پر براجمان نہیں ہوتا تو پھر اس اسامی کے لیے دوسرے پاس کرنے والے امیدوار کو اس اسامی کی پیشکش کی جاتی ہے۔ اگر کوئی اسامی ۳۱ دسمبر ۱۹۷۶ء کو واقع ہوتی ہے تو اسے اگلے سال اس شخص کردہ کوٹہ کے لحاظ مقابلے کے امتحان میں شامل کیا جائے۔
- (اقتباس، فیڈرل پبلک سروس کمیشن، نوٹس، مورخہ ۳۔ ستمبر ۱۹۷۵ء)

۶۔ صوبائی کوٹہ کا خود مختار رینیم خود مختار اداروں پر اطلاق

- عملہ ڈویژن کے دفتری یادداشت نمبر ۷۲۹/۸۔ ٹی آر وی، مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۷۳ء میں وفاقی حکومت کے تحت سول اسامیوں پر بھرتی کے لیے صوبائی ریجنل کوٹے الگ بیان کیے گئے تھے۔ اس کے بعد دفتری یادداشت مورخہ ۲۹ ستمبر ۱۹۷۳ء میں اس کوٹہ کا اطلاق وفاقی حکومت کے زیر انتظام تمام خود مختار رینیم خود مختار اداروں پر کیا گیا اور اس بات پر زور دیا گیا کہ خود مختار کارپوریشنوں، بشمول ہیکول اور بیہ کمپنیوں میں صوبائی نمائندگی کے عدم توازن کو دور کرنے کی کوششیں کی جائیں گی۔

- ۲۔ یہ نوٹ کیا گیا ہے کہ پسماندہ علاقوں سے امیدواروں کی عدم دستیابی کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں مناسب اعلیٰ قابلیت اور تجربہ کے حامل افراد نامزدگی

کے لیے دستیاب نہیں ہوتے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ اگر اسامی کی تشہیر کی گئی ہو اور کوئی درخواست موصول نہیں ہوئی ہو یا کوئی امیدوار عمر، تعلیم، تجربے کے مقرر معیار پر نہیں اترتا ہو تو متعلقہ وزارت رٹویشن ان میں سے بعض یا تمام امیدواروں کے لیے ان شرائط میں رعایت کرے اور ان شرائط کی رعایت کے لیے منظوری کی اتھارٹی عملہ ڈویژن اور وفاقی پبلک سروس کمیشن ہے، ان سے منظوری کے بعد اسامیاں دوبارہ مشترکہ جائیں تاکہ متعلقہ صوبے کے امیدوار ان اسامیوں کے لیے اہل ہو سکیں اور ان کی تقرری پر غور ہو سکے۔

(عملہ ڈویژن او۔ ایم نمبر ۳۳/۷۸۔ ر۔ ۵۔ مورخہ ۸ اکتوبر ۱۹۷۸ء)

سلسلہ نمبر ۸

۷۔ فی الوقتی تقرری کا صوبائی علاقائی کوٹہ پر اطلاق

عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۳۲۵۔ ب۔ ایس ای۔ ۱، مورخہ ۱۳ نومبر ۱۹۳۸ء اور نمبر ۱۹۶/۵۹۔ ر، مورخہ ۵ مئی ۱۹۵۹ء کی رو سے صوبائی علاقائی کوٹہ سے متعلق حکومت کی بھرتی پالیسی پر عمل کیا جاتا ہے۔

۲۔ جب التوا میں پڑے ہوئے موزوں امیدواروں سے فی الوقتی تقرریاں کی جاتی ہیں تو ایک طرف سے یہ بھی عارضی تقرریاں ہیں اور ایسی صورت میں جب اسامیوں کا تین ماہ سے زیادہ عرصہ کے لیے باقی رہنا متوقع ہو یا اس کی مزید توسیع کا بھی امکان ہو۔

(عملہ ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ۲۲/۲۱۔ ڈی وی مورخہ ۱۷ اکتوبر ۱۹۶۶ء)

سلسلہ نمبر ۸

۸۔ سرکاری ملازمت میں داخل ہونے کے بعد ڈومیسائل کی تبدیلی

زیر دستخطی کو یہ کہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۱۳۳/۷۱۔ ٹی آر۔ وی، مورخہ ۲۰ ستمبر ۱۹۷۱ء میں دیے گئے حکم کے مطابق سرکاری

ملازم کی طرف سے، بوقت پہلے ملازمت، پیش کردہ ڈومیسائل جسے حکومت منظور کر لیتی ہے، وہ اسے تبدیل نہیں کر سکتا بلکہ حکومت کے ریکارڈ میں وہ اس کا حتمی ڈومیسائل ہو گا۔ اگر سرکاری ملازم اسے تبدیل کرتا ہے تو اس تبدیلی کو بغرض سرکاری ملازمت تسلیم نہیں کیا جائے گا۔

۲۔ حکومت نے مشرقی پاکستان کا ڈومیسائل رکھنے والے ملازمین کو مغربی پاکستان میں ملازمت کا اختیار دیا ہوا ہے لیکن جب ان ملازمین کے ڈومیسائل کی تبدیلی کا سوال پیدا ہوتا ہے، جن کے ڈومیسائل منظور ہو چکے ہیں تو ایسی صورت میں! عملہ ڈویژن کے مذکورہ بالا مراسلہ میں دیے گئے احکامات میں تبدیلی کے لیے صوبائی حکومتوں کے مشورے سے غور کیا گیا ہے۔

۳۔ اور یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ:

(الف) مشرقی پاکستان کے خالص ڈومیسائل رکھنے والے ملازمین جو پہلے سے مغربی پاکستان میں ملازمت کرنے کا انتخاب کر چکے ہیں ان کو ایک حتمی موقع دیا جائے کہ وہ اپنے ڈومیسائل کے لیے صوبے کا انتخاب کر لیں۔

(ب) ایسے ملازمین جو مشرقی پاکستان سے واپس آئے ہیں ان کے جو ڈومیسائل مشرقی پاکستان سے آئے پر تھے ان کا تعین اسی صوبے سے کیا جائے گا۔

۴۔ درخواست کی جاتی ہے مذکورہ فیصلے سے متعلقہ ملازمین کو آگاہ کیا جائے اور پیرا ۳ میں مذکورہ کیٹگری (الف) کے ملازمین کو چاہیے کہ وہ اپنی رائے انتخاب سے ۳۱ دسمبر ۱۹۷۳ء تک آگاہ کریں۔ گریڈ ۱ تا ۱۵ کے ملازمین کی طرف سے ان کے انتخاب (آپشن) کی ایک کاپی ان کی ملازمت کے حصہ ریکارڈ میں رکھی جائے اور ایک کاپی دفتر محاسب کو بھیجی جائے۔ گریڈ ۱۶ تا ۲۲ کے ملازمین سے ان کی رائے (آپشن) کی تین کاپیاں حاصل کی جائیں، ایک کاپی دفتر محاسب کو بھیجی جائے ایک ایک کاپی (اصل اور نقل) مسل خفیہ دستاویزات متعلقہ ملازم میں لگائی جائے۔

(عملہ ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ۷۲/۸۸-۷۲۔ آر سی (عملہ) مورخہ ۷۔ اکتوبر ۱۹۷۳ء)
سلسلہ نمبر ۱۰

۹۔ این ڈبلیو ایف پی (صوبائی کوئٹہ جات کا اطلاق)

وفاقی حکومت کے تحت براہ راست بھرتی کے لیے نظر ثانی شدہ میرٹ اور صوبائی ریجنل کوئٹہ جات سے اسامیوں کو پر کرنے سے متعلق احکامات، عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۷۲/۸۸-۷۲۔ ٹی آر وی، مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۷۳ء میں جاری کیے گئے تھے، لیکن عملہ ڈویژن کے نوٹس میں یہ بات لائی گئی ہے کہ وفاقی حکومت کی وزارتیں ریڈویژن اور محکمے ان کوئٹہ جات پر عمل نہیں کر رہے۔ صوبہ سرحد کے گرجیوٹ انجینئروں نے بالخصوص شکایت کی ہے کہ انجینئرنگ کی اسامیوں پر تقرری کے سلسلے میں وفاقی حکومت کے ادارے خصوصاً "دفتر روزگار، این ڈی وی پی، ٹیلیویشن کارپوریشن وغیرہ" جس سے اس صوبہ کے گرجیوٹ انجینئروں کی بیروزگاری کا مسئلہ پیدا ہو رہا ہے۔ کوئٹہ کے مطابق تمام شعبوں میں نمائندگی کو یقینی بنانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وفاقی حکومت کی طرف سے جو نظر ثانی شدہ کوئٹہ جات مقرر کیے گئے ہیں ان پر تمام متعلقہ محکمے سختی سے عمل کریں اور اس کو یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں۔

(عملہ ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ۷۲/۸۸-۷۲۔ ٹی آر وی، مورخہ ۲۔ اپریل ۱۹۷۳ء)
سلسلہ نمبر ۱۱

۱۰۔ بہاولپور ڈویژن (صوبائی کوئٹہ جات کا اطلاق)

بحوالہ۔ عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۷۲/۸۸-۷۲۔ ٹی آر وی، مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۷۳ء

۲۔ یہ بات سامنے آتی ہے کہ سوائے سندھ کے، ڈویژنوں، اضلاع یا کسی دوسری وجہ کی بنیاد پر کوئٹہ جات کی مزید ذیلی تعین داری نہیں کی گئی ہے۔ بہاولپور کے

متعلق حکومت کو یہ بتایا گیا ہے کہ اسے وفاقی اور صوبائی ملازمتوں میں اور وفاقی حکومت کے زیر انتظام خود مختار اداروں میں کم نمائندگی دی جا رہی ہے جو بہاولپور ڈویژن کے لوگوں کے لیے احساس محرومی کا باعث بن رہا ہے اور یہ بات قطعاً پسندیدہ نہیں ہے۔ لہذا وزیر اعظم نے یہ ہدایت جاری کی ہے کہ ایسے اقدامات اٹھائے جائیں جس سے بہاولپور کو تمام شعبوں بشمول ملازمتوں میں اس کا جائز حق دیا جائے۔

۳۔ عملہ ڈویژن کے زیر انتظام آنے والے مختلف گروپ اور کیڈروں سے متعلق پہلے سے یہ اہتمام کیا گیا ہے کہ پنجاب کے کوئٹہ میں اسمبلی کی بھرتی کے وقت بہاولپور کے امیدواروں کو بشرطیکہ وہ ان اسمبلیوں کے لیے اہل ہوں، کو قدرے ترجیح دی جائے۔ یہ طریق کار اس وقت تک اپنایا جائے جب تک بہاولپور کو مستقل نمائندگی نہیں مل جاتی۔ وزارتوں اور ڈویژنوں اور اس کے زیر انتظام کارپوریشن، محکموں میں گریڈ ۱۸ اور اس سے کم گریڈ کی کافی اسمبلیاں خالی پڑی ہیں جن کو وزارتیں رڈویژنیں از خود پر کرتی ہیں۔ لہذا درخواست ہے کہ ان گریڈوں پر ملازمتوں میں بھرتی کے وقت بہاولپور کے امیدواروں کو ان ملازمتوں میں زیادہ نمائندگی دی جائے۔ میرٹ کو مکمل طور پر نظر انداز نہ کیا جائے اور ان کے معاملے میں تھوڑی سی نرمی کی جائے۔ اپنے ماتحت تمام محکموں، کارپوریشنوں جو کہ آپ کی وزارت کے زیر انتظام ہیں، ہدایات پہنچائی جائیں اور چھ ماہ بعد اس طریق کار سے متعلق پیش رفت کی رپورٹ برائے اطلاع وزیر اعظم کو بھیجی جائے۔

(یکٹری کلیننگ کا نیم سرکاری مراسلہ نمبر ۸/۷۵/۷۵- ڈبلیو سی، مورخہ ۸ اپریل ۱۹۷۵ء)

سلسلہ نمبر ۴

۴۔ علیحدہ کردہ اسمبلیاں (صوبائی علاقائی کوئٹہ جات پر اطلاق)

عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۸/۷۳- ڈی وی، مورخہ ۳۰ جون ۱۹۶۳ء

(منسلکہ) میں یہ شرط عائد کی گئی تھی کہ تمام پوسٹ کی تقرری کے لیے صوبے کے کوئٹہ کا تعین کرنے کے سلسلے میں وزارتوں رڈویژنوں کو منجملہ تمام ملحقہ پوسٹوں، وہ تمام پوسٹ سے اوپر یا نیچے ہوں، کی روشنی میں تعین کرنا ہو گا۔ مثال کے طور پر اگر وہاں پر یہ مخصوص (تمام پوسٹ) یونٹ ڈپٹی ڈائریکٹر کی ہے تو پھر اس دفتر میں موجود ڈائریکٹر اور اسٹنٹ ڈائریکٹر کی پوزیشن کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ یہ تمام پوسٹ کس صوبے کو دی جائے۔

۲۔ اگر یہ سوال پیدا ہو جائے کہ یہ پوسٹ اپنی نوعیت کی واحد پوسٹ ہے اور اسے دوسری کسی پوسٹ کے ساتھ ملایا نہیں جا سکتا تو اسے کس طرح پر کیا جائے۔ ایسی صورت میں جب اس تمام پوسٹ کو کسی دوسری پوسٹ سے نہ ملایا جا سکے تو پھر اسے کھلے میرٹ پر پر کیا جائے۔

(عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۸/۷۵- ڈبلیو سی، مورخہ ۸- اپریل ۱۹۷۵ء)

منسلکہ جات:

عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۸/۷۳- ڈی وی، مورخہ ۳۰ جون ۱۹۶۳ء کی نقل۔

یہ تسلسل عملہ ڈویژن کی اس نمبر کی دفتری یادداشت مورخہ ۲۷ مئی ۱۹۶۳ء وزارتوں رڈویژنوں وغیرہ سے درخواست ہے کہ وہ مخصوص تمام پوسٹوں پر تقرری کے سلسلے میں ان امیدواروں کے ڈومیسائل کی نشاندہی لازمی کی جائے اور کوئٹہ کے سلسلے میں اس دفتر میں دیگر اسمبلیوں کی پوزیشن کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے کہ یہ پوسٹ کس صوبہ کو جائے گی، مثلاً اگر یہ مخصوص پوسٹ ڈائریکٹر کی ہے تو پھر ایڈیشنل ڈائریکٹر ڈپٹی ڈائریکٹر وغیرہ کے ڈومیسائل کو دیکھا جائے گا اور اس طرح دیگر پوسٹوں پر فائز افسران کو دیکھتے ہوئے اس پوسٹ کا فیصلہ کیا جائے کہ یہ کس صوبہ کو جائے گی۔

۱۲۔ شمالی علاقہ جات (صوبائی کوٹہ جات کا اطلاق)

یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ جہاں صوبائی ریجنل کوٹہ جات جو عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۴۲۹/۸۸ ٹی آر وی، مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۷۳ء کی وساطت سے مقرر کیے گئے ہیں اور جن کا اطلاق براہ راست بھرتی کے لیے مخصوص کردہ اسامیوں کو پورے پاکستان کی بنیاد پر کرنے پر ہوتا ہے، ناردرن ایریا کی اسامیوں پر بھی اس کا اطلاق ہونا چاہیے۔ اس سوال پر غور کیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ ناردرن ایریا میں کوٹہ جات کی پابندیوں کا اطلاق اس صورت میں نہیں ہو گا، جب اس پوسٹ کے لیے کوئی مقامی امیدوار دستیاب نہ ہو، تو ناردرن ایریا سے باہر کے امیدوار کی تقرری کی جاسکتی ہے، لہذا صوبائی ریجنل کوٹہ جات کی اس پابندی کا ناردرن ایریا پر اطلاق نہیں ہو گا۔ عملہ ڈویژن کی یادداشت نمبر ۴۲۹/۸۸۔ میں ناردرن ایریا کا جو کوٹہ متعین کیا گیا تھا اب اس کا اطلاق صرف پورے پاکستان کی اسامیوں پر ہو گا۔

(عملہ ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ۴۲۹/۸۸۔ ٹی آر وی آر۔ ۱، مورخہ ۵۔ جون

۱۹۷۸)

سلسلہ نمبر ۱۳

۱۳۔ بلوچستان (صوبائی کوٹہ جات کا اطلاق)

بحوالہ حکومت بلوچستان کے ایس اینڈ جی اے ڈی مراسلہ نمبر ایس او۔ ۱۱۔ ایل

آئی وی (۲۰) ایس اینڈ جی اے ڈی۔ ۱۱۔ (۱۱) مورخہ ۱۸ جون ۱۹۷۸ء (منسلکہ)۔

۲۔ تمام وزارتوں، ڈویژنوں، محققہ محکموں، ماتحت دفاتر اور آپ کے زیر انتظام

خود مختار اداروں کو ہدایت کی جائے کہ وہ عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۱۱۔

۴۲۹/۸۸۔ ٹی آر وی، مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۷۳ء میں بلوچستان کے لیے مقرر کیے گئے کوٹہ پر سختی سے عمل کریں۔ وہ براہ راست بھرتی ہو یا وہ اسامیاں جو بلوچستان ڈویژن کی بنیاد پر پر کی جاتی ہیں، وہ اس اصول پر پر کی جائیں۔ وفاقی پبلک سروس کمیشن کی وساطت سے پر کی جانے والی اسامیوں کے علاوہ اگر اسامیاں بلوچستان ڈویژن کی بنیاد پر بھرتی کرنے کے لیے تاحال اس لیے خالی پڑی ہیں کہ وہاں سے کوئی امیدوار ان اسامیوں کے لیے مطلوبہ اہلیت کا حامل نہیں مل رہا، تو ان اسامیوں کے لیے عمر، قابلیت، گریڈ کی پوری تفصیل کے ساتھ حکومت بلوچستان کو لکھیں کہ وہ ان اسامیوں کے لیے موزوں امیدواروں کو اپنی سفارش کے ساتھ بھیجیں۔ اگر وفاقی پبلک سروس کمیشن کے پاس بلوچستان کے کوٹہ کی اسامیاں امیدوار نہ ملنے کی وجہ سے خالی پڑی ہوں تو وہ حکومت بلوچستان کو لکھے کہ اس اہلیت کے حامل امیدواروں کے نام یہ سفارش کے ساتھ ارسال کرے۔

۳۔ اس نیم سرکاری مراسلہ کی وسیع پیمانے پر ڈویژنوں، محکموں، دفاتر اور اپنے زیر انتظام خود مختار اداروں میں تشہیر کی جائے۔

(عملہ ڈویژن کے معتمد کا نیم سرکاری مراسلہ نمبر ۴۸۳/۸۸۔ ر۔ ۱، مورخہ ۷

اگست ۱۹۷۸ء)

منسلکہ جات:

حکومت بلوچستان، سروس اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن ڈیپارٹمنٹ مراسلہ نمبر ایس او۔

۱۱۔ ایل آئی وی (۲۰) ایس اینڈ جی اے ڈی۔ ۱۱۔ (۱۱) مورخہ ۱۸ جون ۱۹۷۸ء کی کاپی۔

مجھے کابینہ سیکرٹریٹ (عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۱۱۔

۱۱) ۱۹/۸۸ (الف) ۴۲۔ ٹی آر وی، مورخہ ۱۸ اکتوبر ۱۹۷۳ء اور ف۔ ۴۲۹/۸۸۔ ٹی آر

وی، مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۷۳ء کا حوالہ دینے اور یہ کہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ

بلوچستان کے بیروزگار گریجویٹس کا مسئلہ شدت اختیار کر گیا ہے۔ حکومت بلوچستان اپنے

مالی وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے۔ اگر

وفاقی حکومت اور اس کے زیر انتظام کارپوریشنیں اور خود مختار ادارے، درج بالا یادداشتوں کے مطابق بلوچستان کے لیے مختص کردہ کوٹہ پر عمل کریں تو وہ بلوچستان میں بیروزگاری کے مسئلہ کو حل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں۔

۲۔ مزید درخواست کی جاتی ہے کہ حکومت پاکستان وزارتوں، ڈویژنوں بشمول کارپوریشنوں خود مختار اداروں کو اس سلسلے میں فوری اقدام کی ہدایت کرے اور انھیں کہا جائے کہ وہ اپنے دفاتر میں بلوچستان کے حصے کی آسامیوں اور علاقائی کوٹہ کے اعتبار سے اصل جگہوں سے متعلق حکومت بلوچستان کو آگاہ کریں۔

سلسلہ نمبر ۱۵

سیکرٹری عملہ ڈویژن کے نیم سرکاری مراسلہ نمبر ۴۸۳۳-۷۸-۱ مورخہ ۷ اگست ۱۹۷۸ء کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے، جس میں وفاقی حکومت کی تمام وزارتوں، ڈویژنوں اور ان کے زیر انتظام خود مختار اداروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے تحت تمام ایسی آسامیوں کو جو بلوچستان کوٹہ کے حصہ میں ہیں، ان امیدواروں سے پر کریں، جن کے پاس بلوچستان کا ڈومیسائل ہو۔

۲۔ حکومت بلوچستان نے یہ بھی خواہش کی ہے کہ عام وزارتوں، ڈویژنوں اور ان کے زیر انتظام خود مختار ادارے اپنی آرگنائزیشن میں بلوچستان کے مقررہ کوٹہ کے حصہ کی آسامیوں کی تعداد اور خالی آسامیوں کی اصل پوزیشن، حکومت بلوچستان کو بتائیں۔

۳۔ وزارتوں، ڈویژنوں سے درخواست ہے کہ وہ درج بالا تمام معلومات (منسلک) پر دفارما پر حکومت بلوچستان کو بھیجیں اور اپنے زیر انتظام دیگر محکموں اور خود مختار اداروں کو بھی اس کی ہدایت کریں کہ وہ اپنی وزارت کی وساطت سے مطلوبہ معلومات پہنچائیں۔

۴۔ حکومت بلوچستان نے یہ خواہش بھی کی ہے کہ جب ایسی آسامیوں کے لیے اشتہار دیا جائے، جن میں بلوچستان کا حصہ ہو تو وہ اشتہار بلوچستان کے کم از کم دو

مقامی اخباروں میں بھی دیا جائے۔ یہ معاملہ اطلاعات ڈویژن میں زیر غور ہے اور آئندہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ بلوچستان کی مقامی اخباروں میں لازماً تذکرہ آسامیوں کی تشہیر کی جائے۔

(عملہ ڈویژن کے سیکرٹری کا نیم سرکاری مراسلہ نمبر ۴۸۳۳-۷۸-۱ مورخہ ۳۱ اگست ۱۹۷۸ء)

منسلک

نام وزارت، ڈویژن
نام محکمہ
نام دفتر

گریڈ ۱۱ ۱۲ ۱۳ ۱۴ ۱۵ وغیرہ وغیرہ

نوٹ: (۱) کل پاکستان بنیاد پر براہ راست بھرتی ہونے والی آسامیوں پر تقرری بذریعہ ترقی اور ڈیپوٹیشن اس سے مستثنیٰ ہوں گی۔

۱۔ براہ راست آسامیوں کی کل منظور شدہ تعداد

(۱) براہ راست بھرتی کی جانے والی کل آسامیوں کی تعداد اور جن آسامیوں پر

عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۴۲۸۹۸-۷۸-۱ مورخہ ۳۱-۸-۷۸

اگست ۱۹۷۳ء جس میں صوبائی علاقائی کوٹہ پر نظر ثانی کی گئی ہے۔

(۲) بلوچستان کے لیے مقررہ آسامیوں اور کل مشترکہ آسامیوں کا فی صد

تناسب

(۳) بلوچستان سے مشترکہ گئی آسامیوں کی تعداد۔

(۴) مشترکہ آسامیوں کی تعداد جو ابھی تک پر نہیں ہوئیں اور بن کی تفصیل

نام، دفتر، عمدہ، مطلوبہ قابلیت، تجربہ برائے براہ راست بھرتی۔

۲۔ صوبائی علاقائی ریمٹ کے تعین کے لیے ہر آسامی کی علیحدہ تفصیل۔

۳- میرٹھ صوبائی علاقائی کونڈ میں مزید اسامیوں کی تفصیل
وزارتوں، ڈویژنوں، لمحقتہ محکموں اور ماتحت محکموں کے والے سے دیں۔
سلسلہ نمبر ۲۱

۳- وفاقی اسامیوں پر بھرتی، امیدواروں کے لیے اپنے والدین کی جائے
پیدائش کا ظاہر کرنا

جیسے کہ وزارتیں، ڈویژن یہ جانی ہیں، ان براہ راست بھرتی کی اسامیوں کو پر
کرنے کے سلسلے میں صوبائی علاقائی کونڈ پر عمل کیا جاتا ہے۔ حکومت کے نوٹس میں
یہ بات لائی گئی ہے کہ امیدواروں سے ان کے والدین کی جائے پیدائش پوچھی جاتی
ہے، یہ ان اسامیوں کی بھرتی کے لیے مطلوبہ شرط نہیں ہے۔ لہذا آئندہ امیدواروں
سے ان کے والدین کی جائے پیدائش معلوم نہ کی جائے، البتہ والدین سے متعلقہ
دوسری معلومات یعنی باپ کا نام اور ڈویسائل وغیرہ جیسی معلومات لی جاتی رہیں گی۔

۲- وزارتوں، ڈویژنوں سے درخواست ہے کہ اس ہدایت کو تمام متعلقہ اداروں
تک پہنچانے کے لیے وسیع پیمانے پر تشریح کی جائے۔

(عملہ ڈویژن دفتر یادداشت نمبر ۲۲۵۷-۷-۷۱-۷۱، مورخہ ۱۱ جنوری

۱۹۷۸ء)

سلسلہ نمبر ۱۷

۱۵- سرکاری ملازمت میں آنے کے بعد ڈویسائل میں تبدیلی، آبائی گاؤں کا
خصوصی اعلان

زیر دستخطی کو عملہ ڈویژن کی دفتر یادداشت نمبر ۲۲۵۷-۷-۷۱-۷۱ (سی (مسلکہ)
مورخہ ۱۷-۱۰-۱۹۷۳ء بہ موضوع بالا کا حوالہ دینے اور یہ کہنے کی ہدایت کی گئی ہے
کہ یہ مزید فیصلہ کیا گیا ہے کہ سابقہ مشرقی پاکستان کے ڈویسائل پر ملازمت کرنے
والے سرکاری ملازمین سے ان کے ڈویسائل کے صوبہ میں ان کے آبائی گاؤں کا نام

پوچھا جائے۔

۲- عملہ ڈویژن کی مذکورہ دفتری یادداشت کے حیرا ۴ میں دی گئی ہدایات کے
مطابق تمام متعلقہ ملازمین کو اس فیصلہ سے آگاہ کیا جائے۔
(عملہ ڈویژن و دفتری یادداشت نمبر ۲۲۵۷-۷-۷۱-۷۱ آر سی (عملہ) مورخہ ۲- اکتوبر
۱۹۷۸ء)

حکومت پاکستان

کابینہ سیکرٹریٹ

(عملہ ڈویژن)

نمبر ۲۲۵۷-۷-۷۱-۷۱-۵

راولپنڈی، ۱۷ جون ۱۹۸۲ء

دفتری یادداشت

موضوع: سرکاری ملازمت میں داخل ہونے کے بعد ڈویسائل کی تبدیلی

زیر دستخطی کو یہ کہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ یہ سوال پیدا ہوا ہے کہ آیا
سرکاری ملازم نے بوقت سرکاری ملازمت میں داخلہ کے جو ڈویسائل پیش کیا اور وہ
منظور کر لیا گیا، وہ صوبائی انتظام کی تبدیلی کی صورت میں اپنے کونڈ کے تعین یا دوسری
شرائط سے قائمہ اٹھانے کے لیے اپنا ڈویسائل تبدیل کر سکتا ہے؟ پاکستان کا کوئی
شرعی، قانون کے مطابق اپنا ڈویسائل تبدیل کر سکتا ہے، لیکن سرکاری ملازم نے جو
ڈویسائل بوقت اپنی سرکاری ملازمت میں داخلہ کے وقت پیش کیا تھا اور وہ منظور کر
لیا گیا، اب ملازمت میں قائمہ اٹھانے کے لیے اس ڈویسائل کو تبدیل نہیں کر سکتا۔

۲- البتہ اگر صوبائی انتظام میں تبدیلی کی بنا پر کسی سرکاری ملازم کا شہر گاؤں اب
دوسرے ضلع میں چلا گیا ہے تو ایسی صورت میں متاثرہ سرکاری ملازم متعلقہ ضلع
محکمہ کی طرف سے جاری کردہ سرٹیفکیٹ پیش کرے تاکہ اس کی سروس
ریکارڈ میں اس کے مطابق تبدیلی کی جاسکے۔

۵۔ تسخیح

وقتا" فوقاً" عمر کی رعایت سے متعلق جاری کیے جانے والے احکام اور ہدایات منسوخ کی جاتی ہیں۔

نمبر ۹۳۲۹-۵-۵

وخط

(منظور حسین)

ایڈیشنل سیکرٹری

حکومت پاکستان

باب ۲۲

قواعد (اہلیت و انضباط) سرکاری ملازمین، ۱۹۷۳ء

آرڈیننس دیوانی ملازمین، ۱۹۷۳ء کی دفعہ ۲۵ میں دیے گئے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے صدر نے درج ذیل قواعد جاری کیے ہیں:

۱۔ مختصر نام، آغاز اور اطلاق

- ۱۔ یہ قواعد، قواعد (اہلیت و انضباط) سرکاری ملازمین، ۱۹۷۳ء کہلائیں گے۔
- ۲۔ یہ قواعد فی الفور نافذ العمل ہوں گے اور ان کا اطلاق تمام سرکاری ملازمین پر ہو گا۔

۲۔ تعریفات

- ۱۔ ان قواعد میں تا وقتیکہ کوئی اور متن کے متعلق نہ ہو۔
- ۱۔ ملزم سے مراد، سرکاری ملازم جس کے خلاف ان قواعد کی رو سے کارروائی عمل میں لائی جائے۔
- ۲۔ "حاکم مجاز" سے مراد صدر یا افسر یا حاکم جسے ان قواعد کے مطابق اتھارٹی کے اختیارات دیے جائیں۔
- ۳۔ "افسر مجاز" (اتھورائزڈ) سے مراد افسر مجاز جسے اتھارٹی بطور افسر مجاز مقرر

کرتی ہے اور اگر کوئی افسر مجاز نہیں بنایا جائے تو پھر اتھارٹی۔

- ۳۲۔ "غلط روی" (س کنڈکٹ) سے مراد سرکاری احکام کے متعلق معصیانہ رویہ یا قواعد (طرز عمل) سرکاری ملازمین ۱۹۷۳ء کے خلاف یا آفیسر کے خلاف یا سرکاری ملازم کی حیثیت سے ناپسندیدہ کام یا اپنی تقرری، ترقی، تبادلہ، سزا، فارغ التحصیلی کے سلسلے میں حکومت پر سیاسی دباؤ ڈلوانا یا دوسری شرائط جو سرکاری ملازم پر عائد ہوتی ہیں اور
- ۳۳۔ "سزا" (پینلٹی) سے مراد وہ سزا جرمانہ جو ان قواعد کے تحت دی جاتی ہے۔

۳۳۔ بنیاد پر موجد سزا

جب اتھارٹی کی رائے میں سرکاری ملازم:

- (الف) نااہل یا اہلیت کھو چکا ہو یا
(ب) غلط روی کا مرتکب یا
(ج) بد عنوان خور یا بد عنوان تصور کیا جائے کیونکہ:
- (i) وہ یا اس کا کوئی زیر کفالت یا کوئی دوسرا شخص اس کے ذریعے یا اس کی طرف سے اس پوزیشن میں (جو وہ عام حالات میں نہیں ہو سکتا) ہے کہ وہ مالی وسائل یا جائیداد میں غلط طور پر کمی پیش کرتا ہو، جو کہ اس کی استعداد سے باہر ہے یا
- (ii) اس نے اپنے رہن سہن کا ڈھنگ اپنے وسائل سے بڑھ کر اپنا لیا ہے۔
- (iii) اس کی بد عنوان ہونے کی شرت عام ہے یا
- (d) لوٹ ہے یا لوٹ ہونے کا قوی شبہ ہے، وہ مخرب اخلاق، تخریبی سرگرمیوں میں لوٹ ہے یا لوٹ ہونے کا قوی شبہ ہے یا سرکاری راز افشا کرنے کا مجرم ہے یا کسی غیر مجاز شخص کو سرکاری راز دیا ہے اور اس کا ملازمت میں رہنا قوی رازدانی تحفظ کے خلاف ہے۔ اتھارٹی اس پر ایک یا

زائد سزائیں عائد کر سکتی ہے۔

۳۴۔ تاوان سزائیں

۱۔ چھوٹی اور بڑی سزائیں درج ذیل ہیں (نام):

(الف) چھوٹی سزائیں

(i) اظہار ناراضگی (لامت)

- (ii) ایک خاص دورانیہ کے لیے ترقی یا اضافی ترقی کا روک لینا، بصورت دیگر ترقی یا مالی فائدہ کے لیے ملازمت یا اسامی کے قواعد و احکامات کے مطابق نااہل قرار دینا۔
(iii) خاص وقت کے لیے سکیل کو روک دینا۔ بصورت دیگر ایسی حد کو کراس کرنے کے لیے نااہل قرار دینا۔
(iv) حکم عدولی یا لاپرواہی کی بنا پر حکومت کو مالی نقصان پہنچانے پر پوری تنخواہ یا تنخواہ کے کچھ حصہ سے کٹوتی کے ذریعے نقصان پورا کرنا۔

(ب) بڑی سزائیں

- (i) موجودہ اسامی سے نچلی اسامی پر منتعین کرنا یا موجودہ سکیل سے کم کر دینا یا ٹائم سکیل کو ٹچلے درجے پر کرنا۔
(ii) جبری ریٹائرمنٹ
(iii) ملازمت سے علیحدگی
(iv) ملازمت موقوفی یا برخاستگی۔
- ۲۔ ملازمت کی تبدیلی پر نہیں لیکن ملازمت سے برخاستگی پر مستقبل میں ملازمت کے لیے نااہل قرار پائے گا۔
- ۳۔ اس قاعدے کی رو سے ملازمت سے ہٹانے یا برخاست کرنے میں اس شخص کو فارغ کرنا شامل نہیں ہے:

- (الف) آزمائشی تقرری پر 'آزمائشی دورانہ میں یا قوانین تربیت کا اس پر اطلاق ہو گا۔
- (ب) کنٹریکٹ کی بنیاد پر تقرری، عارضی تقرری کی صورت میں تقرری کا دورانہ ختم ہونے پر یا
- (ج) کنٹریکٹ پر ہونے کی صورت میں کنٹریکٹ کی شرائط کی بنیاد پر۔

۵۔ تفتیش کا طریق کار

- ۱۔ ان قواعد کے تحت سرکاری ملازم کے خلاف کارروائی کے لیے درج ذیل طریق کار اختیار کیا جائے گا:
- (۱) اگر سرکاری ملازم کو تخریب کاری، بد عنوانی یا غلط روی کا تصور وار ٹھہرایا گیا ہو تو اس بنیاد پر آفیسر مجاز اسے رخصت پر جانے کو کہہ سکتا ہے یا اتھارٹی کی منظوری سے اسے معطل کر سکتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ایسی رخصت یا معطلی کی ہر تین ماہ بعد اتھارٹی سے منظوری لینا ہوگی۔
- مزید شرط ہے کہ اگر اتھارٹی صدر یا (وزیر اعظم ہو) تو ایسی صورت میں اس شق کے اختیارات استعمال کرنے کے لیے معتمد عملہ ڈویژن اتھارٹی ہوگی۔
- (۲) آفیسر مجاز (اتھورائزڈ آفیسر) یا تو اس معاملے کے حقائق کی روشنی میں فیصلہ کرے گا یا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انکوآری آفیسر یا انکوآری کمیٹی کے توسط سے انکوآری کرائی جاتی ہے اور ایسے فیصلے کی صورت میں اس پر قاعدہ ۶ کا اطلاق ہو گا۔
- (۳) اگر آفیسر مجاز یہ فیصلہ کرتا ہے کہ انکوآری کے لیے انکوآری آفیسر یا انکوآری کمیٹی کی ضرورت میں ہے تو وہ:
- (الف) بذریعہ تحریری حکم متعلقہ سرکاری ملازم کو تجویز کردہ کارروائی اور اس کارروائی کی بنیاد پر موجب سے مطلع کرے گا اور
- (ب) اسے اس کارروائی کے خلاف صفائی کا مناسب موقع فراہم کرے گا

مگر شرط یہ ہے کہ اگر اتھارٹی کو اس بات کا یقین ہو کہ ایسا موقع فراہم کرنا پاکستان کے تحفظ یا اس کے حصہ کے لیے مناسب نہیں ہے تو صفائی کا موقع فراہم نہیں کیا جائے گا۔

(۴) انکوآری آفیسر یا انکوآری کمیٹی کی انکوآری رپورٹ، بصورت دیگر ملازم کی طرف سے وضاحتی رپورٹ کی وصولی پر آفیسر مجاز اس بات کا یقین کرے گا کہ آیا الزام ثابت ہوا ہے؟ اگر اس کے لیے چھوٹی سزا تجویز کی جاتی ہے تو وہ اس کا حکم جاری کرے گا اور اگر بڑی سزا تجویز کی جاتی ہے تو پھر اس معاملہ کو پوری تفصیل کے ساتھ (انکوآری رپورٹ، ملازم کی وضاحتی رپورٹ لگائے، الزامات کی تفصیل اور اس معاملے میں اس کی اپنی رائے وغیرہ کے) اتھارٹی کو بھیجا جائے گا۔ اتھارٹی اس پر جو مناسب تصور کرے گی وہ حکم جاری کرے گی۔

۲۔ ذیلی قاعدہ (۱) کی شقیں (۱) اور (۴) کے تحت دیے گئے اختیارات بیرون ملک پاکستانی مشن کے آفیسران کی صورت میں یا تابع منظوری اتھارٹی ہوں گے۔

۶۔ انکوآری آفیسر اور انکوآری کمیٹی کے لیے طریق کار

- جب انکوآری آفیسر یا انکوآری کمیٹی مقرر کی جائے گی تو آفیسر مجاز:
- ۱۔ ایک فرد الزام تیار کرے گا اور اسے مع فرست الزامات اور دیگر متعلقہ حالات و واقعات جن کو زیر غور لانے کی تجویز ہے، ملازم کو ارسال کرے گا۔
- ۲۔ فرد الزام بھیجنے کے بعد مناسب وقت میں جو سات یوم سے کم یا چودہ یوم سے زیادہ نہیں ہو گا، میں متعلقہ ملازم کو اپنے دفاع میں جواب تیار کر کے بھیجنے کو کہا جائے گا۔ مزید اسے اس بیان میں یہ بتانا ہو گا کہ آیا وہ اس سلسلے میں ذاتی سماعت چاہتا ہے؟
- ۳۔ انکوآری آفیسر یا کمیٹی جو بھی صورت ہو وہ چارج کی انکوآری میں ایسی زبانی

یا دستاویزی شہادتوں کا جائزہ لے سکتی ہے اور ملزم کو اس دوران گواہوں پر جرح کرنے کا حق دیا گیا ہے۔

۴۔ انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی جو بھی صورت ہو وہ اس کیس کی روزانہ سماعت کرے گی اور اس کی سماعت ملتوی نہیں کرے گی، 'ماسوائے تحریری وجوہات کے جو ریکارڈ پر لائی جائیں گی اور ہر التوا کی وجوہات رپورٹ کے ساتھ آفیسر مجاز کو پیش کی جائیں گی۔ عموماً یہ التوا ایک ہفتہ سے زیادہ کا نہیں ہوتا۔

۵۔ انکوائری آفیسر یا کمیٹی جو بھی صورت ہو اگر یہ تصور کرے کہ ملزم ملازم انکوائری کارروائی کو آگے بڑھنے سے روک رہا ہے یا الجھانے کی کوشش کر رہا ہے تو وہ اسے اس پر تنبیہ کر سکتے ہیں اور اگر وہ وارننگ کے باوجود الجھانے سے باز نہیں آتا تو انکوائری آفیسر یا کمیٹی جو بھی صورت ہو وہ اپنی مرضی سے ایسے مناسب طریقے سے انکوائری کے عمل کو مکمل کریں گے کہ انصاف کا حصول ممکن ہو سکے۔

۶۔ انکوائری آفیسر یا کمیٹی جو بھی صورت ہو انکوائری کی تکمیل کے دس روز کے اندر یا اتھارٹی جس دورانیہ کی منظوری دے، کے اندر مکمل رپورٹ مع اس کے مواجب (گراؤنڈز) آفیسر مجاز کو پیش کرے گا۔

۶۔ (الف) نظر ثانی

حاکم مجاز آفیسر مجاز سے متعلقہ ریکارڈ، چاہے کیس کے التوا کی صورت میں ہو یا تسویہ ہو چکا ہو، طلب کر سکتا ہے اور ان تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے جو بھی مناسب سمجھے فیصلہ صادر کر سکتا ہے۔

۷۔ انکوائری آفیسر اور انکوائری کمیٹی کے اختیارات

۱۔ ان قواعد کی رو سے انکوائری کے سلسلے میں انکوائری آفیسر اور انکوائری کمیٹی کو درج ذیل معاملات میں سول کورٹ جیسے اختیارات حاصل ہوں گے، جو اسے

ضوابط سول طریق کار ۱۹۰۸ء (ایکٹ ۷، ۱۹۸۰ء) کے تحت حاصل ہیں:

(۱) سمن جاری کرنا اور کسی شخص کو حاضر کروا کر اس کی تحقیق بذریعہ حلف لینا۔

(۲) دستاویزات کا طلب کرنا، ان کی برآمدگی اور پیشگی۔

(۳) حلف نامہ پر شہادت حاصل کرنا۔

(۴) گواہوں یا دستاویزات کی تحقیق و معائنہ کے لیے کمیشن کو جاری کرنا۔

۲۔ ان قواعد کے تحت کی گئی کارروائی کو قانونی کارروائی تصور کیا جائے گا، جو کہ پاکستان پیپلز کوڈ (ایکٹ ۱۷، ۱۸۶۰ء) کی شق ۱۹۳ اور ۲۲۸ کے ضمن میں آتی ہے۔

۸۔ ایسے معاملات جن میں قاعدہ ۵ کا اطلاق نہیں ہوتا

(الف) جب ملزم کو اس کے فعل کی بنا پر نوکری سے برخاست کر دیا گیا ہو، ہٹا دیا گیا ہو یا اس کا عہدہ کم کر دیا گیا ہو اور اس کی سزا جرمانہ یا قید پر منتج ہو یا

(ب) جب حاکم مجاز (برخاست، ملازمت سے ہٹانے یا تنزیلی کرنے) کو یہ خیال یا کامل اطمینان ہو کہ بعض وہ وجوہات جن کو تحریری ریکارڈ پر لائے گا، کی بنا پر یہ مناسب نہیں کہ ملزم کو شوکاز کا موقع فراہم کیا جائے۔

۸۔ (الف) سرکاری ملازم کو رخصت پر بھیجنے کی صورت میں کارروائی

اگر سرکاری ملازم کو بذریعہ حکم رخصت پر بھیج دیا جاتا ہے تو قاعدہ ۵ کے ذیلی قاعدہ (۱) کی رو سے وہ نہ تو نوکری سے برخاست کیا جاتا ہے نہ ہی ہٹایا جاتا ہے، نہ اس کا ریکم کیا جاتا ہے اور نہ ہی اسے جبری ریٹائرمنٹ کی جاتی ہے۔ وہ دوبارہ ڈیوٹی پر حاضر ہو گا اور اس کی اس رخصت کو پوری تنخواہ کے ساتھ ڈیوٹی پر حاضر تصور کیا جائے گا۔

۹۔ صوبائی حکومت میں مستعار الحد متی بنیاد پر مامور افسران کے خلاف انکواری کا طریق کار

۱۔ ایسے سرکاری ملازم جن کی خدمات (جس پر ان قواعد کا اطلاق ہوتا ہے) صوبائی حکومت یا مقامی یا کسی دوسری اتھارٹی کے سپرد کر دی گئی ہوں تو اس قاعدہ کی رو سے مسعیر اتھارٹی کو حوالہ پر معطل کرنے یا رخصت پر بھیجنے اور اس ملازم کے خلاف کارروائی شروع کرنے کے اختیارات حاصل ہوں گے، مگر شرط یہ ہے کہ مسعیر اتھارٹی فوراً اس کے مستقل محکمہ یعنی جس نے اس کی خدمات مستعار پر دے رکھی ہیں، کو مطلع کرے گی اور اس کے بعد اس قاعدہ کی رو سے کی گئی کارروائی اور وجوہات معطل وغیرہ متعلقہ اتھارٹی کو بھیجے گی۔

مزید شرط یہ ہے کہ پاکستان سروس کے کلاس ون ممبر کے خلاف کارروائی سے پیشتر مسعیر اتھارٹی کو اس کی اجازت منظور صدر سے لینا ہوگی۔

۲۔ ذیلی قاعدہ (۱) کے تحت کی گئی کارروائی کے نتیجے میں اگر مسعیر اتھارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سرکاری ملازم سزا کا سزا وار ہے تو وہ اس پوری کارروائی کو تمام دستاویزات وغیرہ کے ساتھ اس کے محکمہ یعنی مستعار دینے والی اتھارٹی کو بھیجے گی اور وہ اتھارٹی اس پر مجوزہ قواعد کے مطابق فیصلہ دے گی۔

۱۰۔ اپیل

ایک شخص جس پر پینشنی (سزا) عائد کر دی جائے وہ سول ملازمین (اپیل) کے قواعد ۱۹۷۷ء کے مطابق اپیل کا حق رکھتا ہے۔

۱۰۔ (الف) پیشی وکیل

ان قواعد کے تحت کوئی پارٹی، کسی کارروائی کے لیے اتھارٹی انکواری آفیسر، انکواری کمیٹی یا آفیسر مجاز کے روبرو بذریعہ وکیل پیش نہیں ہو گا۔

۱۱۔ تینخ قواعد (اہلیت و انضباط)

قواعد (اہلیت و انضباط) سرکاری ملازمین ۱۹۶۰ء اپنے اطلاق کے ساتھ، جن سرکاری ملازمین پر ان کا اطلاق ہوتا ہے اور قواعد سول ملازمین جو ڈیفنس سروس میں ہیں کی درجہ بندی، کنٹرول اور اپیل ۱۹۶۱ء، منسوخ کیے جاتے ہیں، لیکن ان کی تینخ سے ان قواعد کے مطابق کیے گئے معاملات، کارروائی متاثر نہیں ہوگی۔

۱۲۔ وفاقی سیکرٹریٹ کے ملازمین سے متعلق قواعد اہلیت و انضباط کے قاعدہ "۳" کے تحت حاکم مجاز اور آفیسر مجاز کا تقرر

قواعد (اہلیت و انضباط) سرکاری ملازمین ۱۹۷۳ء کے قاعدہ ۲ کے ذیلی قاعدہ (۲) میں تفویض کردہ اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے اور عملہ ڈویژن کے اعلان نمبر ایس۔ آر۔ او ۱۵۳ (۱) ۷۳، مورخہ ۷ نومبر ۱۹۷۳ء کی منسوخی پر، صدر نے نیچے دیے گئے گوشوارے کے کالم ۳ میں دیے گئے آفیسرز کو کالم ۲ میں دیے گئے وفاقی سیکرٹریٹ کے ملازمین جن کا تعلق بھی کسی سروس یا کیڈر سے ہو، کے لیے اتھارٹی مقرر کیا ہے۔

سرکاری ملازمین حاکم مجاز (اتھارٹی) افسر مجاز

۱۔ سیکل ۲۲ اور اوپر کے ملازمین صدر

اور صوبائی چیف سیکرٹریز

۲۔ بنیادی پیمانہ سیکل ۲۱ کے ملازمین وزیر اعظم

ماسوائے صوبائی چیف سیکرٹریز

۳۔ سیکل ۱۷ تا ۲۰ کے سرکاری ملازمین وزیر اعظم

سیکرٹری

(سیکرٹری کی عدم موجودگی

میں ایڈیشنل سیکرٹری)

ایڈیشنل سیکرٹری

سیکرٹری

۳۔ سیکل ۱۲ کے سرکاری ملازمین

(جہاں ایڈیشنل سیکرٹری نہ

ہو تو جوائنٹ سیکرٹری

- (جہتین اور اس کے برابر)
- ۵۔ سیکل ۳ تا ۱۵ کے ملازمین
سیکرٹری جوائنٹ سیکرٹری (شریک منہ)
- (ایل ڈی سی یا یو ڈی سی اسٹنٹس)
- ۶۔ سیکل ۱ اور ۲ کے ملازمین
ڈپٹی سیکرٹری
(قاصد، نائب قاصد ۱۷ اور اس کے برابر) نیشن آفیسر

۱۳۔ قواعد (اہلیت و انضباط) سرکاری ملازمین، ۱۹۷۳ء کے تحت کارروائی کے لیے لوازمات کی پڑتال۔

حاکم مجاز (اتھارٹی)

یہ تسلی کر لی جائے کہ:

کہ صدر نے اس آفیسر کو قاعدہ ۲ (۲) کے تحت اتھارٹی دی ہے یا اس کو بحیثیت اتھارٹی اختیارات استعمال کرنے کی اجازت دی ہے۔

آفیسر مجاز

یہ تسلی کر لی جائے کہ:

- ۱۔ جو آفیسر، آفیسر مجاز کے اختیارات استعمال کر رہا ہے، آیا اسے حاکم مجاز کی طرف سے آفیسر مجاز مقرر کیا گیا ہے۔ (قاعدہ ۲ (۳) کی شرائط کے تحت)۔
- ۲۔ آفیسر مجاز نے قاعدہ ۵ (۱) کے تحت معطلی کے صوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے متعلقہ آفیسر (مزم) کے احکامات معطلی جاری کرنے سے پہلے حاکم مجاز سے اس کی منظوری حاصل کی ہے؟ حاکم مجاز سے معطلی کے لیے منظوری

کے خلاصے پر یا معطلی کے دورانہ کو بڑھانے کے خلاصے پر آفیسر مجاز کے دستخط ہیں؟ کسی اور آفیسر کے تو نہیں ہیں۔ مزید یہ کہ کسی آفیسر کی معطلی صرف اس صورت میں ہو سکتی ہے جب وہ جرم تجزیہ، بد عنوانی یا غلط روی قاعدہ ۵ (۱) (i) کا قصور وار ہو۔

۳۔ ہر تین ماہ بعد جبری رخصت کا دورانہ بڑھانے کے لیے حاکم مجاز کی منظوری موجود ہے۔ (قاعدہ ۵ (۱) (i))

۴۔ معطلی کی مدت میں ہر تین ماہ بعد معطلی کو جاری رکھنے کی منظوری موجود ہے؟ (قاعدہ ۵ (۱) (i))

۵۔ آفیسر مجاز کے علاوہ کسی اور آفیسر نے یہ فیصلہ تو نہیں دیا کہ کیس کے حقائق کی روشنی میں یا انصاف کے تقاضے پورے کرنے کے لیے انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی تشکیل دی جائے۔ (قاعدہ ۵ (۱) (ii))

۶۔ کیس کے حقائق اور فرد جرم کو دیکھتے ہوئے انکوائری نہ کرنے کا فیصلہ قانونی ہے یا بے انصافی پر مبنی ہے۔ آفیسر مجاز نے یہ فیصلہ کرتے ہوئے تمام حقائق اور فرد جرم کو سامنے رکھا ہے اور یہ تسلی کر لی ہے کہ یہ فیصلہ قاعدہ ۵ (۱) (ii) کے مطابق کیا گیا ہے۔

یہ درست ہے کہ اس قاعدہ کی رو سے انکوائری منعقد نہ کرنے کی وجوہات درج کرنا ضروری نہیں ہیں تاہم اس امر کی تسلی کرنا ضروری ہے کہ یہ فیصلہ انصاف اور قواعد کے تقاضے پورے کرتے ہوئے کیا گیا ہے اور اس میں قانون و انصاف کی خلاف ورزی تو نہیں کی گئی۔

۷۔ آفیسر مجاز نے کیس کی تحقیقات کے لیے انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی مقرر کرنے کے اختیارات جو قاعدہ ۵ (۱) (ii) کے تحت استعمال کیے ہیں اس میں قاعدہ ۶ کی پیروی کی گئی ہے۔

۸۔ انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی جو بھی صورت ہو، کے حکم تقرری پر آفیسر مجاز کے دستخط ہیں یا کسی اور آفیسر کے۔ (قاعدہ ۶ کو قاعدہ ۵ (۱) (ii) کے ساتھ ملا

کر پڑھا جائے)

۹۔ باقاعدہ فرد جرم مع الزامات کی تفصیل آفیسر قصور وار کو آفیسر مجاز کے دستخطوں سے بھیجی گئی ہے (الزامات کی فہرست حاکم مجاز سے منظور شدہ ہو) (قاعدہ ۶ (۱))

۱۰۔ لوازمات چارج شیٹ

(۱) چارج شیٹ ملنے کے بعد کم از کم سات روز میں یا زیادہ سے زیادہ چودہ روز کے اندر الزامات کے دفاع میں جواب پیش کیا جائے گا۔

(۲) اس بات کا اظہار کہ آیا وہ ذاتی سماعت چاہتا ہے (قاعدہ ۶ (۲))۔

۱۱۔ افسر مجاز نے انکوائری آفیسر انکوائری کمیٹی بنانے کے سلسلے میں اپنے صوابدیدی اختیارات استعمال کرتے ہوئے قاعدہ ۵ (۱) (۱) کو مد نظر رکھا ہے۔

۱۲۔ قاعدہ ۵ (۱) (۱) کے تحت جاری کیے گئے شہکار نوٹس میں تجویز کردہ کارروائی بشمول مواجب کارروائی اور تمام کاغذات، چارجز کی حمایت میں شہادت وغیرہ کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ قاعدہ ۳ کی شرائط کے مطابق مزا کی بنیاد مواجب کا ذکر کیا گیا ہے۔ مزا چھوٹی ہو یا بڑی دونوں صورتوں میں خصوصیت سے ذکر کیا گیا ہے۔ قواعد کے مطابق شوکار نوٹس پر افسر مجاز کے دستخط ہوں گے۔

۱۳۔ قاعدہ ۵ (۱) (۱) کے مطابق، انکوائری آفیسر یا انکوائری کمیٹی کی رپورٹ یا قصور وار ٹھہرائے گئے سرکاری ملازم کی طرف سے دماغی جواب کی وصولی پر افسر مجاز اس بات کا تعین کرے گا کہ آیا وہ اس افسر کے خلاف چارجز ثابت ہوتے ہیں یا نہیں؟

۱۴۔ افسر مجاز انکوائری رپورٹ پر غور کے بعد ابتدائی طور پر اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ سزا دی جائے گی تو اپنے اس عندیہ کے ساتھ مع انکوائری رپورٹ جس میں تجویز کردہ مزا کا ذکر کیا گیا ہو، قصور وار آفیسر کو بھیجے گا تاکہ وہ اس رپورٹ اور

سزا کے دفاع میں وضاحت کر سکے۔ اس سلسلے میں اسے مناسب وقت دیا جائے گا جو کہ سات دن سے کم اور چودہ دن سے زیادہ نہیں ہو گا۔ حتمی فیصلہ سے پہلے اس جوابی وضاحت کو سامنے رکھا جائے گا۔

۱۵۔ افسر مجاز نے بڑی مزا تجویز کی ہے تو اس صورت میں اپنی اس تجویز کو تمام دستاویزات کے ساتھ حاکم مجاز کو بھیجا ہے۔

۱۶۔ جب قصور وار آفیسر نے ذاتی طور پر وضاحت کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہو تو اس صورت میں چھوٹی مزا کے فیصلہ یا بڑی مزا کی تجویز کو حاکم مجاز کے پاس بھیجنے سے قبل اسے سنا گیا؟

۱۷۔ جب سول ملازمین کیلئے یا اس سے اوپر کے کیلئے ہو تو ایسی صورت میں انضباطی کارروائی کے لیے اس کیس کو صدر کو بھیجا جائے گا، جن معاملات کے لیے وہ اتھارٹی ہیں۔ ان معاملات خلاصہ (سری) کی شکل میں عملہ ڈویژن کی وساطت سے سی او ایس صدر کو مع مکمل سی آر ڈوڈنیر کے بھیجا جائے گا۔ خلاصہ میں درج ذیل معلومات کا شامل کرنا بھی ضروری ہے۔

(۱) قصور وار افسر کی تاریخ پیدائش۔

(۲) ملازمت میں داخل ہونے کی تاریخ۔

(۳) خلاصہ ارسال کرنے کی تاریخ تک اس کی کل ملازمت برائے اہلیت پنشن۔

انکوائری آفیسر کمیٹی اس بات کو یقینی بنائے گی کہ:-

۱۔ انکوائری کے دوران ساری کارروائی قاعدہ ۶ (۲) تا (۶) کی سختی سے پیروی کی گئی ہے۔

۲۔ انکوائری کی کارروائی قانونی شرائط جو قاعدہ ۷ میں دی گئی ہیں کے مطابق کی گئی۔ اور انکوائری آفیسر نے شہادتیں رہبانات حلف پر لیے۔

۳۔ شہادتوں پر جوابی وضاحت آفیسر کا حق ہے۔ (قاعدہ ۶ (۳))

۴۔ ملزم آفیسر کو اپنے دفاع میں کارروائی کے لیے مناسب وقت دیا گیا ہے۔

۵۔ کیس کی سماعت روزانہ کی گئی اور کوئی التوا نہیں ہوا۔ سوائے اس کے کہ اس التوا کی وجوہات کے افسر مجاز کو رپورٹ کی گئی کوئی بھی التوا سات یوم سے زیادہ نہیں ہوا۔

۶۔ مناسب تحقیق اور شہادتوں کو دیکھتے ہوئے نتائج ریکارڈ کیے جاتے ہیں۔

وضاحت۔ ۱

اس اعلان کے لیے سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری یا سیکشن آفیسر بحیثیت اتھارٹی یا افسر مجاز سے مراد وہ سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری یا سیکشن آفیسر ہیں جن کا تعلق اس وزارت یا ڈویژن سے ہے جس میں فی الحال متعلقہ سرکاری ملازم کام کر رہا ہو۔

وضاحت۔ ۲

سرکاری ملازم جو وفاقی سیکرٹریٹ سے باہر صوبائی حکومت یا خود مختار ادارے میں کام کر رہا ہے لیکن انتظامی طور پر وہ وزارت یا ڈویژن کے تحت کام کر رہا ہے تو اس کا تعلق پوسٹ، سروس یا کیڈر سے ہے۔ سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری یا سیکشن آفیسر، حاکم مجاز یا افسر مجاز سے مراد سیکرٹری، ایڈیشنل سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری، ڈپٹی سیکرٹری یا سیکشن آفیسر وزارت سے ڈویژن ہے۔

(اتھارٹی۔ اعلان نمبر ایس۔ آر۔ او ۶۱۵ (۱) ۷۹ مورخہ ۵ جولائی ۱۹۷۹۔ اعلان نمبر

۷۹/۳۔ ڈ۔ ۱ مورخہ ۵ جولائی ۱۹۷۹)

مستقلی کے لیے قانونی گنجائش.....

(سیکشن ۷، سرکاری ملازم ایکٹ، ۱۹۷۳)

۱۔ آزمائش پر بھرتی کیا گیا شخص، آزمائشی مدت کی تسلی بخش تکمیل پر ملازمت میں مستقلی کا اہل ہو جائے گا یا پھر متعلقہ اسامی کے لیے جو بھی معاملہ طے ہو۔

۲۔ باضابطہ بنیاد پر پوسٹ یا گریڈ پر ترقی پانے والا سرکاری ملازم اس اسامی پر مستقلی کے لیے مقرر کیے جانے والے دورانیہ میں تسلی بخش خدمات انجام دینے پر مستقلی کا اہل قرار پائے گا۔

۳۔ عارضی اسامی پر مستقلی نہیں ہوگی۔

۴۔ سرکاری ملازم جو اپنی ملازمت کے دوران مستقلی کے لیے اہل تھا لیکن

مستقل ہونے سے پہلے فارغ الخدمت ہو جائے تو محض اس وجہ سے اس کی اسامی کو مستقل کرنے یا اس سے متعلقہ فوائد حاصل کرنے سے اسے انکار نہیں

کیا جائے گا۔

۵۔ سرکاری ملازم کی ملازمت یا پوسٹ پر مستقلی، اس ملازمت یا اسامی کے

مستقل ہونے کی تاریخ سے شمار ہوگی یا ایسی ملازمت یا اسامی پر مسلسل تعیناتی

کی تاریخ سے، جو بھی بعد میں ہو۔

۱۔ سرکاری ملازمین کی مستقلی کے قواعد و ضوابط

یہ بات نوٹ کی گئی ہے کہ وزارت سرڈویشن اور ان کے ماتحت و ماتحت کے تحت اسامیوں کی بڑی تعداد کو مستقل نہیں کیا گیا اور یہ متاثرہ عملہ کے لیے جائز شکایات کا سبب ہے اس لیے تمام وزارتوں/ڈویژنوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ مستقلی کے معاملے کو جلد نمائیں۔ اس مقصد کے لیے درج ذیل عمومی ہدایات جاری کی جاتی ہیں۔

(الف) ایسی عارضی اسامیاں جو پانچ سالوں یا زیادہ عرصہ سے وجود میں یا انہیں مستقل نوعیت کے کام کے لیے وضع کیا گیا تھا یا ان کا غیر محدود دورانیہ کے لیے جاری رہنے کا امکان ہے، کو مستقل کرنے کے لیے فوری اقدام کیے جائیں۔ عارضی اسامیوں کو مستقل کرنے کے اختیارات، پہلے ہی مالیات اور بجٹ کو کنٹرول کرنے کے سلسلے میں وزارت مالیات کی دفتری یادداشت نمبر ایف۔ (۳)۔ ای۔ ۷۲۱ مورخہ ۱۸ مئی ۱۹۸۳ کے تحت دیے جانے والے بلکہ اس فارمولہ سے وزات مالیات کے مشورہ سے تجاوز بھی کیا جاسکتا ہے، اگر کسی معاملے میں اس کا جواز ہو۔

(ب) اگرچہ کئی ملازمتیں جو زیادہ عرصہ نہیں رہیں، ان کی مستقلی اس پوسٹ کے عہدے اور گریڈ پر نہیں کی جاتی مثلاً "جناب الف کو آزمائشی مدت پوری کرنے کے بعد وفاقی یونیٹائزڈ گریڈ سترہ میں انکم ٹیکس آفیسر کی اسامی پر مستقل کر دیا گیا ہے۔"

تمام پاکستان یونیٹائزڈ گریڈوں اور سیکشن آفیسروں کی اسامی پر مستقلی عملہ ڈویژن ہی کرے گا۔

(ج) صرف وہ شخص جس کی باقاعدہ اسامی پر مجوزہ طریق کار کے مطابق تقرری ہوئی ہو وہ آزمائشی مدت کی کامیاب تکمیل پر مستقلی کا اہل ہو گا۔

(د) جہاں براہ راست بھرتی یا ترقی کے لیے کوئی مخصوص ہو وہاں پر متعلقہ

شخص کی تقرری یا ترقی اس زمرہ کے مطابق ہوگی جس سے اس کا تعلق ہے۔

(ا) صرف ایسی واضح خالی اسامی پر مستقلی ہو سکتی ہے جس پر واپسی کا کوئی دوسرا شخص حق نہ رکھتا ہو۔

(ب) مستقلی سینئرٹی کا لحاظ رکھتے ہوئے کی جاتی ہے۔ کسی جوئیر کو مستقلی کے لیے ایسے سینئر پر ترجیح نہ دی جائے جو کہ مستقلی کا اہل ہو۔

(ج) جس ملازم کے خلاف انضامی کارروائی التوا میں ہو اسے مستقل نہ کیا جائے۔ اگر اس سے جوئیر کو مستقل کیا جائے تو اس صورت میں سینئر کے لیے پوسٹ مخصوص کر لی جائے اور اس کے خلاف کارروائی کے فیصلہ کی روشنی میں، اس کی مستقلی پر غور کیا جائے۔

(ح) اگر کوئی شخص کسی اسامی پر دوسرے محکمہ یا کیڈر میں حق واپسی رکھتا ہو تو اس سے اس اسامی کے لیے حق عود سے دستبرداری کے لیے، رائے لی جائے اس سے پہلے کہ اسے دوسری اسامی پر مستقل کیا جائے۔

(ط) اگر کسی شخص کو مستعار لینے والے دوسرے محکمہ میں مستقل کرنا ہو تو پھر اس کے اصل محکمہ سے جس میں اس کا حق واپسی موجود ہو اور اس کے مفادات اس سے وابستہ ہوں، سے رضامندی لینا ہوگی۔

(ی) ترقی پانے والی اسامیوں پر مستقلی بالترتیب ہونی چاہیے۔ جب ایک شخص ایک سے زائد اسامیوں پر مستقلی کا اہل ہو تو پہلے وہ نچلے گریڈ کی اسامی پر مستقل ہو گا اور اس کے بعد یکے بعد دیگرے دوسری اسامیوں پر مستقل ہو گا۔

۲۔ فیڈرل پبلک سروس کمیشن آرڈیننس (نمبر ایکس۔ ایل وی ۷۷۱۹۷) کے تحت بنائے گئے قوانین کے مطابق کمیشن کی ذمہ داری گریڈ ۱۸ اور اوپر کی اسامیوں پر بھرتی کرنا ہے اور آئندہ سے گریڈ پندرہ اور اس سے نیچے کی اسامیوں کی بھرتی وزارتیں/ڈویژن از خود بوساطت محکماتہ ترقی کیشیوں کے، بمطابق سول ملازمین

(ترقی، تقرری اور تبادلہ) قواعد ۱۹۷۳ء اور انتظامی ہدایات جو کابینہ سیکرٹری کے نیم سرکاری مراسلہ نمبر ۷۳/۸۴ - ایف آئی وی، مورخہ ۲۲ اکتوبر، ۱۹۷۳ء میں دی گئی ہیں۔ ایسے ملازمین جو پہلے سے سکیل ۱۵ اور نیچے کے سکیل میں عارضی رہنے والی تھیں، ان کی تقرری کو باضابطہ بنانے کی ضرورت ہے۔ ان میں سے اکثریت دفتری عملہ کی ہے جنہیں کوئٹہ کے مطابق عارضی طور پر رکھا گیا تھا اور کچھ عملہ ایسا ہے جو براہ راست بھرتی میں ترقی کے کوئٹہ پر اوپر کے گریڈ میں آئے ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ سکیل ۱۵ یا نیچے سکیلوں میں بی الوقی عارضی بنیاد پر بھرتی کیے گئے ان تمام ملازمین کو جن کی متعلقہ سکیلوں کے لیے مقرر کردہ اہلیت پوری ہے اور وہ اپنے سکیلوں میں ۳۱ دسمبر ۱۹۷۲ء تک پانچ سال کی تسلی بخش ملازمت کر چکے ہیں، کو مستقل کر دیا جائے۔ ان کی ملازمت میں مستقلی کے لیے اہلیت اور ملازمت کو باضابطہ بنانے کا تعین محکمہ کیمپن یا ان کی خفیہ رپورٹوں کی بنیاد پر کریں گی۔ ان ملازمین کے براہ راست کوئٹہ پر بھرتی ہونے کی صورت میں ملازمت کی مستقلی کے لیے صوبائی اور علاقائی کوئٹہ کو بھی پیش نظر رکھا جائے گا۔ کسی خاص صوبہ علاقہ کے لیے مختص کردہ کوئٹہ کی اسامیوں پر عارضی رہنے والی تھیں ملازمین کو مستقل نہیں کیا جائے گا بلکہ وہ بذریعہ اشتہار مقررہ کوئٹہ برائے مخصوص صوبہ علاقہ کے امیدواروں سے ہی پر کی جائیں گی۔

۳۔ کیمپن کی ساخت، کابینہ سیکرٹری کے نیم سرکاری مراسلہ نمبر ۷۳/۸۴ - ایف آئی وی، مورخہ ۲۲ اکتوبر، ۱۹۷۳ء میں بتائی گئی سلیکشن کیمپن ہی جیسی ہو گی۔

کیمپن درج ذیل طریق کار اختیار کرے گی۔

(۱) مختلف سکیلوں کی اسامیوں کا گوشوارہ مع وہ تواریخ جن میں وہ اسامیاں مستقل واقع ہوئیں۔

(۱) اگر پہلے سے سینئر فہرست مرتب نہیں کی گئی تو اسے حتمی شکل دینے سے پہلے تمام متعلقہ ملازمین کو مطلع کرنا اور اگر کوئی اعتراضات وغیرہ ہوں تو ان کی روشنی میں سینئر لسٹ تیار کرنا اور اس سلسلے میں عملہ ڈویژن سے اس معاملے کا تسویہ کرانا۔

(۲) کیمپن تمام متعلقہ ملازمین کے ریکارڈ کی اچھی طرح جانچ پڑتال کرے گی اور دیکھے گی کہ آیا یہ مستقلی کے اہل ہیں یا فی الحال ان کی مستقلی کا کیس التوا میں رکھا جائے۔

(۳) اگر سینئر افراد کے معاملے کو التوا میں رکھا جائے تو اس صورت میں مطلوبہ اسامیوں کو ان کے لیے مختص کر دیا جاتا ہے اور اس کی اطلاع متعلقہ اشخاص کو کر دی جائے اور اس کے بعد نئی خفیہ رپورٹوں کے آنے پر ان کیسوں پر دوبارہ غور کیا جاتا ہے۔

(۴) مستقل کیے گئے ملازمین کی فہرست اور ان ملازمین کی فہرست جنہوں نے سینئر ہونے کا دعویٰ کیا اور ان کے اس دعویٰ کو کیوں رد کیا گیا ہے اس کو عملہ ڈویژن کی اطلاع اور ریکارڈ کے لیے بھیجا جائے۔

۴۔ تمام وزارتوں اور ڈویژنوں سے درخواست کی جاتی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ وزارت اور ڈویژن اور ان کے ماتحت محکموں میں ملازمین کے مستقلی کے کیسز کو جلدی سے حکومت کی ہدایات کی روشنی میں مکمل کیا جائے۔

۵۔ یہ دفتری یادداشت عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۷۳/۸۴، 'سی'، 'ا'، ۲۷ ستمبر، ۱۹۷۱ء کو منسوخ کریں۔ (انتہائی) دفتری یادداشت نمبر ۷۳/۸۴، 'اے' آر سی، مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۷۳ء)

عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۷۳/۸۴ کے اے آر سی مورخہ ۲۰ نومبر، ۱۹۷۳ء کے پیرا ۲ کے مطابق خالصتاً عارضی طور پر کی جانے والی بھرتیوں کو بھی براہ راست کوئٹہ کی اسامیوں پر باضابطہ مستقل کرنے کے اہل قرار دیا گیا ہے بشرطیکہ انہوں نے ۳۱ دسمبر ۱۹۷۳ء تک اپنی اسامیوں پر پانچ سال کی

تسلی بخش ملازمت پوری کر لی ہے۔

(اتھارٹی۔ دفترى یادداشت نمبر ۱۸/۳۳/۷۳-ایف، مورخہ ۲۷ ستمبر ۱۹۷۳)

اس ڈویژن کے نوٹس میں کچھ ایسی مثالیں آئی ہیں کہ بعض عارضی دفترى عملہ کو ان کی کسی ایک اسامی پر پانچ سال مکمل نہ ہونے کی وجہ سے انھیں باقاعدہ مستقل کرنے میں اس رعایت سے محروم رکھا گیا ہے جبکہ وہ مختلف گریڈوں پر پانچ سال سے زیادہ عرصہ ملازمت کر چکے ہیں۔ اس معاملے کو زیر غور لایا گیا ہے کہ ایسے تمام ملازمین جن کی کسی ایک اسامی پر پانچ سال ملازمت نہیں بنتی لیکن ان کی دوسرے مختلف گریڈوں پر ملازمت کو ملا کر پانچ سال بن جاتے ہیں ان کو اس رعایت سے مستفیض کیا جائے۔

عملہ ڈویژن کی دفترى یادداشت نمبر ۱۸/۳۳/۷۳-اے آر سی، مورخہ ۲۰ نومبر ۱۹۷۳ء کی طرف توجہ مبذول کرائی جاتی ہے جس میں وفاقی سیکرٹریٹ اور اس کے ماتھے محکموں میں دفترى عملہ کی مستقلی کے لیے ہدایات و اصول بنائے گئے ہیں۔ اس کے پیرا ۳۱ میں وزارتوں، ڈویژنوں اور سربراہان محکمہ جات پر زور دیا گیا تھا کہ وہ اپنے اور ماتحت محکموں میں اس بات کو یقینی بنائیں کہ ایسے دفترى ملازمین جو مستقلی کے اہل ہوں اور مستقل اسامیاں بھی موجود ہوں تو کوئی ایسا ملازم مستقل ہوئے بغیر نہ رہے۔ اس ڈویژن کے یہ بات نوٹس میں آئی ہے کہ وفاقی حکومت محض کئی دفاتر میں اس ہدایت پر کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اس لیے درخواست کی جاتی ہے کہ ایسے تمام ملازمین جو مستقلی کے اہل ہیں۔ ان کو مستقل اسامیوں پر انھیں فوراً مستقل کیا جائے۔

(اتھارٹی۔ دفترى یادداشت نمبر ۱۸/۳۳/۷۳-ایف۔ ۱۔ مورخہ ۶ مارچ ۱۹۷۸)

۲۔ شاف کار ڈرائیوروں، ہر کاروں کی مستقلی

۱۔ شاف کار ڈرائیوروں اور ترسیل کاروں کی انجمن نے درخواست کی ہے کہ باوجود پندرہ سولہ سال ملازمت کرنے کے ان کو مستقل نہیں کیا گیا۔

۲۔ سول ملازمین ایکٹ ۱۹۷۳ء کے مطابق سول ملازم کی ملازمت یا پوسٹ پر

مستقلی اس اسامی کی مستقل اسامی کے پیدا ہونے کی تاریخ یا اس اسامی پر مسلسل ملازمت کی تاریخ، جو بھی بعد میں ہو، کی تاریخ سے کی جاتی ہے۔

وزارتوں، ڈویژنوں سے درخواست ہے کہ وہ ایسے شاف کار ڈرائیوروں، ترسیل کاروں کو جو باضابطہ طور پر بھرتی ہوئے ہیں، مستقل کرنے کی کارروائی کریں۔

(اتھارٹی: عملہ ڈویژن کی دفترى یادداشت نمبر ۱۸/۳۳/۷۳-ایف، مورخہ ۲۷ مارچ ۱۹۸۸)

۳۔ مختلف اسامیوں پر مستقلی کے لیے حکام مجاز

مستقلی کے موضوع پر عملہ ڈویژن کی دفترى یادداشت نمبر ۱۸/۳۳/۷۳-جی۔ ۱ جنوری ۱۹۷۷ء کی طرف توجہ دلائی جاتی ہے اور بیان کیا جاتا ہے کہ مستقلی کے لیے بااختیار حاکم کے معاملے پر غور کیا گیا ہے۔ مستقلی سے مراد مستقل اسامی پر مستقل تقرری ہے۔ اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ مختلف سیکلوں پر سول ملازمین (تقرری، ترقی اور تبادلہ) قواعد نمبر ۱۹۷۳ء کے قاعدہ ۶ کے مطابق متعلقہ اتھارٹی ہی مستقل اسامی پر مستقلی کا اختیار استعمال کرے گی۔ مختلف سیکلوں پر مستقلی کے لیے درج ذیل اتھارٹیز ہوں گی۔

(۱) سیکل ۲۰ اور اوپر کی اسامیوں پر = وزیر اعظم

(۲) گریڈ ۱۷، ۱۸ اور ۱۹ کی اسامیوں پر = سیکرٹری عملہ ڈویژن

(۳) گریڈ ۲۱ اور نیچے کی اسامیوں پر = مجوزہ اتھارٹیز یا ملازمین (تقرری، ترقی اور تبادلہ) کے قاعدہ ۱۹۷۳ء کے قاعدہ ۶ کے مطابق۔

(اتھارٹی، عملہ ڈویژن کی دفترى یادداشت نمبر ۱۸/۳۳/۷۳-آر۔ ۳، مورخہ ۲۶

جون ۱۹۸۲ء کو ان کے اعلان نمبر الیس۔ آر۔ او ۱۲۲ (۱) ۸۸ مورخہ ۳

اکتوبر ۱۹۸۵ء کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے)

۱۔ اعلانات

پاکستان کے غیر معمولی جریدہ میں شائع کیا گیا

اسلام آباد، جمعرات ۱۵ اپریل ۱۹۹۳ء

حصہ دوم

آئینی اعلانات (ایس۔ آر۔ او)

حکومت پاکستان

کابینہ سیکرٹریٹ

(حکمہ ڈورین)

اسلام آباد، ۱۵ اپریل ۱۹۹۳ء

ایس۔ آر۔ او ۲۸۵ (۱) ۹۳۔ سول ملازمین ایکٹ ۱۹۷۳ء (ایل ایکس ایکس ۱

۱۹۷۳ء) کی دفعہ ۲۵ میں تفویض کردہ احکامات کے تحت صدر نے درج ذیل قواعد جاری کیے ہیں۔

مختصر نام، آغاز اور اطلاق:

(۱) یہ قواعد 'سول ملازمین (مستقل) قواعد ۱۹۹۳ء' کہلائیں گے۔

(۲) یہ قواعد فوری نافذ العمل ہوں گے۔

(۳) ان قواعد کا اطلاق تمام سول ملازمین پر ہو گا۔

تعريفات

ان قواعد میں تاؤ فیکہ کوئی اور موضوع یا متن کے منافی نہ ہو۔

(الف) بیرونی ملازمت (قارن سروس) سے مراد وہ ملازمت ہے جس میں

ایک سرکاری ملازم حکومت کی منظوری سے وفاق کے مستقل بجٹ کے علاوہ

کسی دوسرے ذرائع سے اپنی تنخواہ وصول کرتا ہے۔ اور

(ب) "حق عود" سے مراد سرکاری ملازم کا اپنی مستقل اسامی پر حق واپسی

ہے۔

۲۔ مستقل کے عمومی قواعد

۱۔ سرکاری ملازم جس کی ابتدائی آزمائشی تقرری ہوئی ہے بشمول سرکاری ملازم کی

بذریعہ ترقی یا تبادلہ تقرری ہوئی ہے تو اس کی آزمائشی مدت کی کامیاب تکمیل پر

وہ اس اسامی پر مستقل کا اہل ہو گا۔ بشرطیکہ مستقل، مستقل اسامی پر ہو۔

مزید شرط یہ بھی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ سرکاری ملازمین کو ایک ہی

اسامی پر ایک وقت میں یا ایسی اسامی پر کسی دوسرے سرکاری ملازم کا حق واپسی

موجود ہو، پر مستقل نہیں کیا جائے گا۔

مزید یہ بھی شرط ہے کہ ایک سرکاری ملازم بیک وقت دو یا زیادہ اسامیوں

پر مستقل نہیں ہو گا۔

۲۔ سرکاری ملازم کی مستقل اسامی کی نیابتی پر ہی ہوگی۔

۳۔ ایسی اسامی پر جو برخاستگی، ہٹانے یا جبراً فارغ التحصیلی سے خالی ہوئی ہو، پر

مستقل نہیں ہو سکتی تاؤ فیکہ متاثرہ ملازم کی اپیل کا حتمی فیصلہ نہ ہو جائے۔

۴۔ مستقل اس مقصد کے لیے بنائی گئی کنفریشن کمیٹی کی سفارش اور نیچے دی گئی

اقتدار کی منظوری کے بعد کی جائے گی۔

اسامیاں	ساخت کمیٹی	توثیقی ہیئت مجاز	کیفیت
۱	۲	۳	۴
بنیادی بیانیہ تنخواہ ۲۰ اور اوپر کی اسامیاں	انتظامی وزارت کا سیکرٹری یا کنٹرولنگ اتھارٹی جیسے چیئرمین، اضافی معتمد یا شریک معتمد صرف اس صورت میں جب اضافی معتمد نہ ہو اور معتمد اضافی عملہ ڈورین بحیثیت ممبر۔ اگر اسامیاں ملحقہ یا ماتحت دفتر کی ہوں، تو سربراہ ملحقہ حکمہ ماتحت دفتر، جو کہ خصوصی ملازمت کیڈر اسامی کو کنٹرول کرتا ہے، وہ بحیثیت رابطہ ممبر ہو گا۔	وزیر اعظم	

انتظامی وزارت	انتظامی وزارت کا سیکرٹری کا سیکرٹری جو خصوصی سروس کیڈر اسامی کو کنٹرول کرتا ہے	مستعد/اضافی یا شریک مستعد جہاں اضافی مستعد نہ ہو جو خصوصی سروس کیڈر اسامی کو کنٹرول کرتا ہے۔ بحیثیت چیئرمین کے اور ایک شریک مستعد اور ایک سینئر نائب مستعد وزارت بحیثیت ممبر اور اگر اسامیاں ملحقہ محکمہ یا ماتحت دفاتر کی ہوں تو ان کے سربراہان جو خصوصی سروس کیڈر پوسٹ کو کنٹرول کرتے ہیں، کو ممبر رابطہ مقرر کیا جائے گا۔	بنیادی بیانہ تختواہ ۱۷ تا ۱۹ کی اسامیوں کے لیے
---------------	--	--	--

بنیادی بیانہ سکیل ۲ تا ۴ تک کے لیے

انتظامی وزارتوں	متعلقہ وزارت ڈویژن کا سیکرٹری سربراہ ادارہ بشرطیکہ وہ ۲۰ یا اس سے اوپر کے سکیل میں ہو	سکیل ۲۰ کا آفیسر بحیثیت چیئرمین اور سکیل ۱۹ کے دو افسران بطور ممبران سکیل ۱۹ کا آفیسر بطور چیئرمین اور سکیل ۱۸ کے دو افسران بطور ممبران	بی۔ پی۔ ایس ۱۱ ۲ تا ۴ کی اسامیوں کے لیے بی۔ پی۔ ایس ۱۰ اور نیچے کی اسامیوں کے لیے
انتظامی وزارتوں	متعلقہ وزارت ڈویژن کا سیکرٹری سربراہ ادارہ بشرطیکہ وہ ۲۰ یا اس سے اوپر کے سکیل میں ہو	سکیل ۲۱ تا ۲۴ کی اسامیوں کے لیے وزارت ڈویژن کا نائب مستعد	
انتظامی وزارتوں	متعلقہ وزارت ڈویژن کا سیکرٹری سربراہ ادارہ بشرطیکہ وہ ۲۰ یا اس سے اوپر کے سکیل میں ہو	سربراہ محکمہ یا سربراہ دفتر بشرطیکہ وہ سکیل ۱۹ کا آفیسر ہو	

۵۔ حق واپسی حاصل کرنا

۱۔ مستقل اسامی پر مستقل کے بعد سرکاری ملازم اس اسامی پر حق عود حاصل کر لے گا اور وہ اس حق کو اس دورانہ میں برقرار رکھے گا جب وہ:

(الف) اپنی اصل اسامی یا سروس جس میں وہ بھرتی ہوا تھا، کے علاوہ عارضی اسامی پر تقرر۔

(ب) غیر ملکی حکومت کے ساتھ مستعارالخدمتی کی اسامی پر یا بین الاقوامی تنظیم، بشپھ القومی کارپوریشن یا بیرون پاکستان کسی دوسری تنظیم میں۔

(ج) پاکستان میں مستعارالخدمتی اسامی پر کام کر رہا ہو۔

(د) رخصت پر ہو۔

(ه) پاک فوج میں ریزرو کی بنیاد پر ڈیوٹی کے لیے بلا لیا گیا ہو۔

(و) دوران معطلی اور

(ز) دوسری اسامی پر مہلت حاضری کے دوران

۲۔ جیسے کہ ذیلی قاعدہ (۱) میں بتایا گیا ہے۔ سرکاری ملازم کا پہلے سے کسی دوسری اسامی پر حاصل کردہ حق واپسی ختم ہو جائے گا۔

۳۔ سرکاری ملازم کا حق واپسی (Lien) اس صورت میں ختم ہو جائے جب اسے قواعد (اہلیت و انضباط) سرکاری ملازمین کے مطابق انضباطی کارروائی میں اپنی اصل اسامی سے نچلے عہدے پر کر دیا جائے یا واپس کر دیا جائے۔ البتہ ایسا سرکاری ملازم چھٹی اسامی پر حق عود حاصل کر لے گا۔

۴۔ سرکاری ملازم اپنا حق عود اس اسامی پر ختم کر لے گا جب اس کی تقرری وفاقی حکومت، صوبائی حکومت، لوکل اتھارٹی یا پرائیویٹ آرگنائزیشن میں انتخاب کی بنیاد پر ہوئی ہو۔

۳۔ جب تک کوئی سرکاری ملازم کسی دوسری اسامی پر حق واپسی (Lien) ختم نہیں کر لیتا اس کے وفاقی حکومت کے تحت اسامی پر رکھا گیا حق عود، اس کی مرضی

کے بغیر ختم نہیں ہو گا۔

۴۔ ایک مستقل سرکاری ملازم جو اپنی ترقی سے کوئی دوسری ملازمت، اسامی یا کیڈر میں باضابطہ طور پر شامل ہو جاتا ہے اور باقاعدہ طریق کار کے مطابق منتخب ہو جاتا ہے تو اس کا پہلے کی اسامی پر حاصل شدہ حق واپس ختم ہو جائے گا جب وہ اپنی نئی اسامی پر آزمائشی مدت کامیابی سے مکمل کر لے گا۔

۵۔ تنسیخ سرکاری ملازم کی مستقلی سے متعلق وقتاً فوقتاً جاری کردہ ہدایات منسوخ کی جاتی ہیں۔

مسئل نمبر۔ ۷/۱۹۱۔ آر۔

منظر حسین

اضافی مستند

مینجر پرنٹنگ کارپوریشن پاکستان پریس لی وساطت سے چھاپا گیا اور نمبر پبلیکیشن کراچی کے ذریعے اشاعت ہوئی۔

باب ۲۳

تقدم (سنیاری)

۱۔ قانونی گنجائش

سرکاری ملازم ایکٹ ۱۹۷۳ء کی دفعہ ۸

۱۔ کار ملازمت کے انتظام کو درست طور پر چلانے کی غرض سے کسی کیڈر یا مخصوص اسامی کے حاکم مجاز تقرر کا یہ فرض ہے کہ وہ کاڈر یا مخصوص اسامی کے ملازمین کی فہرست تقدم تیار کرے۔ یہ فہرست بلا تخصیص کاڈر مرتب کی جاتی ہے اور کسی کے قواعد کے تحت حاصل شدہ حقوق کو تبدیل نہیں کیا جاتا۔

۲۔ ذیلی دفعہ (۱) کے مطابق سرکاری ملازم کا تقدم، دوسرے سرکاری ملازمین جو اس کاڈر میں ہیں، چاہے وہ اس حکمہ دفتر میں کام کر رہے ہوں یا نہیں، کو سامنے رکھ کر بنائی جائے گی۔

۳۔ ملازمت میں ابتدائی تقرری پر سنیاری کا تعین بلا تخصیص کاڈر (مجوزہ طریقے پر) کیا جائے گا۔

۴۔ ایک سرکاری ملازم کو جس سنیاری پر ترقی دی جاتی ہے وہ اس اسامی پر مستقل تقرری کی تاریخ سے مؤثر ہوگی۔

۵۔ مگر شرط یہ ہے کہ سرکاری ملازمین جو ایک سٹیج میں خاص اعلیٰ اسامی پر ترقی

کے لیے منتخب ہو جائے تو وہ اپنے مخصوص کاز میں سناریٹی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔

۲۔ براہ راست بھرتی یا بذریعہ ترقی یافتہ ہونے والے ملازمین کے قواعد تقدم زیر دستخطی کو یہ کہنے کی ہدایت کی گئی ہو کہ عملہ ڈویژن اور وزارتوں/ڈویژنوں میں براہ راست بھرتی ہونے والے ملازمین اور بذریعہ ترقی اسامی پر فائز ہونے والے ملازمین کی سناریٹی کے تعین کا معاملہ زیر غور لایا گیا۔

(الف) جب وفاقی پبلک سروس کمیشن، دیے گئے ایک حوالے کی بنا پر کافی افراد کی اس گریڈ پر منظوری عطا کرتا ہے تو ان کے مابین سناریٹی کا تعین اس تاریخ (تاریخوں) سے ہو گا جن سے وہ اس گریڈ پر مستقل اسامی پر قائم مقامی کر رہے تھے۔ اگر وہ پہلے سے ملازمت میں اس گریڈ پر کام کر رہے ہیں۔ یہ ایسے سرکاری ملازمین پر بھی لاگو ہو گا جو پہلے سے اس اسامی کے محاذ کام کر رہے ہوں لیکن کمیشن ان کی منظوری نہ دے لیکن کمیشن کے اس مشورہ کو نہ مانا جائے اور اس مشورہ کو مجوزہ طریق کار کے مطابق خارج از قاعدہ قرار دیا جائے۔

(ب) اس فارمولے کے مطابق سناریٹی کا تعین نہیں کیا جائے گا۔ اگر کسی ملازم کی تقرری کے سلسلے میں وفاقی کمیشن منظوری نہیں دیتا اور حکومت کی طرف سے اس مشورہ کو مان لیا جائے۔ البتہ اگر دوسرے ریفرنس پر کمیشن اس کی منظوری دے تو پھر منظوری کی تاریخ سے اس کی سناریٹی کا تعین کیا جائے گا۔

(ج) باہر سے براہ راست بھرتی کیے جانے والے افسران کی سناریٹی کا تعین اس میٹ لسٹ کے مطابق کیا جائے گا جو وفاقی کمیشن تیار کرتا ہے۔

۲۔ یہ اصول عمومی طور پر قابل تقلید ہیں لیکن اگر جہاں پہلے سے کوئی سناریٹی اصول موجود ہو تو پھر ان اصولوں کے مطابق سناریٹی کا تعین کیا جائے گا۔

۳۔ نظر ثانی شدہ تقدم آئندہ کے لیے ہو گا۔ اگر پہلے قواعد کے مطابق کوئی

ترقیات مستقیاں پہلے سے ہوئی ہوں تو ان پر اس کا اثر نہیں ہو گا۔ پھر وہ تقریباں متاثر نہیں ہوں گی۔

(عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۵۶۲۲- ڈی ۱ مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۶۲ء)

۳۔ درجہ دوم سے درجہ اول پر ترقی کی صورت میں تقدم کا تعین

زیر دستخطی کو اس ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۳۳۳۵- ڈی ۱ مورخہ ۳ ستمبر ۱۹۹۳ء یہ موضوع بالا کے حوالے سے یہ کہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ وزارتوں/ڈویژنوں کی جانب سے موصولہ جوابات کی روشنی میں یہ معاملہ وفاقی پبلک سروس کمیشن کے مشورے سے دوبارہ زیر غور لایا گیا اور فیصلہ کیا گیا ہے کہ محکمہ افسران کی جریدی کلاس دوم سے جریدی کلاس اول میں ترقی کی صورت میں درج ذیل اصولوں کی بنیاد پر تقدم کا تعین کیا جائے گا۔

(۱) کمیشن کی طرف سے کلاس دوم سے کلاس اول پر ترقی کی منظوری کی صورت میں افسران اپنا تقدم قائم رکھیں گے جو کہ ان کی نچلے گریڈ پر تھا۔

(۲) وہ افسران جن کی وفاقی پبلک سروس کمیشن پہلے منظوری دے گا وہ اس عہدے پر بعد میں منظوری ملنے والے افسران سے مقدم ہوں گے۔

۱۔ مگر شرط یہ ہے کہ۔

(الف) اگر ایک قابل ترقی آفیسر غلطی سے پہلے حوالے پر غور سے رہ گیا اور اس کی جگہ کوئی دوسرا آفیسر ترقی پا گیا تو دوسرے ریفرنس پر جب اسے ترقی ملے گی تو اس کی تقدم اپنے اصل بیج کے ساتھ متعین ہو گا۔

(ب) جب ایک ہی ریفرنس میں کمیشن سے ایک سے زائد اشخاص کی سفارش کے لیے کہا جائے اور کمیشن بعض دستاویزات کے نامکمل ہونے یا ایسی وجوہات کی بنا پر جو کہ متعلقہ افسران کے بس میں نہ ہوں، کی وجہ سے سفارش روک لیتا ہے اور بعد ازاں جب انھیں سفارشات موصول ہو جاتی ہیں تو ان سفارشات کو پہلی سفارشات منظور کیا جائے گا۔

۲۔ ان قواعد پر عمومی طور پر عمل ہو گا ماسوائے ان کے جہاں پہلے سے یہ قواعد

موجود ہوں تو وہاں ان کے مطابق کارروائی ہوگی۔

۳۔ ان نظر ثانی شدہ تقدی قواعد کا پہلے سے موجود قواعد کے مطابق ترقی مستقل وغیرہ پر اثر نہیں پڑے گا۔

(عملہ ڈویژن دفتری یادداشت نمبر ۳۵، ۳۶، ۳۷- ڈی ۱۱ مورخہ ۳ مئی ۱۹۹۳ء)

۳۔ تقدم کے عام اصول

کئی عام اصول برائے تعین، تقدم و وزارتوں، ڈویژنوں کو عملہ ڈویژن کی دفتری یادداشت نمبر ۵۶، ۵۷- ڈی ۱۱ مورخہ ۱۹ نومبر ۱۹۶۳ (نمبر شمارہ ۱) اور نمبر ۳۵، ۳۶- ڈی ۱۱ مورخہ ۶ نومبر ۱۹۶۳ (نمبر شمارہ ۲) کے ذریعے سے ارسال کیے گئے۔ لیکن مشاہدہ و تجزیہ سے اس بات کی ضرورت محسوس کی گئی ہے کہ ان اصولوں کو مزید بہتر اور واضح بنایا جائے۔ خاص طور پر باضابطہ ترقی کو واضح بنایا جائے۔ لہذا وفاقی پبلک سروس کمیشن کے مشورے سے تمام سرکاری ملازمین (کلاس '۱' اور '۱۱') کے تقدم نظر ثانی شدہ حصہ اس دفتری یادداشت کے منسلک کے طور پر طبع کیا گیا ہے۔

۲۔ یہ اصول قابل عمل ہوں گے لیکن جہاں پر پہلے سے عملہ ڈویژن کی جاری کردہ اصول، قوانین یا ہدایات موجود ہیں، خصوصاً "کاؤر اور ملازمت میں تقدم کے تعین اصول" تو وہ قواعد یا ہدایات کے مطابق جاری رہے گا۔

۳۔ مزید اضافہ کیا جاتا ہے کہ تقدم کے تعین کے انفرادی معاملات کی متعلقہ وزارتوں، ڈویژنوں، ذمہ دار ہے۔ البتہ جن معاملات میں تقدم کا تعین کرنا ممکن نہیں اور بعض معاملات مشکوک نظر آتے ہوں تو پھر اسے فیصلہ کے لیے عملہ ڈویژن کو بھیجا جائے البتہ معاملات کو پورے حقائق اور اصولوں کے ساتھ مکمل شکل میں بھیجا جائے۔ عملہ ڈویژن مرکزی پبلک کمیشن کے مشورے سے اس پر جو بھی فیصلہ کرے گا اسے بذریعہ اعلان تمام وزارتوں، ڈویژنوں کو بھی بھیجا جائے گا۔

(عملہ ڈویژن- او- ایم نمبر ۶۹، ۷۰- ڈی ۱۱ مورخہ ۳۱ دسمبر ۱۹۹۱ء) (منسلک او- ایم نمبر

۳۹، ۴۰- ڈی ۱۱ مورخہ ۳۱ دسمبر ۱۹۹۰ء)

(الف) وفاقی پبلک سروس کمیشن کی وساطت سے براہ راست بھرتی ہونے والے ملازمین

۱۔ سی پی ایس سی کی وساطت سے بھرتی ہونے والے وہ افسران جو کمیشن کی جانب سے دیے گئے پہلے عام اشتہار پر آئے وہ ان افسران سے سینئر ہوں گے جو کمیشن کے دوسرے یا بعد میں آنے والے اشتہار پر بھرتی ہوئے۔

۲۔ اگر مرکزی پبلک سروس کمیشن نے ایک اشتہار جواب میں آنے والے دو یا دو سے زائد افسران کی کامیابی پر سفارش کی ہو تو ایسی صورت میں بھرتی ہونے والے افسران کے مابین تقدم کا تعین کمیشن کی جانب سے تیار کردہ میرٹ کے حساب سے ہوگا۔

۳۔ اگر عام اشتہار پر کمیشن صرف ایک امیدوار کو منتخب کرتا ہے تو اس صورت میں وہ افسران تقدم کمیشن کی طرف سے کی گئی سفارش کی تاریخ یا اس اسامی پر رپورٹ کرنے کی تاریخ جو بھی بعد میں ہو، سے شمار کرے گا۔

(الف) اگر وہ افسر پہلے سے فی الواقع بنیاد پر اس اسامی پر فائز تھا تو پھر اس کا تقدم کمیشن کی طرف سے کی گئی سفارش کی تاریخ سے شمار ہوگا۔

(ب) اگر وہ شخص پہلے سے کمیشن کی جانب سے سفارش کردہ اسامی پر فائز نہ تھا بلکہ کمیشن کی سفارش کے بعد اس اسامی پر فائز ہوا ہے تو پھر اس اسامی پر اس کا تقدم ڈیوٹی کے لیے رپورٹ کرنے کی تاریخ سے شمار ہوگا۔

(ب) محکمہ ترقی پر منتخب ہونے والے افسران

۱۔ سلیکشن بورڈ ڈی پی ایس سی پی ایس کی منظوری سے اوپر کے سکیل میں ترقی پانے والے وہ افسران ان افسران سے مقدم ٹھہریں گے جو ان سے بعد کی تاریخوں میں ترقی کے لیے سفارش کیے گئے ہوں۔ مگر شرط یہ ہے کہ۔

(الف) اگر کوئی ترقی کے اہل افسر کا نام غلطی سے پہلے ریفرنس سے رہ گیا

اور اس کی جگہ دوسرا افسر ترقی پا گیا ہو تو دوسرے ریفرنس پر کامیاب ہونے والے افسران کو تقدم کے لحاظ سے اپنے اصل رتبع میں شامل تصور کیا جائے گا۔

(ب) اگر ایک ہی ریفرنس پر ایک سے زائد افسران کی 'سلیکشن بورڈ' پٹی ایئر سی پی ایس کو 'سفارش کرنا ہو اور وہ سفارش فی الوقت بعض دستاویزات وغیرہ کے نامکمل ہونے کی بنا پر روک دی جائے اور ان دستاویزات وغیرہ کی فراہمی متعلقہ افسران کے بس سے باہر ہو تو پھر بعد میں کی گئی سفارش کو اصل رتبع کے سفارش کردہ دن سے ہی شمار کیا جائے گا۔

۲۔ اگر حاکم مجاز، منظوری حسب قاعدہ ایک ہی رتبع کے افسران کو اعلیٰ گریڈ میں ترقی دینے کے لیے دیتا ہے تو ان کا تقدم جو نچلے گریڈ پر تھا، جاری رہے گا اور اگر دو یا زائد افسران کی پہلے گریڈ پر تقرری کی تاریخ ایک ہو اور ان کے تقدم کے لیے کوئی اصول کارگرنہ ہو تو پھر ان میں جو عمر میں بڑا ہو گا اس کو سینئر تصور کیا جائے گا۔

۳۔ محکماتہ ترقی پانے والے افسران کے تقدم کا تعین ان کی باقاعدہ ترقی کی تاریخ سے ہو گا۔ لفظ باقاعدہ سے مراد۔

(الف) اگلے سکیل میں ترقیاں اس اسامی میں محکماتہ ترقی کے لیے مخصوص کردہ کوئٹہ سے کی گئی ہیں اور وہ مجوزہ روٹ کے مطابق کی گئی ہیں۔

(ب) کہ ترقی بھرتی کے لیے مجوزہ قواعد کے مطابق کی گئی ہیں جو یہ ہیں - محکماتہ کمیٹی برائے ترقی کی سفارش پر یا سلیکشن بورڈ کی سفارش یا وفاقی پبلک سروس کمیشن کے مشورے (جہاں ضروری ہو) قواعد مشورہ کے تحت اور حاکم مجاز کی منظوری سے اور

(ج) اوپر کے سکیل میں کی جانے والی ترقیاں محکماتہ ترقی کے لیے مخصوص کردہ کوئٹہ کے مطابق کی گئی ہیں اور اس مختص کردہ کوئٹہ سے اگر خاص وجوہ کی بنا پر تجاوز کیا گیا ہو تو ایسے افسر کا تقدم مختص کوئٹہ کے مطابق کی گئی ترقی

پانے والے افسران کے ساتھ شمار نہیں ہو گا لیکن ان تاریخوں یا تاریخ سے ہو گا جب کوئٹہ کے لحاظ سے درست طور پر ترقی ہو گی۔

(ج) محکماتہ ترقی پانے والے افسران اور براہ راست بھرتی ہونے والے افسران کے مابین۔

ایسے آفیسرز جن کی اوپر کے سکیل میں ترقی حسب ضابطہ کے انتظام کے تسلسل میں مخصوص سال میں ہوئی ہو وہ اس سال براہ راست بھرتی ہونے والے افسران سے بلحاظ کلاس سینئر کہلائیں گے۔

۵۔ بلحاظ سکیل فہرست تقدم کی تیاری

زیر دستخطی کو سرکاری ملازمین کے ایکٹ ۱۹۷۳ء کی دفعہ ۸ کے مطابق تمام مرکزی ملازمین کی فہرست تقدم تیار کرنا ضروری ہے، کا حوالہ دینے اور یہ کہنے کی ہدایت کی گئی ہے کہ قواعد ملازمت پاکستان (نظام تسمیہ میں تبدیلی) ۱۹۷۳ء اور قواعد دیوانی ملازمین (نظام میں تبدیلی اور درجہ بندی کی منسوخی) ۱۹۷۳ء کے نفاذ کے بعد پہلے سے بنائی گئی ملازمتیں ختم کر دی گئی ہیں۔ اب تمام وفاقی ملازمین اور ایسے افسران جن کا تعلق سابقہ ملازمتوں سے پہلے کی تقدیمی فہرستیں سکیل وار مرتب کی جائیں۔ بذریعہ ترقی تقریروں کی صورت میں خاص سکیل میں تقدم کا تعین دیوانی ملازمین کے قواعد مجزیہ ۱۹۷۳ء کی دفعہ حصہ ۸ کی ذیلی شق (۴) کے مطابق کیا جائے گا۔ اگر افسران کو ایک رتبع میں مجوزہ قواعد کے مطابق اگلے گریڈ میں ترقی دی جائے تو ان کا تقدم نچلے سکیل میں تقدم کے مطابق برقرار رہے گا۔ اور اگر بروقت دونوں طرح کے افسران یعنی براہ راست بھرتی ہونے والے اور محکماتہ ترقی کے ذریعے اسامی پر فائز ہونے والے افسران موجود ہوں تو ان کے مابین تقدم کا تعین عملہ ڈویژن کی دفتری یا دواشت نمبر ۱۹۱۹/۴۹- ڈی ۱- مورخہ ۳۱ دسمبر ۱۹۷۰ء کے مطابق کیا جائے گا۔ اس کے مطابق باقاعدہ نظام کے مطابق تسلسل میں مخصوص سال میں ترقی پانے والے افسران، براہ

راست آنے والے افسران جو کہ اس سال بھرتی ہوئے ہوں سے بلحاظ درجہ سینئر ہوں گے۔

۲۔ پورے پاکستان کے سکیل ۱۸ اور اس سے بالا سکیل کی فہرست 'عملہ ڈویژن' جاری کر چکا ہے۔ وفاقی یونیٹس سکیلوں کے سلسلے میں تمام پیشہ وارانہ گروپوں کی بلحاظ سکیل فہرست تیار کریں۔ کنکشنل گروپوں اور متعلقہ انتظامی وزارتوں/ڈویژنوں کے نام۔

نام پیشہ وارانہ گروپ	نام ملازمت	متعلقہ وزارت/ڈویژن
۱۔ گروپ امور خارجہ	بشمول اسامیاں زیر وزارت خارجہ	وزارت خارجہ
۲۔ اکاؤنٹس گروپ	پی۔ اے۔ اے ایس، پی ایس	ناظم حسابات وزارت خزانہ
۳۔ وفاقی ریونیو گروپ	اے ایس اور پی آر، اے ایس	وزارت خزانہ
براہ راست تقرری	پاکستان ایکسچینج سروس	وزارت خزانہ
۴۔ وفاقی ریونیو (بالواسطہ ٹیکس گروپ)	پاکستان ابتدا ایک ٹر	وزارت خزانہ
۵۔ کامرس گروپ	پاکستان کی ٹریڈ سروس	وزارت خارجہ
۶۔ انفارمیشن گروپ	پاکستان انفارمیشن سروس	وزارت اطلاعات و نشریات
۷۔ سیکرٹریٹ گروپ	مرکزی سیکرٹریٹ سروس	عملہ ڈویژن
۸۔ پوسٹل گروپ	پاکستان پوسٹل سروس	وزارت مواصلات
۹۔ کٹونمنٹ مینجمنٹ گروپ	پاکستان ملٹری لینڈز اینڈ کٹونمنٹ سروس	وزارت دفاع
۱۰۔ ریلوے (کمرشل اینڈ ٹرانسپورٹیشن) گروپ	پاکستان ریلوے سروس	ریلوے ڈویژن

گریڈیشن لسٹ تیار کرنے کے لیے ایک (پروفارما) نمونہ منسلک ہے۔ دوسرے گروپوں کے نام بعد میں ارسال کیے جائیں گے۔

۳۔ گریڈیشن لسٹ کو پہلے مرحلے میں متعلقہ افسران کو بھیجا جائے، ان کی طرف سے اعتراضات یا غلطیوں کی نشاندہی پر اسے درست کیا جائے اور پھر عملہ ڈویژن کے مشورے سے اسے تیار کیا جائے۔ اس فہرست کو حتمی فہرست کے طور پر جاری کیا جائے گا۔

۴۔ فہرست کی ابتدائی نقل عملہ ڈویژن کو بھیجی جائے اور اس کے بعد حوالہ جات کی روشنی میں تہج شدہ فہرست کو لچلت مکہ مکمل کیا جائے۔ (عملہ ڈویژن او۔ ایم۔ نمبر ۸۹/۷۳۔ اے آر سی، مورخہ ۱۳ اکتوبر ۱۹۷۳ء)

بلحاظ سکیل فہرست تقدم کی تیاری

زیر دستخطی کو عملہ ڈویژن کے او۔ ایم نمبر ۸۹/۷۳۔ اے آر سی مورخہ ۱۳ ستمبر ۱۹۷۳ء (نمبر شمار نمبر ۴) جس میں وزارتوں/ڈویژنوں سے سکیل وار تقدی فہرست تیار کرنے کی درخواست کی گئی تھی جس کی رو سے بذریعہ ترقی اسامی پر قائل ہونے والے افسران کے تقدم کا تعین سول ملازمین ایکٹ ۱۹۷۳ء کی دفعہ ۸ کی ذیلی شق (۴) کے تحت کرنا ہے۔

۲۔ عملہ ڈویژن کو وزارتوں/ڈویژنوں سے متعدد حوالہ جات موصول ہوئے ہیں جن میں یہ دریافت کیا گیا ہے کہ کیا پہلے سے موجود ضوابط کے مطابق تعین کردہ تقدم نئے قواعد سے مختلف ہے اور کیا انھیں سول ملازمین ایکٹ ۱۹۷۳ء کی دفعہ ۸ کی شق (۴) کے مطابق تبدیل کیا جاسکتا ہے؟

اس معاملے کا قانون ڈویژن کے مشورے سے جائزہ لیا گیا ہے۔ صورت حال یہ ہے کہ انتظامی اصلاحات کے تحت کئی کلار پیشہ وارانہ گروپوں میں تبدیل ہو گئے ہیں لیکن کیڈرز کے ملاپ سے گروپوں کی صورت جوں کی توں ہے، مثلاً "انکم ٹیکس گروپ"، کسٹم اینڈ ایکسائز گروپ، ملٹری اینڈ لینڈ کٹونمنٹ گروپ وغیرہ۔ البتہ کئی دوسرے گروپوں کے معاملے میں، مثلاً "اکاؤنٹس گروپ" اور "سیکرٹریٹ گروپ" میں متعدد کیڈرز کے ملاپ سے ایک نیا گروپ یا کلار بن گیا ہے اسے

گروپوں کی صورت میں جہاں کاڈر آپس میں مدغم نہیں ہوئے اور ان کا تقدم سابقہ قواعد کے مطابق یعنی سول ملازمین آڈٹ - ایس ۱۹۷۳ء (۱۵-۸-۱۹۷۳) کے نفاذ سے قبل، ان کا تقدم متاثر نہیں ہو گا۔ البتہ ایسے افسران جو اوپر کے سکیل میں ۱۵-۸-۱۹۷۵ء کے بعد ترقی پر گئے ہیں، کے تقدم کا تعین ہر صورت سول ملازمین ایکٹ ۱۹۷۳ء کی دفعہ ۸ کی ذیلی شق (۴) کے مطابق ہو گا۔

۳- پیشہ ورانہ گروپ جو کہ ایک سے زائد کاڈرز کے اوقات سے وجود میں آیا ہے، کو ان قواعد کے تحت تحفظ نہیں دیا گیا۔ ان کے تقدم کا تعین ان کی باقاعدہ اسامی پر تقرری کی تاریخ سے ہو گا۔

۴- عملہ ڈویژن کے او۔ ایم۔ نمبر ۱۹۸۱-۷۳ - اے آر سی مورخہ ۱۳-۹-۷۴ اور متعلقہ ہدایات الہیت پیشہ ورانہ گروپوں کی تشکیل کو ترمیم شدہ قواعد ہی تصور کیا جائے۔

(عملہ ڈویژن او۔ ایم نمبر ۱۹۸۱-۷۵ - ڈی، مورخہ یکم ستمبر ۱۹۷۵ء)

سائنسی طریقے سے انتظام کی تحریک جو کہ انیسویں صدی میں امریکہ میں شروع ہوئی، نے پبلک ایڈمنسٹریشن کے مطالعہ کو اہمیت کا حامل بنا دیا۔ ایف۔ ڈبلیو ٹیلر جو اس تحریک کا بانی تھا، کے پیش روؤں نے سرکاری محکمہ جات کو چلانے کے لیے کچھ اصول وضع کیے جس نے اس مضمون کے مطالعہ کو جلا بخشی۔

ایک اور عنصر جس نے اس مضمون کی نشوونما میں اضافہ کیا وہ ہے ریاستی بہبود کا تصور۔ اس تحریک نے پبلک ایڈمنسٹریشن کو سماجی بہبود کا ایک بڑا ہتھیار بنا دیا۔ سوشل سائنس کے مطالعہ نے بھی اس مضمون کی ترقی میں اہم کردار ادا کیا۔ اس نصف صدی میں سوشیالوجی، سوشل سائیکالوجی، انتھراپالوجی کے مضمون بھی سامنے آئے ہیں اور اس دوران سماجی مسائل معلوم کرنے کے لیے باہمی انتظامی کارروائیوں کا رجحان بڑھا ہے جس نے پبلک ایڈمنسٹریشن اور انتظام کاروبار کے معنوں کو ترقی دی ہے۔ حکومت اور انتظامیہ کوئی نئی ایجادات نہیں ہیں۔ یہ اتنی ہی پرانی ہیں جتنی کہ انسانوں کے بڑے بڑے گروہوں میں رہنے کی تاریخ ہے۔ ہزاروں سال سے، جب سے تاریخ لکھی جا رہی ہے، فن حکومت اور انتظامیہ، انسانی سوسائٹی کے لیے ضروری رہے ہیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن میں کیا نئی چیزیں ہیں؟ تین چیزیں نئی ہیں۔ اس کے مقاصد مکمل طور پر بدل چکے ہیں۔ اس کے کاروبار میں بہت اضافہ ہو چکا ہے۔ اس کے طریق کار نئے خطوط پر چلانے کی ضرورت ہے اور یہ سب بڑے منظم انداز اور تجربے سے ممکن ہے۔

ایڈمنسٹریشن کے مقاصد بڑے وسیع ہیں کیونکہ بدلتے ہوئے حالات اور ریاست کے انقلابی اقدامات جدت طلب ہیں۔ آج معاشی اور سماجی اقدار بدل چکی ہیں اور اب ان کو پہلی پوزیشن میں نہیں رکھا جاسکتا۔

۲- انتظام عملہ (پرسائل ایڈمنسٹریشن)

تعریف

انتظام عملہ (پرسائل ایڈمنسٹریشن) نئے ملازمین کو منتخب کرنے اور پرانے کارکنان

سے کام لینے کا ایک فن ہے جس سے عملہ سے بہتر اور بہتر اور زیادہ مقدار میں کام لیا جاتا ہے۔

یہ اہلیت، انسانی رشتوں اور مقاصد کو یک جا کر دیتی ہے۔ اہلیت کام کی خوبی اور مقدار سے معلوم کی جاتی ہے اور ملازمین کو بہترین کام کرنے کی ترغیب دی جاتی ہے۔ اگر خراب لوگوں پر نظر نہ رکھی جائے اور دیئے گئے قواعد و ضوابط اور اصولوں سے انحراف کی اجازت دی جائے تو پھر مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے، علیٰ ہذا القیاس پرسنل ایڈمنسٹریشن کا تصور ایک بہت اچھی فوج ہے جو حکومت کو جدید انداز سے چلاتی ہے۔

انتظامیہ

۱۔ تعارف

لفظ ایڈمنسٹریشن ایک لاطینی لفظ سے لیا گیا ہے جس کے معنی خدمت کرنے کے ہیں۔ لیکن اس کے معروف معنی ہیں: معاملات کا انتظام کرنا یا لوگوں کی دیکھ بھال کرنا۔ ایڈمنسٹریشن انسانی، اجتماعی سرگرمیوں کا مناسب انتظام ہے۔ تعریف کاروں نے ایڈمنسٹریشن کی تعریف اس طرح کی ہے کہ جیسے مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے انسانی و مادی وسائل کا درست استعمال۔ ایڈمنسٹریشن ایسی اجتماعی انتظامی سرگرمیاں ہیں جو حصول مقصد کے لیے ہوں۔ یہ ایک خاص منزل، مقصد کے حصول کے لیے شائستہ عمل اور سعی ہے۔۔۔۔ ہر اجتماعی سرگرمی کو ایڈمنسٹریشن نہیں کہا جا سکتا۔ جب سکول کے دو لڑکے کلاس روم کے فرنیچر کے ٹکڑے کو مخالف سمتوں میں گھسیٹ رہے ہوں تو اس کو ایڈمنسٹریشن نہیں کہتے۔ ایڈمنسٹریشن حرف ایک قسم کی سرگرمی ہے جس میں انسانی و مادی توازن کے ساتھ شائستہ و منظم انتظام کار فرما ہو۔ پبلک ایڈمنسٹریشن میں وہ تمام سرگرمیاں شامل ہیں جو مشترکہ مقصد کے حصول کے لیے کی جاتی ہیں۔ پبلک ایڈمنسٹریشن کو سمجھنے کے لیے کئی عوامل کو سامنے رکھنا پڑتا ہے۔ پہلا عنصر سائنس و ٹیکنالوجی کی ترقی اور اس کے لوگوں کی زندگی پر اثر اور پھر حکومت کی سرگرمیاں سب سے اہم عنصر ہیں۔

- اس تعریف سے ایک وسیع پرسنل پروگرام درج ذیل پر زور دیتا ہے:-
- ۱۔ پرسنل پروگرام کو چلانے کے لیے ایک مضبوط تنظیم کی ترقی، جس میں حصہ لینے والے تمام افراد کی ذمہ داریاں واضح طور پر متعین کر دی جاتی ہیں۔
 - ۲۔ ایک منظم اور چمکدار ترتیب اور منصفانہ نظام تنخواہ، جو پرائیویٹ سیکٹرز کے سخت مقابلے کو پیش نظر رکھ کر قائم کیا جائے۔
 - ۳۔ بھرتی کے لیے ایک اچھا تشکیل کردہ منصوبہ اور بیجانی اور تصوراتی طریقے پر اچھے امیدواروں کے لیے کشش پیدا کرنا۔
 - ۴۔ انتخاب کا ایک پروتار طریقہ: جس سے اہلیت کے حامل موزوں امیدوار ہی منتخب ہوں اور ان کی تعیناتی ہو جو اس اسامی کے لیے نہایت موزوں ہوں۔
 - ۵۔ زیر ملازمت تربیت کا جامع پروگرام: جس کا مقصد ملازمین کی صلاحیت کار اور فن کو بڑھانا، ان کے اخلاص و حوصلہ کو بڑھانا اور انہیں آگے ترقی کے لیے تیار کرنا۔
 - ۶۔ ملازمین کی اہلیت کی میعادنی پرکھ: تاکہ ملازمین اپنی صلاحیت کار کو بہتر بنائیں اور اپنے کام میں مہارت پیدا کریں۔
 - ۷۔ میرٹ کے اصول کی بنیاد پر امیدواروں کی ترقی کا منصوبہ: جس سے ملازمین کو اپنا مستقبل روشن نظر آئے اور جو اچھے لوگوں کو ملازمت میں لائے اور ان کی اچھی کارکردگی انہیں اعلیٰ ترین عہدے تک پہنچائے۔

۸۔ انسانی تعلقات میں نگرانی کے فن کو بڑھانے کی مسلسل کوششیں اور عمومی طور پر مشعلات انسانی کے عوامل کی طرف بھرپور توجہ کو یقینی بنانا۔
۹۔ ملازمین کے اخلاق، حوصلہ اور نظم و ضبط کو اونچا رکھنے کا مکمل منصوبہ:
انتظامیہ عملہ، فراہمی، ترقی، مراعات، سالمیت، برقراری اور انسانی ذرائع کو جدا کرنے کی منصوبہ بندی، تنظیم، ہدایت اور کنٹرول کرنا ہے جس سے انفرادی، تنظیمی اور اجتماعی مقاصد کی تکمیل ہو۔ اس تعریف کا مختصر خلاصہ درج ذیل ہے:-

منصوبہ بندی

سے مراد پیشگی انتظام عملہ کا پروگرام ہے جو انسانی ذرائع اور مہارت کو مطلوبہ نتائج کے حصول کے لیے اپنا کردار ادا کرتا ہے۔

انتظام

منیجر عملہ ایک تنظیم کا ڈھانچہ بناتا ہے جس میں مختلف کاموں، عملہ اور موجودہ عوامل کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اس میں ہر ایک کو خصوصی مہارت کے پونٹ اور دوسری تنظیم کے قوانین تعلق سے واقف ہونا چاہیے۔

کنٹرول کرنا

کام کا اس طرح مشاہدہ کرنا کہ آیا یہ پروگرام کے مطابق ہو رہا ہے یا نہیں اور پروگرام سے مختلف ہونے کی صورت میں معاملات کا پروگرام کے مطابق ترمیم کرنا۔

فراہمی

ادارہ کے مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے عملہ کی ضروریات کی درست فراہمی، انسانی وسائل کا اندازہ اور ضروریات کا تعین کرنے کے بعد ہی ذمہ داری کا تعین کیا جائے۔

ترقی

صلاحیت کار کو ضروری تربیت کے ذریعے بڑھانا اور یہ سلسلہ مسلسل جاری رہنے دیا جائے تاکہ جدید ٹیکنالوجی کی موجودگی میں کام کو مطلوبہ معیار کے مطابق چلایا جاسکے۔

معاوضہ

ملازمین کی ادارے کے مقاصد کے حصول میں کارکردگی اور شمولیت کو سامنے رکھ کر مقرر کرنا اور موجودہ اجرتی نظام، پالیسیوں اور زائد معاوضہ کے پروگرام وغیرہ بنانا۔

ایمانداری

کوشش کرنا جس سے افراد متعلقہ اور تنظیم کا فائدہ ہو۔ افراد اور سوسائٹی کے مفادات اور متعلقہ پالیسیوں کو مسلسل بدلتے حالات و واقعات کے مطابق ڈھالنا اور قواعد و ضوابط تشکیل دینے کی ایمانداری کو پیش کرنا۔
معاملات کی درست سمت برقرار رکھنا اور رضا کارانہ طور پر کام کرنے والی فورس رکھنا تاکہ مملکت کے کام صحیح طور پر چلتے رہیں۔

جلیبندی

سوسائٹی کو افراد کا واپس کرنا ہے۔ فارغ التحصیلی، دوسری جگہ بھیجنا اور فارغ کرنا وغیرہ۔

۳۔ انتظام عملہ کیوں؟

۱۔ ایک انتظامی ڈھانچہ فقط مخصوص مقصد کے لیے جستجو و حصول کے لیے رکھے گئے افراد کا انتظام ہے۔ اس کے لیے مطالعہ عملہ سرکاری انتظامیہ کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔

۲۔ مطالعہ عملہ جتنا اہم ہے اتنا ہی مشکل ہے۔ یہ مشکل اس لیے ہے کہ پہلے تو ہمیں انسانی مسائل کے ساتھ نینٹا ہوتا ہے جب کہ مطالعہ کے دوسرے حصوں میں ہمارا تعلق مادی مسائل سے ہے جیسے کہ تکنیک اور طریق کار۔ اس لیے جب ایک طرف سوالات کو حکومت کے نقطہ نظر سے دیکھا جاتا ہے وہاں انھیں تین مختلف پہلوؤں سے دیکھا جاتا ہے یعنی حکومت، ملازمین اور عوام جو کہ یکس دہندوں کے نقطہ نظر سے۔ دوسری طرف کسی انتظامیہ کی اہمیت کا انحصار عملہ کی نوعیت پر ہوتا ہے۔ لیکن نے سچ کہا تھا کہ ”حکمرانوں کے لیے معاملات سے متعلق ایسی مشاورت بے سود ہوگی جو غیر متعلقہ اشخاص سے لی جائے گی اور انتظام و انصرام کا انحصار اچھے اشخاص کے انتخاب پر ہے۔“۔۔۔۔۔ اس طرح ڈاکٹر ایچ فائز کہتے ہیں کہ ”عملہ تیر ہدف دوا ہے۔ اگر مرد اور عورتیں اپنے کام میں کافی ماہر ہوں تو وہ جڑے، الجھے ہوئے اور انتہائی شکستہ حدود و ہدف کو زندگی بخش سکتے ہیں۔“

سرکاری انتظامیہ میں عملہ کی حیثیت سلطان جیسی ہے۔ پالیسی بنانے میں خواہش اور دماغ کو بنیادی حیثیت حاصل ہے اور تکنیک کام میں معاونت کرتی ہے۔ لیکن صرف بہترین افراد کا انتخاب ہی کاروبار کو کامیاب نہیں بناتا بلکہ اس سلسلے میں متعلقہ انفرادی قوت کا درست استعمال ضروری ہے۔ یہ صرف عملہ کے امور و نوعیت کا معاملہ نہیں ہے بلکہ اور مسائل بھی ہیں جو طلبہ کے لیے پبلک ایڈمنسٹریشن کے گہرے مطالعے کا تقاضا کرتے ہیں۔

۳۔ تمام مذہب ممالک میں ملازمت ہائے سرکاری میں اچانک اتنا اضافہ ہو گیا ہے کہ جمہوری روایات کے دلدادوں نے ان کے لیے نئے انفرادی آزادانہ انداز سے سوچنا شروع کر دیا ہے۔ ۱۹۳۶ء - ۱۹۳۷ء میں سے انگلینڈ میں ۵۹۲ ملین کی تنخواہ پر تقریباً ایک ملین ملازمین تھے جب کہ اس وقت اس کی مجموعی آبادی ۳۵۷۷۸ ملین تھی۔ لہذا وہاں پر ۵۶۷۸ انگریزوں کے لیے ایک سرکاری ملازم تھا۔ اس وقت یو۔ ایس۔ اے کے پاس ۶۳۸، ۲۸، ۲۱ سرکاری ملازمین صرف مرکزی ملازمت میں تھے جب کہ اس کی آبادی ۱۳۶ ملین تھی۔ یہ اندازہ لگایا گیا

ہے کہ اگر ریاست اور مقامی حکومت کے ملازمین کا شمار کیا جائے تو یو ایس اے، فرانس اور یو ایس آئی ایس آر جیسے ممالک میں ہر آٹھواں، نواں، بالغ فرد سرکاری ملازم ہو گا۔ قانونی حدود کے نقطہ نظر سے دیکھتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ شہریوں کی بہت کم سرگرمیاں سرکاری انتظامیہ کے دائرہ سے باہر ہیں۔ بلاشبہ جمہوری ممالک میں غیر سرکاری اقدام کی بھی اہمیت ہے لیکن ان ممالک میں بھی حکومت کے اختیارات اور ہاتھ مضبوط ہیں۔

۴۔ جدید ریاست کے کاروبار کا زیادہ حصہ انتظامی ایجنسیوں کے ذریعہ انجام پاتا ہے لیکن اس کا بہت سا کام اتنی دہری سے نہیں کیا جاتا لیکن اس میں امتیاز موجود ہوتا ہے۔ یہ پبلک پالیسیوں اور سیاسی نتائج کے مطابق عمل درآمد پر کام کرتے ہیں۔ جمہوریت میں اس کا مطلب ہے کہ پبلک ایڈمنسٹریشن تمام لوگوں کی ایجنسی ہے۔ اس لیے حکومت کو ملک کی انتظامی ایجنسیوں کو چلانے کے لیے آدمیوں کی ضرورت ہے۔ یہ افراد انتظامی مشینری کو چلانے والی ایجنسیاں ہیں۔ ماہر معاشیات، انٹیکپرز، انجینئرز وغیرہ۔۔۔ کا بڑا کام سوسائٹی کے مختلف شعبوں میں افراد کے استعمال و ضروریات کے لیے، ایشیا خدمات پیدا کرنا اور سولت پیدا کرنا ہے۔

۵۔ وسیع معنوں میں نختمین ملک کی ملازمت میں سول ملازم ہیں۔ سرکاری ملازمین کی اس بڑی تعداد کے لیے انتظام عملہ کی ضرورت ہے۔

۶۔ انتظام عملہ کا کلیتاً تعلق آرگنائزیشن کے انسانی وسائل سے ہے۔

۷۔ انتظام عملہ کا شاہانہ نظام

۱۔ یہ نظام انگلینڈ میں متعارف ہوا اور پھر انڈیا، فرانس اور دوسرے مغربی جمہوری ممالک میں اسے اپنایا گیا۔ اس نظام کی جڑیں انگلینڈ کی اٹھارویں صدی کے شاہانہ جمہوری نظام میں ہیں اور یہ یو ایس اے کے نظام سے کم جمہوری ہے اس لیے اسے شاہانہ نظام کہا گیا ہے۔

۲۔ اس نظام کی امتیازی پہچان یہ ہے کہ اس میں عملہ کو نچلے سکیل سے اوپر کے سکیل میں ترقی سے محروم رکھا گیا ہے یا پھر سخت پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ انگلینڈ

میں سرکاری ملازمتوں کو انتظامی اور ایگزیکٹو کلاسوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔
 ایٹیا میں بھی انتظامی سیکرٹریل اور ایگزیکٹو ملازمتوں کو علیحدہ کیا گیا ہے۔ فرانس
 میں بھی سول انتظامیہ (جو کہ برطانیہ کی انتظامی کلاس سے خط و کتابت کرتی ہیں)
 اور انتظامیہ کے معتمدین (جو کہ برطانیہ کی ایگزیکٹو کلاس کے ساتھ خط و کتابت
 کرتے ہیں)۔

۳۔ انتظامیہ یا آفیسر کلاس میں مزید چیف ایڈمنسٹریٹرز یا اعلیٰ ملازمین کلاس اور
 انتظامی کلاس میں تقسیم کی گئی ہے۔ پہلی کیسگری اعلیٰ ترین مستقل ملازمین کی
 ہے جو پبلسک چیف اور انتظامی سربراہوں کے درمیان رابطہ کا ذریعہ ہیں۔ یہ
 انتظامی چیف کہلاتے ہیں جو پبلسک چیف کا سامنا کرتے ہیں۔ ان کی تقرری
 انتظام اور ترقی وغیرہ سول سروس رولز کے تابع نہیں ہے بلکہ ان کا انحصار چیف
 ایگزیکٹو کی صوابدید پر ہے۔

اس کی تھیوری یہ ہے کہ ان کی تعلیم کا معیار ان کا ذاتی کردار ہوتا ہے۔
 اس کا کوئی انتظامی تجربہ نہیں ہوتا جو عموماً انتظامی امور کے لیے ہوتا ہے بلکہ
 ان سے دوسری طرح کی توقعات وابستہ ہوتی ہیں۔ اسے وزراء کے ساتھ پالیسی
 سازی اور وزارت کی انتظامی سرگرمیوں میں تعاون کرنا ہوتا ہے۔ عام طور پر
 انتظامی افسران سے ان کا تقرر ہوتا ہے لیکن وقتی طور پر باہر سے بھی لے لیے
 جاتے ہیں۔

۵۔ انتظام عملہ کے بنیادی اصول

انتظام عملہ جدید انتظام کی کافی باتیں جو کہ اس کے بنیادی اصول ہیں، مشترک
 ہیں۔ وہ یہ ہیں:-

(۱) میعادی نظام (۲) معیاری نظام (۳) ملازمت سرکار بطور پیشہ اور نظام قسم
 بندی۔

۱۔ میعادی نظام

نظام عملہ کی کوئی بھی قسم ہو، اس کے ملازمین کی میعاد کا تعین کیا جاتا ہے۔

میعادی نظام تین اقسام کے ہوتے ہیں۔

(۱) حاکم مجاز تقرری کی مرضی صوابدید پر میعاد۔ اس صورت میں حاکم مجاز کو
 ملازم رکھنے اور اس سے کام لینے کے پورے اختیارات حاصل ہوتے ہیں
 اور یہ سسٹم عموماً "پرائیویٹ اداروں میں رائج ہے۔

(۲) منتخبہ سالوں کے حساب سے مقرر کردہ میعاد مثلاً "پانچ سال یا سات
 سال۔ یہ سسٹم عموماً "منتخبہ دفاتر میں پایا جاتا ہے۔ جیسے قانون ساز اداروں
 کے ممبران یا اعلیٰ عہدوں کے ملازمین۔

(۳) ایسے برتاؤ کی میعاد اور میعاد زندگی۔ جہاں تک انتظامی ملازمتوں کا تعلق
 ہے۔ یہ پہلا نظام اس کو اس نہیں آتا۔ اس سے ملازمین کو مشکلات کا
 سامنا کرنا پڑتا ہے اور نا انصافی سے نوکری سے فارغ کر دینے پر مشکل پیش
 آتی ہے اور دوسری طرف انتظامیہ میں بے اعتمادی اور کمزوری پیدا
 ہوتی ہے۔

منتظم ملازمین میں زیادہ دیر تک تصور آزادی اور غیر جانبداری پیدا
 نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے سروں پر نوکری سے فارغ ہونے کی گوارا لنگ
 رہی ہوتی ہے۔

دوسرا سسٹم سیاسی دفاتر کی حد تک کامیاب ہو سکتا ہے لیکن انتظامی
 دفاتر کو موافق نہیں آتا کیونکہ اس کی شرائط قابل لوگوں کو اپنی طرف نہ تو
 راغب کرتی ہیں اور نہ ہی خصوصی مہارت کو موقع ملتا ہے۔ جس کی انتظامی
 امور میں بڑی اہمیت ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ عموماً "ملازمین کے دل
 میں یہ بات رہتی ہے کہ ان کے اس دفتر میں گئے چنے دن ہیں۔ اچھے برتاؤ
 کا نظام نہ صرف ان خامیوں کا ازالہ کرتا ہے بلکہ اس میں درج ذیل اضافی
 فائدے بھی ہیں۔ یہ ملازمین کی اہلیت کو بڑھاتا ہے اور ملازمین سرکاری
 ملازمت کو ایک مستقل ملازمت تصور کرتے ہیں اور اپنے مستقبل کی سیر کو
 روشن دیکھتے ہیں۔ اس سے یہ باصلاحیت اور باذوق لوگوں کی خدمات حاصل
 کرنے میں معاون ثابت ہوتا ہے۔ اس نظام کو دوسرے دونوں نظاموں پر

فوقیت حاصل ہے۔ یہ نظام دو ہزار سال سے پہلے تک نظر چائیز نے اختیار کیا تھا۔ اب دنیا کے تمام ممالک میں یہ نظام بڑا اعلیٰ نظام ہے۔

۲۔ معیاری نظام

نظام معیار حیات کو قائم کرنے کے لیے یہ پہلی ضرورت ہے کہ ملازم کے انتخاب کے لیے اس کے میرٹ کو معیار بنایا جاتا ہے اور اسے اصطلاحاً "میرٹ کا نظام" کہتے ہیں۔

نظام میرٹ کی مخالفت سے مراد خراب نظام کو لانا ہے جو کہ سیاسی نظام کے تابع ہے اور اس سے سیاسی پارٹیاں فائدہ اٹھاتی ہیں کیونکہ وہ لوگ سیاسی بنیادوں پر بھرتی ہوتے ہیں۔ امریکہ میں یہ نظام اس اصول کی بنیاد پر پسند کیا جاتا ہے کہ وہاں تصور یہ ہے کہ کوئی شخص دفتری معاملے میں دوسرے سے زیادہ حق نہیں رکھتا۔

۳۔ گورنمنٹ ملازمت بطور پیشہ

گورنمنٹ ملازمت کو بطور مستقل پیشہ اپنانے کو سول سروس نظام کی ابتدا کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح ۱۹۲۳ء میں پبلک سروس کمیشن پر قائم کی گئی۔ یو ایس کی ٹیم نے استعمال کی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ سرکاری ملازمت میں مناسب اقدام اٹھائے جائیں گے۔ ملازمت میں داخل ہونے کے لیے ترقی کے امکانات کو روشن بنا کر مرد و

۴۔ نظام قسم بندی

خواتین کو رغبت دلانا۔ پروفیسر ولف جس کی تعریف اس طرح کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا نظام ہے جس کے ذریعے تمام شہریوں کے لیے سرکاری ملازمت میں داخل ہونے کے لیے یکساں مواقع ترقی کے آگے بڑھنے کے اور فارغ التحصیل کے لائسنس میں برابری کی حصہ داری۔

موجودہ پرسنل سسٹم میں پوزیشن ر تقسیم بندی اور تمام پبلک ملازمین کی معیار بندی دو اہم عوامل ہیں۔ پوزیشن کی گروپ بندی کی جاتی ہے تاکہ ملازمت سے مطلوبہ لوازمات، تنخواہ کا مسئلہ، تبادلہ اور وقتاً فوقتاً چھٹی آنے والے دیگر معاملات کو حل کیا جاسکے۔